

سود

سید ابوالاعلیٰ سودووی

اسلام کے پہلے کیشنز (پرائیویٹ) لمبیج
۳۰۱۔ شاہ عالمہ کیری، لاہور

فہرست مضمون

۱۰	عرض ناشر
۱۲	دیباچہ ترتیب جدید
۱۴	تحمیل
۱۸	- اسلام، سرمایہ داری اور اشتراکیت کا اصولی فرق
۱۸	نظام سرمایہ داری
۲۰	نظام اشتراکی
۲۳	نظام اسلامی
۲۶	- اسلامی نظام معاشرت اور اس کے ارکان
۲۶	اکتساب مال کے ذرائع جائز و ناجائز کی تعریق۔
۲۸	مال جمع کرنے کی ممانعت
۲۹	خرج کرنے کا حکم
۳۵	زکوٰۃ
۳۹	قانون و راست
۳۹	غناائم جنگ اور اموال مفتولہ کی تقسیم
۴۱	اقتصاد کا حکم
۴۳	ایک سوال

۴۶	- حرمت سود، سلبی پہلو۔
۴۸	سود کی عقلی توجیہات۔
۴۹	توجیہہ اول۔
۵۰	توجیہہ دوم۔
۵۱	توجیہہ سوم۔
۵۲	توجیہہ چہارم۔
۴۰	شرح سود کی "معقولیت"
۴۳	شرح سود کے دلخواہ۔
۴۷	سود کا معاشی "فائدہ" اور اس کی "ضرورت"
۴۹	کیا سود فی الواقع ضروری اور مفید ہے؟
۷۵	- حرمت سود، ایجادی پہلو۔
۷۵	سود کے اخلاقی و روحانی نقصانات۔
۷۶	تمدنی و اجتماعی نقصانات۔
۷۸	معاشی نقصانات۔
۷۹	اہل حاجت کے قرضے۔
۸۲	کاروباری قرض۔
۸۶	حکومتوں کے ملکی قرضے۔
۹۰	حکومتوں کے بینردنی قرضے۔
۹۳	- جدید بینکنگ
۹۳	ابتدائی تاریخ
۹۶	دوسرام مرحلہ
۱۰۰	تیسرا مرحلہ
۱۰۳	نئائیج۔

۴۔ سود کے متعلق اسلامی احکام

- ۱۰۲ ربوب کا مفہوم۔
 ۱۰۳ جاہلیت کا ریو۔
 ۱۰۴ بیع اور ربوب میں اصولی فرق۔
 ۱۰۵ علقت تحریم
 ۱۰۶ وحدت سود کی شدت
 ۱۰۷ ۷۔ سود کے متعلقات
 ۱۰۸ ربوب الفضل کا مفہوم
 ۱۰۹ ربوب الفضل کے احکام
 ۱۱۰ احکام بالا کا ماحصل
 ۱۱۱ حضرت عمر بن کا قول
 ۱۱۲ فقہا کے اختلافات
 ۱۱۳ جانوروں کے مبادلہ میں تفاصل
 ۱۱۴ ۸۔ معاشی قوانین کی تدوین جدید اور اس کے اصول
 ۱۱۵ تجدید سے پہلے تفکر کی ضرورت
 ۱۱۶ اسلامی قانون میں تجدید کی ضرورت
 ۱۱۷ تجدید کے لیے چند ضروری شرطیں۔
 ۱۱۸ پہلی شرط
 ۱۱۹ دوسری شرط
 ۱۲۰ تیسرا شرط
 ۱۲۱ چوتھی شرط
 ۱۲۲ تخفیفات کے عام اصول
 ۱۲۳ مثلاً سود میں شریعت کی تخفیفات

۹۔ اصلاح کی عملی صورت

۱۵۸	چند غلط فہمیاں
۱۵۸	اصلاح کی راہ میں پہلا قدم
۱۵۹	انسداد سود کے نتائج
۱۶۰	غیر سودی مالیات میں فراہمی قرض کی صورتیں
۱۶۱	شخصی حاجات کے لیے
۱۶۲	کار و باری اغراض کے لیے
۱۶۳	حکومتوں کی غیر نفع آور ضروریات کے لیے
۱۶۴	بین الاقوامی ضروریات کے لیے
۱۶۵	نفع آور اغراض کے لیے سرمایہ کی بہم رسانی
۱۶۶	بنکنگ کی اسلامی صورت

۱۶۷	ضمیمه (۱)
۱۶۸	کیا تجارتی قرضوں پر سود جائز ہے۔
۱۶۹	سید یعقوب شاہ صاحب کا پہلا خط
۱۷۰	جواب
۱۷۱	دوسراء خط
۱۷۲	جواب
۱۷۳	تیسرا خط
۱۷۴	جواب
۱۷۵	چوتھا خط
۱۷۶	جواب
۱۷۷	پنجمہ (۲)

۱۹۸	ادارہ ترقیات اسلامیہ کا سوال نامہ اور اس کا جواب
۱۹۸	سوال نامہ
۲۰۰	جواب
۲۰۰	پہلا سوال
۲۱۶	دوسرा سوال
۲۱۸	تیسرا سوال
۲۱۹	چوتھا سوال
۲۲۰	پانچواں سوال
۲۲۱	چھٹا سوال
۲۲۲	ساتواں سوال
۲۲۳	آٹھواں سوال
۲۲۸	ضیبھہ (۳)
۲۲۸	مشکل سودا اور دارالحرب
۲۲۸	مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی مرحوم کا پہلا مضمون
۲۲۸	غیر اسلامی مقولات کے متعلق اسلامی نقطۂ نظر
۲۳۳	غیر اسلامی حکومتوں میں مسلمانوں کی زندگی کا دستور العمل
۲۳۵	مسلمانوں کی بے نظیر امن پسندی
۲۳۶	بین الاقوامی قانون کا ایک اہم سوال
۲۳۸	اموال مخصوصہ و غیر مخصوصہ اور ان کی اباحت و عدم اباحت
۲۴۲	خود ای المقصود
۲۴۸	دارالحرب میں سود حلال نہیں بلکہ فنے حلال ہے
۲۵۱	فنے اور بچاؤ کی اصطلاح
۲۵۳	فنے سے اکابر قومی جرم ہے

۲۵۳	جینک کا سود
۲۵۶	فے کا نر لینا و ملکی حرم بھی ہے
۲۶۰	اسلامی مکومتوں اور ریاستوں کا حکم مولانا کا دوسرا مضمون
۲۸۱	نتیجہ از مصنف
۲۸۹	مولانا کے دلائل کا خلاصہ
۲۸۲	دلائل مذکورہ پر محمل تبصرہ
۲۸۹	کیا عقود فاسدہ صرف مسلمانوں کے درمیان منسوع ہیں؟
۲۹۵	دارالحرب کی بحث
۲۹۵	قانون اسلامی کے تین شعبے
۲۹۶	اعتقادی قانون
۲۹۹	دستوری قانون
۳۱۲	دارالحرب اور دارالکفر کا اصطلاحی فرق تعلقات غارجیہ کا قانون
۳۱۳	کفار کی اقسام
۳۱۵	(۱) با جگذار
۳۱۵	(۲) معابرین
۳۱۷	(۳) اہل خدر
۳۱۸	(۴) غیر معابرین
۳۲۰	(۵) محاربین
۳۲۳	اموال حربیہ کے مدارج و احکام
۳۲۳	غیریت
۳۲۵	ف

۳۲۵	غنیمت اور لوٹ بھی امتیاز
۳۲۷	دارالحرب میں کفار کے حقوق ملکیت
۳۳۱	مہاجرث گز شہر کا خلاصہ
۳۳۴	مسلمانوں کی جمیعت بمحاذ اخلاف دار
۳۳۵	(۱) دارالاسلام کے مسلمان
۳۳۸	(۲) مستامن مسلمانوں، دارالکفر اور دارالحرب میں
۳۴۳	(۳) دارالکفر اور دارالحرب کی مسلم رعایا
۳۴۸	قول فیصل

پُشْجَرَاللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ

عرض ناشر

سرمایہ دار ادنیٰ نظام نے زندگی کے مختلف شعبوں میں جو بکاڑ پیدا کیا ہے اس کا سب سے بڑا سبب سود ہے۔ ہماری معاشی زندگی میں سود کچھ اس طرح رچا بسا دیا گیا ہے کہ لوگ اس کو معاشی نظام کا ایک لازمی عنصر سمجھنے لگے ہیں اور اس کے بغیر کسی معاشی برگرمی کو ناممکن سمجھتے ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ اب وہ امداد یعنی انتہ مسلمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سود مٹانے کے لیے مأمور کیا تھا، جس کو سود فواروں سے احلاں جنگ کرنے کا حکم دیا تھا، اب اپنی ہر معاشی اسکیم میں سود کو بنیلوں کا درود فوری کے بڑے بڑے ادارے قائم کر رہی ہے اور سودی نظام کو استحکام بخش رہی ہے۔

سودی نظام کے اسی ہمہ گیر استیلام کے پیش نظر، مولانا عبد ابوالاعلیٰ مودودی نے جن کی زندگی کا مشن ہی خیر اسلامی نظریہ و نظام کو الگا ڈھینکنا ہے، اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اور اس کے ہر پہلو پر اس تفصیل کے ساتھ ایسی مدلل بحث کی ہے کہ کسی معقول اتفاق کو اس کی حرمت و شناخت میں شہر باقی نہ رہے۔ اس کتاب میں سود پر نہ صرف اسلامی نقطہ نظر سے بحث کی گئی ہے بلکہ معاشی نقطہ نظر سے بھی یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ یہ ہر پہلو سے انسانی معاشرہ کے لیے مضرت رسائی اور تباہ کن ہے۔ اس طرح یہ کتاب اسلامی دل پر ہر جی میں، معاشی لطف پر جی میں بھی ایک بیش بہا اخفا فہم ہے۔

اس کتاب کی اہمیت اور افادتیت کے پیش نظر اب ہم اس کو اپنے روایتی میعاد کے مطابق آفست کی نفیس طباعت پر شائع کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ معاشیات سے دل چپی رکھنے والے حضرات عوام کا بھول، یونیورسٹیوں میں معاشیات کے علمیاء اور کاروباری

حضرات مخصوصاً اس کا مطالعہ کریں گے۔ ہمیں توقع ہے کہ انشاء اللہ یہ کتاب سُودی نظام
کے چکر سے نکلنے کے لیے حد درجہ مفید معاون ثابت ہوگی۔

لاہور۔ ۲۸ فروری ۱۹۷۴ء

مطابق ۲۸ فروری ۱۹۷۴ھ

مینیگنگ ڈائرکٹر

اسلام اک پبلیکیشنز (پرائیوریٹ) لمیٹڈ لاہور

دیباچہ ترتیب و جدید

یہ کتاب میرے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو میں نے ۱۹۳۷ء سے ۱۹۴۰ء تک مختلف زمانوں میں سود کے موضوع پر لکھے ہیں۔ اس سے پہلے "سود" کے نام سے میری ایک کتاب دو جلدیں میں طبع ہوئی تھی۔ لیکن اس کی اشاعت اسی سے حالات میں ہوئی کہ مجھے خدا سے باقاعدہ مرتب کرنے کا موقع ملا اور نہ میں اس کی ترتیب درست کر سکتا اس لیے خام ناظرین کو چاہے اس میں کچھ کام کا مواد ملا ہو، مگر وہ منتشر صورت میں ملا۔ اب میں نے اس مواد کو دو مستقل کتابوں کی صورت میں نئے سرے سے مرتب کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک کتاب "اسلام اور جدید معاشی نظریات" کے نام سے کچھ درست پہلے شائع ہو چکی ہے۔ اب یہ دوسری کتاب "سود" کے نام سے ان تمام مضامین پر مشتمل ہے جو اب تک میں نے اس موضوع کے متعلق لکھے ہیں۔ امید ہے کہ اس نئی صورت میں یہ کتاب ان لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہو گی جو اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔

اس کے آخر میں تین ضمیمے بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ ایک ضمیرہ اس مسائل پر مشتمل ہے جو میرے اور سید یعقوب شاہ صاحب سابق آڈیٹر جنرل حکومت پاکستان کے درمیان ہوئی تھی۔ اس میں ان لوگوں کے دلائل پوری طرح آگئے ہیں جو شخصی عاجالت کے قرض اور بار آور اغراض کے قرض میں فرقی کر کے حرمت سود کے حکم کو صرف پہلی قسم کے قرضوں تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے بواب میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اُس کو پڑھ کر ناظرین خود رائج قائم کر سکتے ہیں کہ ان دلائل کی بنیاد پر بار آور اغراض کے قرضوں

پر سود کو حلال کرنے کی کوشش کہاں تک صحیح ہے۔

دوسری ضمیمہ میرے اس مقالے پر مشتمل ہے جو میں نے ادارۂ ثقافت اسلامیہ لاہور کی ایک مجلس مذکورہ میں سود کے موضوع پر پیش کیا تھا۔ اس میں اس مسئلے کے تریب قریب تمام اہم پہلوؤں پر ایک جامع بحث ناظرین کے سامنے آجائے گی۔

تیسرا ضمیمہ مولا ناظر احسن گیلانی مرحوم کے دو مضامین اور میری طرف سے ان کے جواب پر مشتمل ہے۔ اس میں اگرچہ عنوان بحث یہ ہے کہ مذہب حنفی کی رو سے دارالحرب میں سود کے جواز کا جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اس کی صحیح تعبیر کیا ہے۔ لیکن اس ضمن میں اسلام کے دستوری اور زین الاقوامی قانون پر برطی اہم بحثیں آگئی ہیں جو معاشیات کے علاوہ قانونی مسائل سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی انشاء اللہ مفید ثابت ہوں گی۔

ابوالاعلیٰ

لاہور

۱۹۴۰ء
۲۲ ستمبر

تمہارے پیارے

عام طور پر سو دل کے متعلق اسلامی قانون کے احکام کو سمجھنے میں جو غلطی واقع ہو
مرہی ہے اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں وہ معاشی نظام جس کو اسلام نے قائم
کیا تھا درد ہم بروپا چکا ہے، اس کے اصول و نظریات بھی دلوں سے خوب ہو گئے ہیں،
اور ہمارے گرد و پیش کی دنیا پر ایک ایسا نظام پوری طرح حاوی ہو گیا ہے جس کی بنیاد
”سرماہی داری“ کے اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام معيشت نہ صرف علاً
ہم پر بھیط ہے بلکہ ہمارے دل و دل ماغ پر بھی اس کے اصول و نظریات چھا گئے ہیں۔ اس
یہے جب کسی معاشی مسئلہ پر ہم نظر ڈالنے کے لئے تو ہمارا نقطہ نظر وہی ہوتا ہے جو سرمایہ داری
کا نقطہ نظر ہے ہماری بحث و تحقیق کی ابتداء ہی اسی طرح ہوتی ہے
کہ ہم پہلے معاشیات کے سرمایہ دارانہ نظریات اور اصولوں
کو مان لیتے ہیں اور اس کے بعد کسی معاشی طریقہ کے جواز و عدم جواز پر گفتگو کرتے ہیں۔
لیکن اگر تھوڑی سی سمجھو سے کام لیا جائے تو یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی کہ تحقیق کا یہ طریقہ
اصلاً غلط ہے۔ اسلام کا نظام معيشت اپنے نظریہ اور اپنے اصول میں سرمایہ داری کے
نظام معيشت سے بالکل مختلف ہے۔ دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں دونوں کی روح
جدا جگدا ہے، دونوں کے منارج علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اب اگر کسی مسئلہ کے متعلق سرمایہ داری
کے اصول و نظریات کو تسلیم کر کے اسلام کے معاشی احکام میں سے کسی حکم پر نظر ڈالی
جائے گی تو لا محالہ یا تو وہ بالکل ہی غلط نظر آئے گا یا اس میں ایسی ترمیم کر دی جائے گی جس

سے وہ اسلامی قانون کے اصول سے ہٹ کر بالکل سرمایہ داری کے قالب میں داخل جائے گا اور اس میں نہ اسلامی روح باتی رہے گی، نہ اسلامی قانون کے اغراض و مقاصد اس سے حاصل ہو سکیں گے، اور نہ وہ اپنے جو ہر دینی حقیقت ایک اسلامی حکم ہو گا۔

یہی بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے سود کے معاملہ میں ہمارے جدید معاشی مفکریں اسلامی احکام کو سمجھتے اور ان کے اغراض و مصالح کا ادراک کرنے میں مشکوکوں پڑھوکریں کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ سرے سے یہی نہیں جانتے کہ اسلام کا معاشی نظام کن اصولوں پر قائم کیا گیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کی روح کیا ہے، سود کو اس نے کیوں حرام قرار دیا ہے، سودی یعنی دین کی مختلف اشکال میں علت حرمت کیا شے ہے اور جن معاملات میں یہ علت پائی جاتی ہے ان کو اسلامی نظمِ میشیت میں کھپا دینے سے کیا قباحت واقع ہوتی ہے۔ ان تمام اساسی امور سے بیگانہ ہو کر جب وہ کلیشہ سرمایہ داری کے نقطہ نظر سے سود کے متعلق اسلامی قانون پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ان کو درحقیقت سود کی حرمت کے لیے کوئی دلیل ہی باقاعدہ نہیں آتی۔ کیونکہ سود تو سرمایہ داری کی جان اور اس کی روح رواں ہے۔ اس کے بغیر سرمایہ داری کا کاروبار چل ہی نہیں سکتا، اور کسی ایسے نظامِ معاشی کا سود سے خالی ہونا غیر ممکن ہے جس کی عمارت سرمایہ داری کے اصولوں پر قائم ہو۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ علمی اور عملی حیثیت سے یہ حضرات اسلام سے منحرف ہو چکنے کے باوجود اعتقادی حیثیت سے بدستور اس کے پیرویں اور قصداً اس کے دائرے سے نکلنا نہیں چاہتے، اس لیے عقیدہ کی بندش تو ان کو مجبور کرتی ہے کہ سود کی حرمت سے انکار نہ کر سکیں مگر ان کا علم اور عمل ان کو مجبور کرتا ہے کہ سود کے متعلق اسلامی احکام کی بندشوں کو تواریخیں۔ دل و دماغ کی یہ کش مکش ایک مدت سے جاری ہے اور اب اس میں مصالحت کی آسان صورت یہ نکالی گئی ہے کہ اسلامی احکام کی تعبیر اس طرح کی جائے کہ سود ایک اسم ہے مسٹی ہونے کی حیثیت سے تو بدستور حرام کا حرام رہے، مگر نظام سرمایہ داری میں اس کے جتنے مسٹی پائے جاتے ہیں وہ قریب قریب سب حلال ہو جائیں زیادہ سے زیادہ جس چیز کے خلاف ان کو سرمایہ داری کے اصولوں سے کوئی دلیل باقاعدہ

آتی ہے وہ جہا جنی سود ریوثری) ہے، لیکن اس کو بھی کلیتہ مسدود کر دینے کی کوئی وجہ وہ نہیں پاتے۔ الہ کے نزدیک ضرورت صرف اُس کی تحدید کی ہے اور اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ سود کی فیصلی شرح ناقابل ادا نہ ہو، اور کسی حال میں سود درست اصناف اتفاق نہیں ممکن نوبت نہ پہنچے۔

یہ ایک دھوکا ہے جس میں یہ حضرات بغیر سمجھے بہتلا ہو گئے ہیں۔ بیک وقت دو مختلف سہمتوں میں سفر کرنے والی کشتوں میں سوار ہونا کسی مرد عاقل کا کام نہیں ہو سکتا۔ اگر بے خبری کی وجہ سے اُس نے ایسا کیا ہی ہو تو ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تو ہنی اس کو اپنی خلطی پر تغیرہ ہو، وہ اپنے لیے دو توں کشتوں میں سے ایک کو پسند کر کے دوسری کشتوں سے فوراً پاؤں کھینچ لے۔ سود کے حلال و حرام ہونے کی بحث اور اس کے حدود کی تعیین تو بعد کی چیز ہے۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اسلامی نظامِ معیشت اور سرمایہ دارانہ نظامِ معیشت کے اصولی اور روحي فرق کو اچھی طرح سمجھ لیں اور قرآن و حدیث کے احکام پر خود کو کے ان اصول و قواعد سے باخبر ہو جائیں جن پر اسلام نے سرمایہ داری اور اور اشتراکیت کے درمیان ایک متوسط نظامِ معیشت قائم کیا ہے۔ اس تحقیق سے آپ پر خود بخود منکشف ہو جائے گا کہ اسلام جس ڈھنگ پر انسان کے معاشی معاملات کی تنظیم کرتا ہے اس میں صرف سہی نہیں کہ سود کی قطعاً کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ سرے سے اس نظر ہے اور اس ذہنیت اور ان معاشی حالات ہی کا استعمال کر دیتا ہے جو کی وجہ سے سودی معاملات کی مختلف صورتیں وجود میں آتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے لیے ناگزیر ہو گا کہ دور اہوی میں سے ایک راہ کا انتخاب کر لیں۔ ایک راہ یہ ہے کہ آپ اسلام کے اصولِ معیشت کو رد کر کے سرمایہ دارانہ نظامِ معیشت کے اصولوں پر ایمان لے آئیں۔ اس صورت میں آپ کو اسلام کے اصول اور احکام میں ترجیح کرنے کی زحمت ہی نہ اٹھائی پڑے گی۔ بلکہ آپ کے لیے سیدھا اور صاف راست یہ ہو گا کہ اس کے اتباع سے انکار کر دیں۔ دوسری راہ یہ ہے کہ آپ اسلام کے اصولِ معاشی کو صحیح سمجھیں اور سود کو اس کی تمام صورتوں سے راستہ علی وجہ البصیرت حرام جائیں۔ مگر سرمایہ دارانہ نظامِ معیشت میں گھر جانے

کے باعث اپنے آپ کو اس حرام چیز سے محفوظ رکھنے میں قاصر پائیں اس صورت میں آپ کو سود کھاتا اور کھلانا چاہیں تو کھایش اور کھلاشیت۔ کیونکہ ہرگناہ کرنے کا آپ کو اختیار حاصل ہے۔ مگر ایک مسلمان ہونے کی چیزیت سے یہ جرأت آپ کبھی نہیں کر سکتے کہ سود کو حلال کر کے کھائیں یا کھلائیں اور اپنے خیر پر سے اکل حرام کے بار کو بہکا کرتے کیا یہ اس چیز کو پاک کرنے کی کوشش مکمل جس کو خدا اور اس کے رسول نے ناپاک قرار دیا ہے۔ ایک شخص حق رکھتا ہے کہ علانية اسلام کے قانون کو رد کر کے کسی دوسرے قانون کی پیروی اختیار کر لے۔ اور پدر جد آخر یہ حق بھی اس کو حاصل ہے کہ اسلامی قانون کے اقتدار کو تسیلم کرتے ہوئے اس کے ماتحت ایک گناہ گار بندہ بن کر دہنا پسند کرے یا نامساعد حالات میں مجبوراً ایسا بن جائے۔ لیکن کسی حال میں یہ حق تو کسی کو بھی نہیں پہنچتا، کہ اسلامی قانون کو جس غیر اسلامی قانون سے چاہے بدلتے اور پھر دعویٰ کرے کہ بدلا ہوا قانون ہی دراصل اسلام کا قانون ہے۔

اس تہذیب کے بعد ہم ان مبادیت کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے جن کی طرف اپر اشارہ کیا گیا ہے۔

اسلام، سرمایہ داری اور اشتراکیت کا اصولی فرق

ہرگے بڑھنے سے پہلے آپ کو مختصر آریہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں جو معاشری نظام اب تک پیدا ہوئے ہیں ان کے درمیان اصولی فرق کیا ہے، اور اس فرق سے مالی و معاشری معاملات کی نوعیتوں میں کیا تغیرات واقع ہوتے ہیں۔

بڑی اختلافات سے قطع نظر کر کے ہم دنیا کے معاشری نظاموں کو تین بڑی قسموں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جو سرمایہ داری نظام (Capitalistic system) کہلاتا ہے۔ دوسرا وہ جسے اشتراکیت (Communism) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ جسے اسلام نے پیش کیا ہے۔ اس باب میں ہم ان تینوں کے اصول کا خلاصہ بیان کر دیں گے۔

نظام سرمایہ داری

نظام سرمایہ داری کی بنیاد جس نظریہ پر قائم ہے وہ صاف اور سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ ہر شخص اپنے کائے ہوئے مال کا تنہا مالک ہے۔ اُس کی کمائی میں کسی کا کوئی حق نہیں۔ اُس کو پورا اختیار ہے کہ اپنے مال میں جس طرح چاہے تصرف کرے، جس قدر وسائل ثروت اس کے قابو میں آئیں ان کو رد کر کے اور اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر ان کو صرف کرنے سے انکار کر دے۔ یہ نظریہ اُس خود غرضی سے شروع ہوتا ہے

تو ہر انسان کی نظر میں ودیعست کی گئی ہے، اور آخر کار اس انتہائی خود غرضی تک پہنچ جاتا ہے جو انسان کی تمام اُن صفات کو دبادیتی ہے جن کا وجود انسانی جماعت کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ اگر اخلاقی نقطہ نظر کو چھوڑ کر عالمی معاشی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو اس نظر یہ کاملاً نتیجہ یہ ہے کہ تقسیم ٹروت کا توازن بگرد جائے، وسائل ٹروت رفتہ رفتہ سمجھ کر ایک زیادہ خوش قسمت یا زیادہ ہوشیار طبقہ کے پاس جمع ہو جائیں، اور سو سائیلی عملاء و طبقوں میں تقسیم ہو جائے۔ ایک مال دار دوسرا نادار۔ مالدار طبقہ تمام وسائل ٹروت پر قابض ہوتا صرف ہو کر ان کو شخص اپنے ذاتی مقاد کے لیے استعمال کرے اور اپنی دولت کو زیادہ سے زیادہ برطھانے کی کوشش میں سو سائیلی کے جموعی مقاد کو جس طرح پاہے قربان کر دے۔ رہانا دار طبقہ تو اس کے لیے وسائل ٹروت میں سے حصہ پانے کا کوئی موقعہ نہ ہوا لایہ کرو وہ سرمایہ دار کے مقاد کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے زندگی بسر کرنے کا کم سے کم سامان حاصل کرے۔ ظاہر ہے کہ ہیں قسم کا نظامِ معيشت ایک طرف سا ہو کار، کار خانہ دار اور زمیندار پیدا کرے گا، اور دوسری طرف مزدور، کسان اور قرضدار۔ ایسے نظام کی عین نظرت اس کی مقتضی ہے کہ سو سائیلی میں ہمدردی اور امداد اور باہمی کی سپرٹ مفقود ہو۔ ہر شخص بالکل یہ لپٹے ذاتی وسائل سے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو۔ کوئی کسی کا یاد و مدد گار نہ ہو۔ محتاج کے لیے معيشت کا دائرہ تنگ ہو جائے۔ سو سائیلی کا ہر فرد بقاء کے حیات کے لیے دوسرے افراد کے مقابلہ میں معاندہ نہ جدو جہد کرے۔ زیادہ سے زیادہ وسائل ٹروت پر قابو پانے کی کوشش کرے، اپنے مقاد کے لیے ان کو روک رکھے، اور صرف اُن دیا ڈروٹ کے لیے انہیں استعمال کرے۔ پھر لوگ اس جدو جہد میں ناکام ہوں یا اس میں بھی لینے کی قوت نہ رکھتے ہوں ان کے لیے دنیا میں کوئی سہارا نہ ہو۔ وہ بھیکن بھی مانگنیں تو ان کو بآسانی نہ مل سکے۔ کسی دل میں ان کے لیے رحم نہ ہو۔ کوئی ناکھان کی مدد کے لیے نہ برطھے۔ یا تو وہ خود کشی کر کے زندگی کے عذاب سخنے بجات حاصل کریں یا پھر جرائم اور بے حیاتی کے ذیلیں طریقوں سے پیریٹ پانے پر مجبور ہوں۔

سرمایہ داری کے اس نظام میں ناگزیر ہے کہ لوگوں کا میلان روپیہ جمع کرنے کی طرف ہو اور وہ اس کو صرف نفع بخش اغراض کے لیے استعمال کرنے کی سعی کریں۔ مشترک سرمایہ کی کمپنیاں قائم کی جائیں۔ بنیک کھوئے جائیں۔ پرویڈنٹ فنڈ قائم ہوں۔ انشورنس کمپنیاں بنائی جائیں۔ امداد بارہمی کی جمیعتیں مرتب کی جائیں۔ اور ان تمام مختلف معاشی تدبیروں میں ایک ہی روح کام کرے، یعنی روپے سے مزید روپیہ پیدا کرنا، خواہ وہ تجارتی لین دین کے ذریعہ سے ہو یا سود کے ذریعہ سے۔ سرمایہ داری کے نقطہ نظر سے سود اور تجارتی لین دین کے درمیان کوئی جو ہری فرق نہیں ہے اس لیے اس نظام سرمایہ داری میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف غلط ملطاً ہو جاتے ہیں، بلکہ کاروبار کی ساخت میں ان کی حیثیت تاتے بانے کی سی ہوتی ہے۔ ان کے ہاتھ تجارت کے لیے سود اور سود کے لیے تجارت لازم و ملزم ہیں، کسی کو دوسرے کے بغیر فراغ نہیں ہو سکتا۔ سود نہ ہو تو سرمایہ داری کا کاروبار پود بکھر جائے۔

نظام اشتراکی

سرمایہ داری کے عین مقابل ایک دوسرا نظام معیشت ہے جس کو اشتراکی نظام کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد اس نظر یہ پر ہے کہ تمام وسائل ثروت سوسائٹی کے درمیان مشترک ہیں، اس لیے افراد کو فرد افراد ان پر مالکانہ قبضہ کرنے اور اپنے حسب منشاں میں حصت کرنے، اور ان کے منافع سے تنہا ممتنع ہونے کا کوئی حق نہیں۔ اشخاص کو جو کچھ ملے گا وہ حص ان خدمات کا معاوضہ ہو گا جو سوسائٹی کے مشترک مفاد کے لیے وہ انجام دیں گے۔ سوسائٹی ان کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرے گی اور وہ اس کے پدر میں کام کریں گے۔

یہ نظر یہ ایک دوسرے ڈھنگ پرمیشت کی تنظیم کرتا ہے جو بنیادی طور پر نظام سرمایہ داری سے مختلف ہے۔ اس تنظیم میں سرے سے ملکیت شخصی ہی کا وجود نہیں پھر کہاں اس کی گنجائش کہ کوئی روپیہ جمع کرے اور اس کو بطور خود کاروبار میں لگائے۔ پہاں چونکہ نظر یہ اور اصول میں اختلاف ہو گیا ہے اس لیے منابع بھی بدل گئے ہیں۔

نظام سرمایہ داری کا کارخانہ بنگ، انسورنس، شرکت ہائے اسہافی (Joint stock companies) اور ایسے ہی دوسرے اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا بلکہ اشتراکیت کی ساخت اور اس کے معاشی معاملات میں ان اداروں کی گنجائش ہے، نہ ضرورت۔ سرمایہ داری کے مزاج سے سود کو جتنی گھری مناسبت ہے۔ اشتراکیت کے مزاج سے اس کو اتنی ہی زیادہ شدید ناموافقت ہے۔ اشتراکیت اس چیز کی بیان و ہمکار کردیت ہے جس کی بنابر ایک شخص سود لیتا اور دوسرا شخص سود دیتا ہے۔ اس کے اصول کسی شکل اور کسی حیثیت میں بھی سود کو جائز نہیں رکھتے اور جو شخص ان اصولوں پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے نہیں کربیک وقت اشتراکی بھی ہو اور سودی لیں دین بھی کر سکے۔

اشتراکیت اور سرمایہ داری ایک دوسرے کے خلاف دو انتہائی نقطوں پر ہیں۔ سرمایہ داری افراد کو ان کے فطری حقوق ضرور دیتی ہے مگر اس کے اصول و نظریات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو افراد کو جماعت کے مشترک مفاد کی خدمت کے لیے آمادہ کرنے والی اور تابع ہے ضرورت اس پر مجبوہ کرتے والی ہو۔ بلکہ درحقیقت وہ افراد میں ایک ایسی خود غرضانہ ذہنیت پیدا کرتی ہے جس سے ہر شخص اپنے شخصی مفاد کے لیے جماعت کے خلاف عملأ جنگ کرتا ہے اور اس جنگ کی بدولت تقییم ثروت کا توازن بالکل بگھٹا جاتا ہے۔ ایک طرف چند نوٹ نصیب افراد پوری جماعت کے وسائل ثروت کو سیست کر لکھ رہتی اور کروڑوڑھتی بن جاتے ہیں، اور اپنے سرمایہ کی قوت سے

تلہ واضح رہے کہ یہاں ہم خالص نظریہ سے بحث کر رہے ہیں، ورنہ عملأ اشتراکی نظام نے دوسرے بہت پلشیاں کھائی ہیں اور اپنے انتہا پسند از نظریات کو عملی جامد پہنانے میں ناکام ہو کر وہ سرمایہ داری کے مختلف طریقوں کی طرف عود کرتا چلا گیا ہے۔ چنانچہ اب وہاں ان لوگوں کے لیے جو اپنی ضرورت سے زیادہ معاوضہ پاتے ہیں، یہ لفکن ہو گیا ہے کہ اونی زائد از ضرورت آمدی کو جمع کر سکیں، اسے بینک میں رکھیں اور سود پائیں۔

مزید دولت کھیپتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جہور کی معاشی حالت خراب سے خراب تر ہوتی بدلی جاتی ہے اور دولت کی تقسیم میں ان کا حصہ کھلتے کھلتے بہنزاں صفر رہ جاتا ہے۔ ابتدائیں صرایہ داروں کی دولت اپنے شاندار مظاہر سے تمدن میں ایک دلغیرب چمک دیکھ تو ضرور پیدا کر دیتی ہے، مگر دولت کی غیر متوازن تقسیم کا آخری انجام اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ معاشی دنیا کے جسم میں دور ان دونوں بند ہو جاتا ہے، جسم کے اندر حصے قدرت دون کی وجہ سے سوکھ کرتا ہو تے ہیں اور اخضاع ریسہ کو دون کا غیر معمولی اجتماع تباہ کر دیتا ہے۔

اشتراكیت اس خرابی کا علاج کرنا چاہتی ہے، مگر وہ ایک صحیح مقصد کے لیے غلط راستہ اختیار کرتی ہے۔ اس کا مقصد تقسیم ثروت میں توازن فائماں کرتا ہے، اور یہ بلاشبہ صحیح مقصد ہے، مگر اس کے لیے وہ ذریعہ ایسا اختیار کرتی ہے جو درحقیقت انسانی فطرت سے جنگ ہے۔ افراد کو شخصی ملکیت سے محروم کر کے بالکل بیاحت کا خادم بنادینا نہ صرف معیشت کے لیے تباہ کن ہے بلکہ زیادہ وسیع پیمانے پر انسان کی پوری تمدنی زندگی کے لیے چمک ہے۔ کیونکہ یہ چیز معاشی کارروبار اور نظام تمدن سے اس کی روح روان، اس کی اصلی قوت تحریک کو نکال دیتی ہے۔ تمدن و معیشت میں انسان کو ہو چیز اپنی انتہائی قوت کے ساتھ سی و عمل کرنے پر اُبھارتی ہے اور درصل اس کا ذاتی مفاد ہے۔ یہ انسان کی فطری خود غرضی ہے جس کو کوئی منطق اس کے دل فوغا

لہ اشتراكیت کو نظری طور پر ابتداء اس حقیقت سے انکار تھا، بلکہ اس کے انتہا پسند فلسفی تو یہاں تک کہہ گزرے کہ انسان اپنے اندر کسی قسم کے پیدائشی رحماناٹ نہیں رکھتا، سب کچھ ماحول کی پیداوار ہے۔ اور تعلیم و تربیت سے ہم افراد میں وہ اجتماعی ذہنیت

(Social Mindness) پیدا کر سکتے ہیں جو خود غرضانہ و محبی نات میں سے خالی ہو۔ مگر تجربہ نے اشتراكی حضرات کی اس غلط فہمی کو آخر کار درفع کر دیا۔ اب رس میں کارکنوں کو عمل پر اُبھارنے کے لیے ان کے ذاتی مفاد سے اپنال کرنے کی شدت نئی تر پیریں اختیار کی جا رہی ہیں۔

کے ریشوں سے نہیں نکال سکتی۔ غیر معمولی (Abnormal) افراد کو چھوڑ کر ایک اوسط درجہ کا آدمی اپنے دل اور دماغ اور دست و پا زوکی تمام طاقتیں صرف اُسی کام میں خرچ کرتا ہے اور کر سکتا ہے جس سے اس کو خود اپنے مفاد کے لیے ذاتی دل چیزی ہوتی ہے۔ اگر سے سے یہ دلچسپی ہی باقی نہ رہے، اور اس کو معلوم ہو کہ اس کے لیے فوائد و منافع کی بوجہ مقرر کر دی گئی ہے اس سے بروٹھ کروہ اپنی جدوجہد سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکتے گا، تو اس کے قوائیں فکر و عمل پھٹکر رہ جائیں گے اور وہ محض ایک مزدور کی طرح کام کریگا جس کو اپنے کام سے بقدر اجرت ہی لجھپی ہوتی ہے تو اشتراکی نظام کا باطنی پہلو ہے۔ اس کا خارجی اور عملی پہلو یہ ہے کہ وہ سرمایہ دار افراد کا خاتمه کر کے ایک بہت بڑے سرمایہ دار کو وجود میں لاتا ہے یعنی اشتراکی حکومت یہ بڑا سرمایہ دار لطیف انسانی جذباست کی اُس اقلیٰ قلیل مقدار سے بھی خالی ہوتا ہے تو سرمایہ دار افراد میں پائی جاتی ہے۔ وہ بالکل ایک مشین کی طرح پورے استبداد کے ساتھ ان کے درمیان اسباب حیات تقسیم کرتا ہے۔ اُس کے پاس نہ ہمدردی ہے۔ نہ قدر و اعتراض۔ وہ انسانوں سے انسانوں کی طرح کام نہیں لیتا بلکہ مشین کے کل پڑزوں کی طرح کام لیتا ہے، اور اُن سے فکر و راستے اور عمل کی آزادی بالکل سلب کر لیتا ہے۔ اس شدید استبداد کے بغیر نظام اشتراکی نہ قائم ہو سکتا ہے، نہ قائم رہ سکتا ہے۔ کیونکہ افراد کی فطرت اس نظام کے خلاف ہر وقت آمد و بخاوت رہتی ہے۔ اگر ان کو داشماً استبداد کے آہنی پنجہ میں جکڑا کر نہ رکھا جائے تو وہ اشتراکی نظام کو دیکھتے دیکھتے منتشر کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج رو س کی سو ویٹ گورنمنٹ دنیا کی حکومتوں میں سب سے زیادہ مستبد اور جابر حکومت ہے۔ اپنی رعیت کو اس نے ایسے سخت آہنی ٹکنیکوں میں جکڑا رکھا ہے جس کی مثال دنیا کی کسی شخصی یا جمہوری حکومت میں نہیں ملتی۔ اس کا یہ جبراً استبداد کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ محض بخت و اتفاق نے اشالیں جیسے ڈکٹیٹر کو پیدا کر دیا ہے۔ بلکہ در حقیقت اشتراکیت کا مزاج ہی ایک شدید ترین ڈکٹیٹر شپ کا مقتضی ہے۔

نظام اسلامی

اسلام ان دو مختلف معاشی نظاموں کے درمیان ایک معتدل نظام قائم کرتا ہے جس کا اصل الاصول یہ ہے کہ فرد کو اس کے پورے شخصی و فطری حقوق بھی دیے جائیں، اور اس کے ساتھ تقيیم ثروت کا توازن بھی نہ بگڑانے دیا جائے۔ ایک طرف وہ فرد کو شخصی ملکیت کا حق اور اپنے مال میں تصرف کرنے کے اختیارات دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ ان سب حقوق اور اختیارات پر باطن کی راہ سے کچھ اخلاقی پابندیاں اور خطا ہر کی راہ سے کچھ ایسی قانونی پابندیاں عاید کر دیتا ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھگہ وسائل ثروت کا غیر معمولی اجتماع نہ ہو سکے۔ ثروت اور اس کے وسائل ہمیشہ گردش کرتے رہیں اور گردش ایسی ہو کہ جماعت کے ہر فرد کو اس کا مناسب حصہ مل سکے۔ اس مقصد کے لیے اس نے معیشت کی تنظیم ایک اور ڈھنگ پر کی ہے جو اپنی روح، اپنے اصول اور اپنے طریق کا رکن کے اعتبار سے سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں سے مختلف ہے۔

اسلام کا معاشی نظریہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ معاشی زندگی میں ہر ہر فرد کا شخصی مفاد اور تمام افراد کا اجتماعی مفاد ایک دوسرے کے ساتھ گھبرا بطور رکھتا ہے، اس لیے دونوں میں مزاحمت کے بجائے موافقتوں اور معاونتوں ہوئی چاہیے۔ فرد اگر اجتماعی مفاد کے خلاف جدوجہد کر کے جماعت کی دولت اپنے پاس سمجھتے ہے اور اس کو جمع رکھنے یا خرچ کرنے میں محض اپنے ذاتی مفاد کو ملحوظ رکھے تو یہ صرف جماعت ہی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ مال کا رہنماء، اس کے نقصانات خود اس شخص کی اپنی ذات کی طرف بھی خود کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر جماعت کا نظام ایسا ہو کہ وہ اجتماعی مفاد کے لیے افراد کے شخصی مفاد کو قربان کر دے تو اس میں صرف افراد ہی کا نقصان نہیں ہے بلکہ مال کا رہنماء، جماعت کا بھی نقصان ہے پس فرد کی بہتری اس میں ہے کہ جماعت خوش حال ہو، اور جماعت کی بہتری اس میں ہے کہ افراد خوش حال ہوں، اور دونوں کی خوش حالی اس پر موقوف ہے۔

کہ افراد میں خود غرضی اور ہمدردی کا صحیح تناسب قائم ہو۔ ہر شخص اپنے ذائقی فائدے کے لیے جدوجہد کرے، مگر اس طرح کہ اس میں دوسروں کا نقصان نہ ہو۔ ہر شخص جتنا کما سکے کے لئے مگر اس کی کمائی میں دوسروں کا حق بھی ہو۔ ہر شخص دوسروں سے خود بھی نفع حاصل کرے اور دوسروں کو نفع پہنچائے بھی۔ منافع کی اس تقییم اور دولت کی اس گردش کو جاری رکھنے کے لیے بعض افراد کے باطن میں چند اخلاقی اوصاف پیدا کر دینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جماعت کا قانون بھی ایسا ہونا چاہیے جو مال کے اکتساب اور خرچ دونوں کی صحیح تنظیم کر دے۔ اس کے ماتحت کسی کو مضرت رسائی طریقوں سے دولت کمانے کا حق نہ ہو اور جو دولت جائز ذرائع سے کمائی جائے وہ ایک بجیست کردارہ جائے، بلکہ صرف ہو اور زیادہ سے زیادہ گردش کرے۔

اس نظریے پر جس نظم میڈیشت کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کا مقصد نہ تو یہ ہے کہ چند افراد کروڑ پتی بین جائیں اور باقی تمام لوگ فاقہ کریں اور نہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کروڑ پتی نہ بی سکے اور جبراً سب کو ان کے فطری تفاوت کے باوجود ایک حال میں کر دیا جائے۔ ان دونوں انتہاؤں کے بین بین اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جماعت کے تمام افراد کی معاشی ضروریات پوری ہوں۔ اگر ہر شخص دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی فطری حد کے اندر رہ کر اکتساب مال کی کوشش کرے، اور پھر اپنے کمائے ہوئے مال کو خرچ کرنے میں کفایت شماری اور امداد باہمی کو ملاحظہ کر کے تو سوائیٹی میں وہ معاشی ناہمواری پیدا نہیں ہو سکتی جو سرمایہ داری کے نظام میں پائی جاتی ہے کیونکہ اس قسم کا طرز میڈیشت اگرچہ کسی کو کروڑ پتی بینے سے نہیں روکتا، مگر اس کے ماتحت یہ بھی ناممکن ہے کہ کسی کروڑ پتی کی دولت اس کے ہزاروں ابناۓ نوع کی فاقہ کشی کا نتیجہ ہو۔ دوسرا طرف یہ طرز میڈیشت تمام افراد کو خدا کی پیدا کی ہوئی دولتیں سے حصہ ضرور دلانا چاہتا ہے، مگر ایسی مصنوعی بندشیں لگانا جائز نہیں رکھتا جن کی وجہ سے کوئی شخص اپنی قوت و قابلیت کے مطابق اکتساب مال نہ کر سکتا ہو۔

اسلامی نظامِ معیشت اور اُس کے ارکان

اسلام نے اشتراکیت اور سرمایہ داری کے درمیان جو متوسط معاشی نظریہ اختیار کیا ہے اس پر ایک عملی نظام کی عمارت اٹھانے کے لیے وہ اخلاق اور قانون دونوں سے مدد لیتا ہے۔ اپنی اخلاقی تعلیم سے وہ جماعت اور اس کے ہر ہر فرد کی ذہنیت کو اپنے نظام کی رضاکارانہ اطاعت کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور اپنے قانون کی طاقت سے وہ ان پر ایسی پابندیاں عائد کرتا ہے جو انہیں اس نظام کی بندش میں رہنے پر مجبور کرے، اور اس کے حدود سے نکلنے نہ دیں۔ یہ اخلاقی اصول اور قانونی احکام اس نظامِ معیشت کے قوائم دار کان ہیں اور اس کے مزاج کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان پر ایک تفصیلی نظر ڈالیں۔

۱- اکتساب مال کے ذرائع میں جائز اور ناجائز کی تفرقی

سب سے ہیچی چیز یہ ہے کہ اسلام اپنے پیر و دوں کو دولت کرنے کا نام لائیں نہیں دیتا بلکہ کمائی کے طریقوں میں اجتماعی مفاد کے لحاظ سے جائز اور ناجائز کا امتیاز قائم کرتا ہے۔ یہ امتیاز اس قاعدہ کیلئے پر مبنی ہے کہ دولت حاصل کرنے کے تمام وہ طریقے ناجائز ہیں جن میں ایک شخص کا فائدہ دوسرے شخص یا اشخاص کے نقصان پر مبنی ہو، اور ہر وہ طریقہ جائو ہے جس میں فوائد کا مقابلہ اشخاص متعلقہ کے درمیان منصفانہ طور پر چو۔

قرآن مجید میں اس قاعدہ کیلئے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُونُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ

پالبناطیل إلَّا آنَّ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ فَإِنَّمَا
تَقْتَلُونَ أَنفُسَكُمْ لِأَنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ ذَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ عَدُوًا إِنَّمَا قَلْمَانَ فَسُوفَ نُصْلِيَّهُ نَارًا۔ (النساء: ۲۹، ۳۰)

اسے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال نامروا
طريقوں سے نکھایا کرو بجز اس کے کہ تجارت ہو آپس کی رخصامندی سے۔
اور تم خود اپنے آپ کو ریا آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک نہ کرو، اللہ
تمہارے حال پر چہربان ہے۔ جو کوئی اپنی حد سے تجاوز کر کے ظلم کے
ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم آگ میں جبو نک دیں گے۔

اس آیت میں تجارت سے مراد ہے اشیاء اور خدمات کا تبادلہ بالوضع۔
آپس کی رخصامندی کے ساتھ اسے مشروط کر کے تبادلے کی ان تمام صورتوں کو
ناجائز کر دیا گیا ہے جن میں کسی نوعیت کا دباؤ شامل ہو، یا کوئی دھوکا یا ایسی چال
ہو جو اگر دوسرے فرقے کے علم میں آجائے تو وہ اس پر راضی نہ ہو۔ پھر مزید تاکید
کے لیے فرمایا گیا ہے لا تَقْتَلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اس کے دو مفہوم ہیں اور دونوں ہی
یہاں مراد ہیں۔ ایک یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک نہ کرو۔ دوسری یہ کہ تم خود
اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے
کا نقصان کرتا ہے وہ گویا اس کا خون پیتا ہے اور مال کا رہ میں خود اپنی تباہی کا راستہ
کھوتا ہے۔

اس اصولی حکم کے علاوہ مختلف مقامات پر قرآن مجید میں اکتساب مال کی جن
صورتوں کو حرام کیا گیا ہے وہ یہ ہیں:-
رشوت اور غصب (البقرہ۔ آیت۔ ۱۸)

خیانت، خواہ افراد کے مال میں ہو یا پلک کے مال میں۔

(البقرہ۔ ۲۸۳۔ آل عمران۔ ۱۴۱)

مال تیجیم میں بے جا تصرف۔ (النساء - ۱۰)

نایپ تول میں کمی۔ (المطفین - ۳)

فخش پھیلانے والے ذرائع کا کاروبار (النور - ۱۹)

تجہہ گری اور زنا کی آمد فی (النور - ۲ - ۳۳)

شراب کی صنعت، اس کی بیج اور اس کا حمل و نقل (المائدہ - ۹۰)

جو اور تمام ذرائع جن سے کچھ لوگوں کا مال دوسرا سے لوگوں کی طرف منتقل ہوتا

محض سخت واتفاق پر مبنی ہو۔ (المائدہ - ۹۰)

بُت گری، بُت فروشی اور بُت خانوں کی خدمات (المائدہ - ۹۰)

سودخواری (البقرہ - ۲۸ - ۲۷ تا ۳۰ - آل عمران - ۱۳۰)

۲- مال جمع کرنے کی ممانعت

دوسرا ہم حکم یہ ہے کہ جائز طریقوں سے جو دولت کمائی جائے اس کو جمع نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے دولت کی گردش روک جاتی ہے، اور تقیم دولت میں تو اذن برقرار نہیں رہتا۔ دولت سمیٹ کر جمع کرنے والا نہ صرف خود بدترین اخلاقی امراض میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ درحقیقت وہ پوری جماعت کے خلاف ایک شدید جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ آخر کار خود اس کے اپنے یہی بڑا ہے۔ اسی یہے قرآن مجید بخل اور فارونیت کا سخت مخالف ہے۔ وہ کہتا ہے:-

وَلَا يَحْسِنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِهَا إِنَّهُمْ عَالَمُونَ
فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ۔ (آل عمران: ۱۸۰)

جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے فضل میں بخل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ فعل ان کے یہی اچھا ہے، بلکہ درحقیقت یہ ان کے یہی بڑا ہے۔

ذَلِكُمْ يَكْتُبُونَ السَّيِّئَاتِ وَالْفَحْشَاءَ وَلَا يُثْقِلُونَهُمْ
فِي مَسِيرِهِمْ فَبَشِّرُهُمْ بِعَدَآپٍ أَلِيمٍ۔ (التوبہ: ۴۳)

اور جو لوگ سونا اور چاہدی جمع کرتے ہیں اور اسی کو اشکی راہ میں خرچ

نہیں کرتے ان کو عذابِ الیکم کی خبر دے دو۔

یہ چیز سرمایہ داری کی بیباود پر ضربِ لگاتی ہے۔ بچت کو جمع کرنا اور جمع شدہ دولت کو مزید دولت پیدا کرنے میں لگاتا ہی ہی دراصل سرمایہ داری کی جڑ ہے۔ مگر اسلام سے سے اس بات کو پہنچنہیں کرتا کہ آدمی اپنی ضرورت سے زائد دولت کو جمع کر سکے رکھے۔

۳۔ خرج کرنے کا حکم

جمع کرنے کے بعد اسلام خرج کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ مگر خرج کرنے سے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ عیش و آرام اور گھپٹرے اڑانے میں دولت لٹائیں۔ بلکہ وہ خرج کرنے کا حکم فی سبیل اللہ کی قید کے ساتھ دیتا ہے، یعنی آپ کے پاس اپنی ضروریات سے جو کچھ بچ جائے اس کو جماعت کی بھلائی کے کاموں میں خرج کر دیں کہ یہی سبیل اللہ ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ .

(البقرة ۲۱۶)

اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرج کریں کہو کہ جو ضرورت سے بچ دیتے ہے۔

**وَبِإِيمَانِهِ يُنْهَا إِنَّمَّا تَنْهَىٰ عَنِ الْفُرُثَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينَ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّالِحِ بِالْجَنْبِ وَالْمُنْهَىٰ
الشَّيْءِ وَمَا مَنَّكَتْ أَيْمَانُكُمْ .** (النساء: ۳۴)

اور احسان کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں اور نادار مسکینوں اور قرابت دار پڑاویوں اور اجنبی ہمسایوں اور اپنے ملتے جلنے والے دوستوں اور سافروں اور لوندی غلاموں کے ساتھ۔

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِّلْسَائِلِ وَالْمُحْرُومِ .

(الذاريات ۱۹)

اور ان کے مالوں میں سائل اور نادار کا حق ہے۔

یہاں پہنچ کر اسلام کا نقطہ نظر سرمایہ داری کے نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ سرمایہ دار سمجھتا ہے کہ خرچ کرنے سے مغلس ہو جاؤ گا اور جمیع کرنے سے مال دار بنوں گا۔ اسلام کہتا ہے خرچ کرنے سے برکت ہو گی، تیری دولت گھٹے گی نہیں بلکہ اور بڑھے گی۔

**أَشَيْطَانُ يَعِدُ كُلَّهُ الْفَقْرَ وَيَا مُؤْمِنًا كُلَّهُ بِالْفَحْشَاءِ وَاللهُ
يَعِدُ كُلَّهُ مَتَّفِرًةً قَنْبَهُ وَفَضْلًا۔ (البقرة: ۲۶۸)**

شیطان تم کو ناداری کا خوف دلاتا ہے اور بخوبی مشرمناک بات کا حکم دیتا ہے، مگر اللہ تم سے بخشش اور منید عطا کا وعدہ کرتا ہے۔

سرمایہ دار سمجھتا ہے کہ جو کچھ خرچ کر دیا وہ کھو گیا۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، وہ کھو یا نہیں گیا بلکہ اس کا بہتر فائدہ تمہاری طرف پھر پہنچ کر آئے گا۔

وَمَا أَتُّفِيقُ مَا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَآتَيْتُمْ رَأْتُلَمْوَنَ۔

(البقرة: ۲۶۷)

اور تم نیک کاموں میں جو کچھ خرچ کرو گے وہ تم کو پورا پورا واپس ملے گا اور تم پر ہرگز ظلم نہ ہو گا۔

**وَأَنْفَقُوا مِثَارَ ذَقْنَهُمْ سِرَّاً وَعَلَانِيَةً يَيْرِجُونَ
تِجَارَةً لَّنْ تَبُودَ لِمَوْفِيَهُمْ أُجُوزَ هُجُوزَ وَيَزِيدَ هُمْ قَمَدَ
فَضْلِيهِ۔ (فاطر: ۳۰)**

اور جن لوگوں نے ہمارے بخشنے ہوئے رزق میں سے کھلے اور چھپے طریقہ سے خرچ کیا وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں گھٹا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ ان کے بدسلے ان کو پورے پورے اجزدے کا بلکہ اپنے فضل سے کچھ زیادہ ہی عنایت کرے گا۔

سرمایہ دار سمجھتا ہے کہ دولت کو جمع کر کے اس کو شود پر چلانے سے دولت بڑھتی

ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، سود سے تو دولت گھٹ جاتی ہے۔ دولت بڑھانے کا ذریعہ نیک کاموں میں اسے خرج کرنا ہے۔

يَمْسَحُ اللَّهُ الْرِّبُّوا وَ يُؤْتِي الصَّدَاقَاتِ۔ (البقرة: ۲۷۶)

اللہ سود کا مٹھا مار دیتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے۔

**وَمَا أَتَيْتُهُمْ مِنْ قِيمَةٍ إِلَّا لِيُرْبُّوْا فِيْ آمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُّوْا
يَعْشَدُ اللَّهُ وَمَا أَتَيْتُهُمْ مِنْ زَكَاةً فَلَا يُنْجِهُ اهْلُهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔**

اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں اضافہ ہو تو اللہ کے نزدیک وہ ہرگز نہیں براحتا۔ براحتا تو ان اموال کو نصیب ہوتی ہے جو تم اللہ کے لیے زکوٰۃ میں دیتے ہو۔

یہ ایک نیا نظریہ ہے جو سرمایہ داری کے نظریہ کی بالکل خند ہے۔ خرج کرنے سے دولت کا براہنا اور خرج سیکے ہوئے مال کا ضائع نہ ہونا بلکہ اس کا پورا بدل کچھ زائد فائدے کے ساتھ واپس آنا، سود سے دولت میں اضافہ ہونے کے بجائے اٹا گھاٹا ہونا، زکوٰۃ و صدقات سے دولت میں کمی واقع ہونے کے بجائے اضافہ ہونا، یہ ایسے نظریات ہیں جو بظاہر عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ منفعت والا سمجھتا ہے کہ شاید ان سب باتوں کا تعلق محسن ثواب آخرت سے ہو گا۔ اس میں شک نہیں کہ ان باتوں کا تعلق ثواب آخرت سے بھی ہے، اور اسلام کی ٹکڑا میں اصلی اہمیت اسی کی ہے، لیکن اگر خود سے دریکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس دنیا میں بھی معاشی حیثیت سے یہ نظریات ایک ہنایت مضمبوط بنیاد پر قائم ہیں۔ دولت کو جمع کرنے اور اس کو سود پر چلانے کا آخری تقبیح یہ ہے کہ دولت سمٹ سمجھ کر چند افراد کے پاس اکٹھی ہو جائے جہاڑ کی قوت خرید (Purchasing power) روز بروز گھٹتی چلی جائے۔ صنعت اور تجارت اور زر احمد میں کساد بازاری رونما ہو، قوم کی معاشی زندگی تباہی کے سرے پر جا پہنچے، اور آخر کار خود سرمایہ دارانہ افراد کے لیے بھی اپنی جمیع شدہ دولت کو افرائیں دولت کے کاموں میں لگانے کا کوئی موقع باقی

نہ رہے۔ مخالف اس کے خرچ کرنے اور زکوٰۃ و صدقات دینے کا مآل یہ ہے کہ قوم کے تمام افراد تک دولت پھیل جائے، ہر شخص کو کافی قوت خرید حاصل ہو، صنعتیں پروش پائیں، کمپنیاں سر بز ہوں، تجارت کو خوب فروغ ہو، اور چاہے کوئی لکھ پتی اور کروڑتی نہ ہو، مگر سب خوشحال و فارغ الہال ہوں۔ اس مآل اندریشا نام معاشی نظریہ کی صفت اگر دیکھنی ہو تو امریکہ کے موجودہ معاشی حالات کو دیکھنے جہاں سوداہی کی وجہ سے تقسیم ثروت کا نوازن بھجو گیا ہے، اور صنعت و تجارت کی کساد بازاری نے قوم کی معاشی زندگی کو تباہی کے سرے پر پہنچا دیا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ابتدائی عہد اسلامی کی حالت کو دیکھیے کہ جب اس معاشی نظریہ کو پوری شان کے ساتھ عملی جامہ پہنا یا گیا تو چند سال کے اندر قوم کی خوش حالی اس مرتبہ کو پہنچ گئی کہ لوگ زکوٰۃ کے مستحقین کو ڈھونڈتے پھرتے تھے اور شکل ہی سے کوئی ایسا شخص ملتا تھا جو خود صاحبِ نصاب نہ ہو۔ ان دونوں حالتوں کا موازنہ کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کس طرح سود کا مٹھا مارتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے۔

پھر اسلام جو ذہنیت پیدا کرتا ہے وہ بھی سرمایہ دار از ذہنیت سے بالکل مختلف ہے۔ سرمایہ دار کے ذہن میں کسی طرح یہ تصور سماہی نہیں سکتا کہ ایک شخص اپناروپیر دسرے کو سود کے بغیر کیسے دے سکتا ہے۔ وہ قرض پر صرف سود دیتا ہے بلکہ اپنے راس المال اور سود کی بازیافت کے لیے قرض دار کے کپڑے اور گھر کے برقی تک قرقی کرایتا ہے۔ مگر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ حاجت مند کو صرف قرض ہی نہ دو بلکہ اگر وہ تنگ دست ہو تو

لئے اسی بات کی طرف اشارہ ہے اُس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الریا و ان کشرفان عاقبۃ تصیر الی قسلا رابن ماجہ۔ (بیہقی۔ احمد)۔

یعنی "سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو مگر انجام کار وہ کمی کی طرف پڑتا ہے"۔

لئے اشارہ ہے اس خوفناک کساد بازاری کی طرف جو اس کتاب کی تصنیع کے زمانے یعنی ۱۹۳۴ء وغیرہ میں رو نہ تھی۔

اس پر تقاضے میں سختی بھی نہ کرو، حتیٰ کہ اگر اس میں دینے کی استطاعت نہ ہو تو معاف کر دو۔

**وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةِ فَنَظِيرَةٌ إِلَى مَيْسِرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔**

(البقرة: ۲۸۰)

اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اس کی حالت درست ہونے تک اسے چہلت دے دو، اور اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔
اس کا فائدہ تم سمجھ سکتے ہو اگر کچھ علم رکھتے ہو۔

سرمایہ داری میں امداد باءہمی کے معنی یہ ہیں کہ آپ انہم امداد باءہمی کو پہلے روپیہ دے کر اس کے رکن بھیے، پھر اگر کوئی ضرورت آپ کو پیش آئے گی تو انہم آپ کو عام بازاری شرح سود سے کچھ کم پر قرض دے دے گی۔ اگر آپ کے پاس روپیہ نہیں ہے تو ”امداد باءہمی“ سے آپ کچھ بھی امداد حاصل نہیں کر سکتے۔ برعکس اس کے اسلام کے فریض میں امداد باءہمی کا تصور یہ ہے کہ جو لوگ ذی استطاعت ہوں وہ خروت کی وقت اپنے کم استطاعت بھائیوں کو نہ صرف قرض دیں بلکہ قرض ادا کرنے میں بھی حسبیۃ اللہ ان کی امداد کر سیں۔ چنانچہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف والغاد میں بھی ہے، یعنی قرض داروں کے قرض ادا کرنا۔

سرمایہ دار اگر نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے تو محض نمائش کے لیے، یا یونکہ اس کم نظر کے نزد دیکھ اس خرچ کا کم سے کم یہ معاوضہ تو اس کو حاصل ہونا ہی چاہیے کہ اس کا نام ہو جائے، اس کو مقبولیت عام حاصل ہو، اس کی دعا کو اور ساکھہ بیٹھ جائے مگر اسلام کہتا ہے کہ خرچ کرنے میں نمائش ہرگز نہ ہوتی چاہیے۔ خنیہ یا علاجیہ جو کچھ بھی خرچ کرو اس میں یہ مقصد پیش نظر ہی نہ رکھو کہ فوڑا اس کا بدلتم کو کسی نہ کسی شکل میں مل جائے۔ بلکہ مال کا پر نگاہ رکھو۔ اس دنیا سے لے کر آخرت تک جتنی دُور تمہاری نظر جائے گی تم کو یہ خرچ پھلتا پھوتا اور منافع پیدا کرتا ہی دکھاتی دے گا۔ جو شخص اپنے مال کو نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ چنان پرمی پڑی تھی، اس نے اس مٹی پر زنج بولیا، مگر پانی کا ایک ریلا آیا اور مٹی کو بہا لے گیا۔ اور جو شخص اپنی نیت کو درست رکھ کر

اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک عمدہ نرین میں باغ لگایا، اگر بارش ہو گئی تو دو گنا پھل لایا اور اگر بارش نہ ہوئی تو محض ہلکی سی پھوار اس کے لیے کافی ہے۔" (سورہ بقرہ رکوع: ۳۶)

إِنْ تُبْدِلُوا الصَّدَقَاتِ فَتَعِمَّتَ أَبْصَارُهُمْ وَإِنْ تُنْفِقُوهُا ذُوَّلَوْهَا
الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ۔ (البقرة: ۳۴۱)

اگر صدقات علانية دو تو یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن اگر چپا کر دو اور غریب لوگوں تک پہنچاؤ تو یہ زیادہ بہتر ہے۔

سرماںہ دار اگر نیک کام میں کچھ صرف بھی کرتا ہے تو بادل ناخواستہ بدتر سے بدتر مال دیتا ہے اور پھر جس کو دیتا ہے اس کی آدمی جان اپنی زبان کے نشرتوں سے مکال لیتا ہے۔ اسلام اس کے بالکل برعکس یہ سمجھاتا ہے کہ اچھا مال خرچ کرو، اور خرچ کر کے احسان نہ جتناً، بلکہ اس کی خواہش بھی نہ رکھو کہ کوئی تمہارے سامنے احسانندی کا اظہار کرے۔

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُتُمْ وَمَا أَنْخَرَجَتْ أَكْثَرُكُمْ
مِنَ الْأَذْرِضِ وَلَا تَنْهَمُوا إِلَيْهِمْ مِمَّا تَنْقُضُونَ۔ (البقرة: ۳۶۴)

تم نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زین سے مکالا ہے اس میں سے عمدہ اموال کو راغد اش صرف کرو یہ کہ بدتر مال چھانٹ کر اس میں سے دیتے لگو۔

لَا تُبْطِلُوا أَصْدَقَاتِكُمْ بِالْمُنْتَنِي وَالْأَذَلِي۔ (البقرة: ۳۶۵)

اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر ملیا میٹ دکرو۔

وَيُطْعَمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حُسْنِهِ مُشِكِّينًا وَمَتَّيِّمًا وَآسِيًّا۔

إِشْمَائِنْطِيمَ كُمْ يَوْجِدُهُ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ جَزَاءُ وَرَدًا شُكُورًا۔

(الداہر: ۹)

اور اللہ کی محبت میں سکین اور شیخ اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے تم کو کھلاتے ہیں۔ ہم تم سے کسی جزا اور

ٹکریہ کے خواہش مند نہیں۔

چپوڑی سے اس سوال کو کہ اخلاقی نقطہ نظر سے ان دونوں ذہنیتوں میں کتنا عظیم تفاوت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خالص معاشی نقطہ نظر ہی سے دیکھ لیجئے کہ فائدے اور نقصان کے ان دونوں نظریوں میں سے کون سا نظر یہ زیادہ محکم، اور درس نتائج کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے۔ پھر جبکہ کم فضالت و مضرات کے باب میں اسلام کا نظریہ وہ ہے جو آپ دیکھے ہیں تو کیونکہ ممکن ہے کہ اسلام کسی شکل میں بھی سودی کا روابط کو جائز رکھے۔

۴۔ زکوٰۃ

جیسا کہ اوپر بیان ہوا، معاشیات میں اسلام جس طبق نظر کو سامنے رکھتا ہے وہی کہ دولت کسی جگہ جمع نہ ہونے پائے۔ وہ چاہتا ہے کہ جماعت کے جن افراد کو اپنی پہتر قابلیت یا خوش قسمتی کی بناء پر ان کی ضرورت سے زیادہ دولت میسٹر اسکنڈر ہو وہ اس کو سیاست کر دی رکھیں بلکہ خرچ کر دیں اور ایسے مصارف میں خرچ کر دیں جن سے دولت کی گردش میں سوسائٹی کے کم نصیب افراد کو بھی کافی حصہ مل جائے۔ اس غرض کے لیے اسلام ایک طرف اپنی بند اخلاقی تعلیم اور ترغیب و تزہیب کے نہایت موڑ طریقوں سے فیاضی اور حقیقی اہدا دیا ہے کی اپرٹ پیدا کرتا ہے، تاکہ لوگ خود اپنے میلان طبع ہی سے دولت جمع کرنے کو پڑا سمجھیں اور اسے خرچ کر دینے کی طرف راغب ہوں۔ دوسری طرف وہ ایسا قانون بناتا ہے کہ جو لوگ فیاضی کی اس تعلیم کے باوجود اپنی اعتماد طبع کی وجہ سے روپیہ جوڑنے اور مال سیٹنے کے خواگر ہوں، یا جن کے پاس کسی نہ کسی طور پر مال جمع ہو جائے، ان کے مال میں سے بھی کم از کم ایک حصہ سوسائٹی کی فلاخ دیہیود کے لیے ضرور تکلوایا جائے اسی چیز کا نام زکوٰۃ ہے۔ اور اسلام کے معاشی نظام میں اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اس کو ارکانِ اسلام میں شامل کر دیا گیا ہے۔ نماز کے بعد سب سے زیادہ اسی کی تائید کی گئی ہے اور صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ جو شخص دولت جمع کرتا ہے، اس کی دولت اس کے لیے حلال ہی نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ وہ زکوٰۃ نہ ادا کرے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
خُذْ مِنْ أَنْوَارِهِمْ صَدَقَةً تُطْهِرُكُمْ وَشَرٌّ كَيْفُوهُمْ

(التوبہ: ۱۰۶)

پھا۔

اسے بھی ان کے اموال میں سے ایک صدقہ وصول کرو جو ان کو پاک
کر دے اور ان کا تزکیہ کرے۔

اہمیت کے آخری الفاظ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مالدار آدمی کے پاس جو دولت
جمع ہوتی ہے وہ اسلام کی نگاہ میں ایک بخاست ہے، ایک ناپاکی ہے اور وہ پاک نہیں
ہو سکتی جب تک کہ اس کا مالک اس میں سے ہر سال کم از کم ایک مقرر مقدار رہا خدا میں
و خرج کر دے۔ ”رای خُدَا“ کیا ہے؟ خدا کی ذات تو بے نیاز ہے، اس کو نہ تمہارا مال
چہنپتا ہے ز وہ اس کا حاجت مند ہے۔ اس کی راہ بس بھی ہے کہ تم خود اپنی قوم کے تنگ حال
لوگوں کو خوش حال بنانے کی کوشش کرو اور ایسے مفید کاموں کو ترقی دو جن کا فائدہ
ساری قوم کو حاصل ہوتا ہے۔

سلہ یہ ”ایک صدقہ“ کا الفظ ظاہر کرتا ہے کہ اس سے مراد ایک خاص مقدار صدقہ ہے۔ اور بھی ”
صلی اللہ علیہ وسلم“ کو اس کے وصول کرنے کا حکم دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ عام رخصا کارانہ صدقات
کے علاوہ یہ ایک واجب اور فرض صدقہ ہے جو لازماً مال دار لوگوں سے وصول کیا جائے گا چنانچہ
اس حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اقسام کی دولتوں کے معاملہ میں ایک مقدار
نصاب مقرر کی جس سے کم دولت پر صدقہ واجبہ نہ لیا جائے گا۔ پھر بقدر نصاب یا اس سے زائد
دولت پر مختلف چیزوں کے معاملہ میں مختلف شرح سے زکوٰۃ ہامد فرمائی۔ سونے اور چاندی
اور زرد قدر پر زکوٰۃ $\frac{۱}{۴}$ فی صدی سالانہ ہے۔ زرعی پیداوار پر بارانی زمینوں کے معاملہ میں ما فی
صدی اور مصنوعی اکب پاشی کی زمینوں میں ۵ فی صدی۔ تجارتی اموال پر $\frac{۱}{۲}$ فی صدی معدنیات
رجو بخش ملکیتوں میں ہوں) اور دفینوں پر ۲۰ فی صدی۔ اسی طرح موادی پر بھی جو افزائش نسل اور
فروخت کے لیے ہوں، مختلف قسم کے جانوروں کے معاملہ میں مختلف متریں حضور مسیح
مقرر فرمائیں جو کتب فقرہ میں مذکور ہیں۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتِ مِنْ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعِمِيلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤْلَفَةُ فُلُوجُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ (التوبية: ۴۰)

صدقات تو دراصل فقراء اور مساکین کے لیے ہیں اور ان کا رکنوں کے لیے جو صدقات کی تحصیل پر مقرر ہوں۔ اور ان لوگوں کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے ہو۔ اور لوگوں کی گرد نہیں بند اسیری سے چھڑانے کے لیے اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے کے لیے۔ اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔

یہ مسلمانوں کی کو اپنی ٹاؤن سوسائٹی ہے۔ یہ ان کی انشورنس کمپنی ہے۔ یہ ان کا پروڈیٹر فنڈ ہے۔ یہ ان کے بے کاروں کا سرمایہ اعانت ہے۔ یہ ان کے مخدوروں، اپا، بھوں، بیماروں، بیواؤں اور بے روزگاروں کا فریعہ پروردش ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو فکر فرد اسے بالکل بے نیاز کر دیتی ہے اس کا سیدھا اساس اصول یہ ہے کہ آج تم مالدار ہو تو دوسروں کی مدد کرو۔ کل تم نادار ہو گئے تو دوسروں سے

لے فقیر سے مرا دہر و شخص ہے جو اپنی ضرورت سے کم معاش پانے کے باعث مدد کا محتاج ہو (سان العرب، لفظ «فقیر») اور مسکین کی تعریف حضرت عمر رضی الله عنہ نے یہ بیان کی ہے کہ وہ ایسا شخص ہے جو کام نہ سکتا ہو، یا کام نے کا موقع نہ پاتا ہو۔ اس تعریف کی رو سے وہ غریب بچے جو ابھی کام نے کے قابل نہ ہوئے ہوں، اور وہ اپا بھی اور بوڑھے جو کام نے کے قابل نہ رہے ہوں، اور وہ بے روزگار یا بیمار جو عارضی طور پر کام نے کے موقع سے محروم رہ گئے ہوں، سب مساکین ہیں۔ لہ اس میں وہ نو مسلم آ جاتے ہیں جو کفر سے اسلام میں داخل ہونے کے باعث مشکلات میں بہتلا ہو گئے ہوں۔

لہ مسافر اگر اپنے گھر پر دولت مند بھی ہو تو حالت سفر میں تنگی پیش آ جانے پر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔

تمہاری مدد کریں گے۔ تمہیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ مفلس ہو گئے تو کیا ہے گا؟ مر گئے تو بیوی بخوبی کا کیا عذر ہو گا؟ کوئی آفت ناگہانی آپڑی بیمار ہو چکے، مگر یہیں آگ لگ گئی، سیلا ب آگیا، دیوال نکل گیا تو ان مصیبتوں سے جعلی کی کیا سبیل ہو گی؟ سفریں پس پاس نہ رہا تو کیوں تکر گزد بس رہو گی؟ ان سب فکروں سے صرف ذکوٰۃ تم کو پہنچنے کے لیے بے فکر کر دیتی ہے۔ تمہارا کام بس اتنا ہے کہ اپنی پس انداز کی جوئی دولت میں سے ایک حصہ دے کر الشدر کی الشور نس کمپنی میں اپنا بیمه کراؤ۔ اس وقت تم کو اس دولت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے کام آئئے گی جو اس کے ضرورت مند ہیں۔ بلی جب تم ضرورت مند ہو گے یا تمہاری اولاد ضرورت مند ہو گی تو نہ صرف تمہارا اپنا دریا ہوا مال بلکہ اس سے بھی زیادہ تم کو وہ اپس مل جائے گا۔

یہاں پھر سرمایہ داری اور اسلام کے اصول و منابع میں کلی تضاد نظر آتا ہے۔ سرمایہ داری کا اقتضا یہ ہے کہ روپیرہ مجمع کیا جائے اور اس کے برٹھانے کے لیے سود لیا جائے تاکہ ان نالیوں کے ذریعہ سے اس پاس کے لوگوں کا روپیرہ بھی سمجھ کر اس جھیل میں جمع ہو جائے۔ اسلام اسکے باطل خلاف یہ حکم دیتا ہے کہ روپیرہ اوقل تور وک کر نہ رکھا جائے، اور اگر رک گی ہو تو اس تالاب میں سے ذکوٰۃ کی نہر میں نکال دی جائیں تاکہ جو کمیت موجود ہیں ان کو پافی پہنچے اور گرد و پیش کی ساری زندگی شاداب ہو جائے۔ سرمایہ داری کے نظام میں دولت کا مبادله مقید ہے، اور اسلام میں آزاد سرمایہ داری کے تالاب سے پافی لینے کے لیے تائزہ ہے کہ خاص آپ کا پافی پہنچ سے دہاں موجود ہو، ورنہ آپ ایک قطرہ آب بھی دہاں سے نہیں لے سکتے۔ اس کے مقابلہ میں اسلام کے خزاناتہ آب کا قاعدہ یہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پافی ہو وہ اس میں لاکر ڈال دے اور جس کو پافی کی ضرورت ہو وہ اس میں سے لے لے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں طریقے اپنی اصل اور طبیعت کے لحاظ سے ایک دوسرے کی پوری پوری خند ہیں، اور ایک نظام میں ان دونوں کو جمع کرنا درحقیقت احتداد کو جمع کرنا ہے جس کا تصور بھی کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔

۵- قانون وراثت

اپنی ضروریات پر خرچ کرنے اور راو خدا میں دینے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی جو دولت کسی ایک جگہ سبھٹ کر رہ گئی ہو، اس کو پھیلانے کے لیے پھر ایک تدبیر اسلام نے اختیار کی ہے اور وہ اس کا قانون وراثت ہے۔ اس قانون کا منشایہ ہے کہ جو شخص مال پھوڑ کر مرجا شے، خواہ دو نریادہ ہو یا کم، اس کو مکملے کر کے فریک و دور کے تمام رشتہ داروں میں درجہ بدر جگہ پھیلا دیا جائے۔ اور اگر کسی کا کوئی وارث نہ ہو یا نہ ملے تو بھائے اس کے کہ اس سے متبثی بنانے کا حق درجا شے، اس کے مال کو مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دینا چاہیے تاکہ اس سے پوری قوم فائدہ اٹھائے۔ تقسیم وراثت کا یہ قانون جیسا اسلام میں پایا جاتا ہے، کسی اور معاشری نظام میں نہیں پایا جاتا۔ وہ سے معاشری نظاموں کا میلان اس طرف ہے کہ جو دولت ایک شخص نے سبھٹ کر جمع کی ہے وہ اس کے بعد بھی ایک یا چند خاص اشخاص کے پاس سمشی رہتے۔ مگر اسلام دولت کے سختے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ وہ اس کو پھیلانا چاہتا ہے تاکہ دولت کی گردش میں آسانی ہو۔

۶- غناائم جنگ اور اموال مفتوحہ کی تقسیم

اس معاملہ میں بھی اسلام نے وہی مقصد پیش نظر رکھا ہے۔ جنگ میں جو مال غنیمت فوجوں کے ہاتھ آئے اس کے متعلق یہ قانون بنایا گیا کہ اس کے پانچ حصے کیے جائیں، چار حصے فوج میں تقسیم کر دیئے جائیں، اور ایک حصہ اس غرض کے لیے رکھ لیا جائے کہ عام قومی مصالح میں صرف ہو۔

وَاعْلَمُوا أَنَّهَا غِنْمَةٌ مَّنْ شَرِقَ فَأَنَّ اللَّهُ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ

وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ (الانفال: ۴)

جان لو کہ جو کچھ ملکو غنیمت میں ہاتھ آئے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس

لہ اولاد اکبر کی جانشینی کا قانون (Primogeniture) اور مشترک خاندان کا طریقہ

(Joint family system) اسی مقصد پر مبنی ہے۔

کے رسول اور اس کے رشتہ داروں اور شیخی اور مساکین اور مسافروں کے
لیے ہے۔

اللہ اور رسول کے حصہ سے مراد ان اجتماعی اغراض و مصالح کا حصہ ہے جو کی
نگرانی اللہ اور رسول کے تحفظ حکم اسلامی حکومت کے پردازی گئی ہے۔
رسول کے رشتہ داروں کا حصہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ زکوٰۃ میں ان کا حصہ رکھتا۔
اس کے بعد خمس میں تین طبقوں کا حصہ خصوصیت کے ساتھ رکھا گیا ہے۔
قوم کے نیم بچے تاکہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو اور ان کو زندگی کی جدوجہدیں
حصہ لینے کے قابل بنایا جائے۔

مساکین جن میں بیوہ عورتیں، اپانی معذور، بیمار اور نادار سب شامل ہیں۔

امن السبیل یعنی مسافر اسلام نے اپنی اخلاقی تعلیم سے لوگوں میں مسافرنوازی کا
میلان خاص طور پر پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ زکوٰۃ و صدقات اور غنائم جنگ میں
بھی مسافروں کا حق رکھا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے اسلامی حمالک میں تجارت، سیاحت،
تعلیم اور مطالعہ و مشاہدہ آثار و احوال کے لیے لوگوں کی تقلیل و حرکت میں بڑی آسانیاں
پیدا کر دیں۔

جنگ کے نتیجہ میں جواراضنی اور اموال اسلامی حکومت کے ہاتھ آئیں ان کے
لیے یہ قانون بنایا گیا کہ ان کو بالکلیہ حکومت کے قبضہ میں رکھا جائے۔

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَى فِي لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
ذِلِّيَّةُ الْقُرْبَى وَالْيَتَّمَّى وَالْمَسَاكِينَ وَأَبْيَانُ الشَّيْطَانِ كَيْ لَا يَكُونَ
دُوَلَةً مُبِينَ الْأَغْنِيَاءُ مُشْكُّنُ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ مُؤَمِّنُ وَالَّذِينَ
تَبَوَّءُوا لَدَّا وَالْأُدُمَّانَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَالَّذِينَ جَاءُوا
مِنْ بَعْدِهِمْ۔
(الحشر ۱۰)

جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو بستیوں کے باشندوں سے فی میں دلوایا

ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے رشتہ داروں اور بیانی
اور مسکین اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ یہ مال صرف تمہارے دلخندو
ہی کے درمیان پھر نہ لگاتا رہے اور اسی میں ان نادار جہا جوں کا
بھی حصہ ہے جو اپنے گھر بارہ اور جامد ادویں سے بے دخل کر کے نکال دیتے
گئے ہیں اور ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو ہبہ جوں کی آمد سے
پہلے مدینہ میں ایمان لے آئے تھے اور ان آئندہ نسلوں کا بھی
حصہ ہے جو بعد میں آنے والی ہیں۔

اس آیت میں نہ صرف ان معارف کی توجیح کی گئی ہے جن میں اموال فی کو صرف
کیا جائے گا، بلکہ صاف طور پر اُس مقصد کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے جس کو اسلام
نے نہ صرف اموال فی کی تقيیم میں، بلکہ اپنے پورے معاشی نظام میں پیش نظر کھا
ہے یعنی گئی دلایل کوئی دُولۃٰ بَیْنِ الْأَعْنَمیَا وَ مُبَکَّمٌ مال تمہارے مال داروں
ہی میں پھر نہ لگاتا رہے) یہ مضمون جس کو قرآن مجید نے ایک سچوٹ سے جامع فقرے
میں بیان کر دیا ہے، اسلامی معاشیات کا بنگ بنیاد ہے۔
۷۔ اقتصاد کا حکم

ایک طرف اسلام نے دولت کو تمام افراد قوم میں گردش دینے اور مال داروں
کے مال میں ناداروں کو حصہ دار بنانے کا انتظام کیا ہے، چیسا کہ آپ اور دیکھدیکے
ہیں۔ دوسری طرف وہ شخص کو اپنے خرچ میں اقتصاد اور کفایت شعاری محفوظ رکھنے کا
حکم دیتا ہے تاکہ افراد اپنے معاشی وسائل سے کام لینے میں افراط یا تفریط کی روشن
اختیار کر کے ٹروت کے تو از ان کو نہ بکار دیں۔ قرآن مجید کی جامع تعلیم اس باب میں یہ
ہے کہ۔

وَلَا تَجْعَلْ لِيَدَكُمْ مَغْلُوْلَةً إِلَى عَنْقِكُمْ وَلَا تَبْسُطُهَا
لِيَلَّا أُبَشِّرُ فَتَقْعُدْ مَلْوُمًا مَخْسُورًا۔ (بیقی اسرائیل: ۲۹)

نہ اپنے ہاتھ کو اہنی گردن سے باندھے رکھو (کہ کھلے ہی نہیں) اور نہ

اس کو بالکل ہی کھوں دے کے کہ بعد میں حسرت زدہ بن کر بیٹھا رہ جائے۔
 وَالْيَوْمَ يُذْهَبُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يُقْسِطْ لِوَالْكَانَ
 مَبْيَنُ ذِلْلَفَ قَوَامًا۔
 (الفرقان: ۷۲)

اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسرا ف
 کرتے ہیں اور نہ بخل برستے ہیں۔ بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل رہتے
 ہیں۔

اس تعلیم کا منشاء یہ ہے کہ ہر شخص جو کچھ خرچ کرے اپنے معاشی وسائل کی حد میں رہ
 کر خرچ کرے۔ نہ اس قدر حد سے تجاوز کر جائے کہ اس کا خرچ اس کی آمدنی سے بڑھ جائے،
 یہاں تک کہ وہ اپنی فضول خرچوں کے لیے ایک ایک کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے،
 دوسروں کی کمائی پر ڈاکے مارے، حقیقی ضرورت کے بغیر لوگوں سے قرض لے اور پھر
 یا تو ان کے قرض مار کھائے یا قرضوں کا جگہ تان بھگتے ہیں اپنے تمام معاشی وسائل کو
 صرف کر کے اپنے آپ کو خود اپنے لیکے کہ تو توں سے فقراء و مسکین کے زمرہ میں
 شامل کر دے۔ نہ ایسا بخیل بن جائے کہ اس کے معاشی وسائل جس قدر خرچ کرنے کی اس
 کو اجازت دیتے ہوں اُتنا بھی نہ خرچ کرے۔ بھر اپنی حد کے اندر رہ کر خرچ کرنے کے
 بھی یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ اگر اپھی آمد فی رکھتا ہے تو اپنی ساری کمائی صرف اپنے عیش و
 آدم اور تزک و احتشام پر صرف کر دے، درآں حال یکہ اس کے عذیرہ، قریب و دست ا
 ہمسائے مصیبت کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ اس قسم کے خود غرضانہ خرچ کو بھی اسلام
 فضول خرچی ہی شمار کرتا ہے۔

وَإِنَّ ذَلِيلَ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمُسْكِينُونَ وَابْنُ السَّبِيلِ وَلَا
 يُكْفِي دَيْنُهُ بِئْرَانَ الْمُبَذِّلِ مِنْ كَانُوا إِلَّا حَوَانَ الشَّيْطَانِ
 وَحَانَ الشَّيْطَانُ بِرَمَّتِهِ كَفُورًا۔
 (بینی اسرائیل: ۷۲)

اور اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو فضول
 خرچی نہ کر۔ فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا

ہے۔

اسلام نے اس باب میں صرف اخلاقی تعلیم ہی دینے پر اکتفا نہیں کی ہے، بلکہ اس نے محل اور خصوصی خروجی کی انتہائی صورتوں کو روکنے کے لیے تو انہیں بھی بنائے ہیں اور ایسے تمام طریقوں کا سفر باب کرنے کی کوشش کی ہے جو تقیمِ خودت کے قوازن کو بجاڑنے والے ہیں۔ وہ جو سچے کو حرام قرار دیتا ہے۔ شراب اور زنا سے روکتا ہے۔ ہبہ و لعہ کی بہت سی مسروقات عادتوں کو جن کا لازمی تجوہ ضایع وقت اور ضایع مال ہے، حمنوع قرار دیتا ہے۔ موسیقی کے فطری ذوق کو اس حد تک پہنچنے سے باز رکھتا ہے جہاں انسان کا انہماک دوسری اخلاقی و روحانی خرابیاں پیدا کرنے کے ساتھ معاشی زندگی میں بھی بدقی پیدا کرنے کا موجب ہو سکتا ہے اور فی الواقع ہو جاتا ہے۔ جماليات کے طبق رحمان کو بھی وہ حدود کا پابند بناتا ہے۔ قسمی ملبوسات، زرد بھرا ہر کے تریورات، سونے چاندی کے ظروف اور تصاویر اور مجسموں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام مروی ہیں ان سب میں دوسرے مصالح کے ساتھ ایک بڑی مصلحت یہ بھی ہیں نظر ہے کہ یہ دولت تمہارے پہنچتے سے غریب بھائیوں کی ناگزیر ضرورتیں پورپی کر سکتی ہے، ان کو زندگی کے مایحتاج فراہم کر کے دے سکتی ہے، اسے محض اپنے جسم اور اپنے گھر کی تربیتیں و آرائش کر دینا جمالیت ہیں، شقاوت اور بدترین خود غرضی ہے۔ غرض اخلاقی تعلیم اور قانونی احکام دونوں طریقوں سے اسلام نے انسان کو جس قسم کی زندگی بسرا کرنے کی ہدایت کی ہے وہ ایسی سادہ زندگی ہے کہ اس میں انسان کی ضروریات اور خواہشات کا دائرہ اتنا وسیع ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک او سط درجہ کی آمدی میں گزر بسرا نہ کر سکتا ہو، اور اسے اپنے دائرہ سے پاؤں نکال کر دوسروں کی کمائیوں میں حصہ لٹاسنے کی ضرورت پیش آئے۔ یا اگر وہ او سط سے زیادہ آمدی رکھتا ہو تو تو اپنا تمام مال خود اپنی ذات پر خرچ کر دے، اور اپنے اُن بھائیوں کی مدد و کر کے جو او سط سے کم آمدی رکھتے ہوں۔

ایک سوال

یہ ایک مرقع ہے جس میں اسلام کے پورے معاشی نظام کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ اب اس تصور کو دیکھیے اور بار بار دیکھیے، اور بتائیے کہ اس میں آپ سود کو کس جگہ کھپا سکتے ہیں؟ اس کی روح کو دیکھیے، اس کی ساخت کو دیکھیے، اس کے اجزاء اور ان کے باہمی ربط و تعلق کو دیکھیے، اس میں جو معنی اور مقصد پوشیدہ ہے اس کو دیکھیے، اس میں کہاں سودی لین دین کی گنجائش یا ضرورت ہے؟ کہاں نظام سرمایہ داری کے اداروں میں سے کسی ادارے کو رکھنے کی جگہ یا اس کی حاجت ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہو ناچاہیے، تو اس کے بعد دوبارہ ایک غائر نظر اس تصور پر ڈالیے اور بتائیے کہ اس میں اخلاقی، تمدنی اور معاشی نقطہ نظر سے کہاں آپ کو نقص نظر آتا ہے؟ اخلاق اور تمدن کے بلند تر مصالح کو آپ چھوڑ ناچاہتے ہیں تو چھوڑیں۔ اگر معیشت ہی انسانی زندگی میں ایک اہم چیز ہے تو غالباً معاشی حیثیت ہی سے دیکھ دیجیے، کیا اس نظم معیشت کے اصول و فروع میں کوئی خرابی ہے؟ کیا اس میں دلائل اور شواہد کی قوت سے کوئی ایسی تہیم پیش کی جاسکتی جس کے بغیر یہ نظم بجا ہے خود ناقص ہو؟ اس سے بہتر کوئی دوسرا نظم معیشت تجویز کیا جاسکتا ہے جس میں فرد اور ٹھاٹھت کے درمیان حقوق اور مفاد است کا اس سے زیادہ صحیح توازن قائم کیا گیا ہو اور انفرادی و اجتماعی خلاف و بیوود کی کسان رحمائیت اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ملحوظ رکھی گئی ہو؟ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا اور ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں ہو سکتا اور ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں ہو سکتا تو کیا عقل و دانش کا یہی مقام نہ ہے کہ آپ اول تو اپنی کمزوری سے اس بہترین نظم معیشت کو چھوڑ کر دنیا کے سب سے بدتر اسب سے زیادہ غلط اور باتفاق انتاج سب سے زیادہ تباہ کن نظم معیشت کی پروردی کریں، اور پھر اس پر نادم بھی نہ ہوں۔ اپنے ضمیر پر گناہ کا بار بھی نہ رہنے دیں اور اس گناہ کو صواب، اس فسق و حسیان کو طاعت قرار دینے کے لیے آیات قرآنی و احادیث نبوی میں باطل تاویلیں کریں، اور اس شیطانی نظم معیشت کے فاسد اور کان کو لے کر اسلام کے پاک اور مطہر نظام معاشی

میں پیوست کرنے کی کوشش کریں، بلا لمحاظ اس کے کہ اسلام کے اصول اور اس کی روح اور اس کے مزاج سے ان چیزوں کو کتنی ہی شدید نامناسبت ہو؛ پہلے تو آپ حکیم کے بتائے ہوئے نسخے کو چینک دیتے ہیں، اس کی تدبیر حفظ صحت سے اعراض و انکار کرتے ہیں، جو پرہیز اس نے تجویز کیا ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ پھر جب مرض بڑھتا ہے اور موت سامنے نظر آتی ہے تو اسی حکیم سے کہتے ہیں کہ جس عطاوی کے نسخوں نے مجھے بیمار ڈالا ہے اسی کا نسخہ توبجھے اپنے ہاتھ سے لکھ دے۔ جن بدر پرہیز ملوں نے مجھے جان بلبک کیا ہے انہی کی اجازت دے دے۔ جس چیز کو تو نے زہر بتایا تھا اسی کو کہہ دے کہ یہ تریاق ہے! آخر اس بوا بعجی کی کوئی انتہا بھی ہے؟"

حرمت سود

ا-سلبی پہلو

اسلامی نظمِ عدیشت اور اس کے ارکان کا جو مختصر خاکہ پچھلے باب میں پیش کیا گیا ہے اس میں چار چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں :-

۱۔ آزادِ عدیشت چند حدودِ قیود کے اندر۔

۲۔ زکوٰۃ کی فرضیت۔

۳۔ قانونِ میراث۔

۴۔ سود کی حرمت۔

ان میں پہلی چیز کو کم از کم اصولی طور پر وہ سب لوگ اب درست تسلیم کرنے لگے ہیں جن کے سامنے بے قید سرمایہ داری کی قباحتیں اور اشتراکیت و فاشیت کی شناختیں سپرے نقاب ہو چکی ہیں۔ اس کی تفصیلات کے بارے میں کچھ انجمنیں ذہنوں میں ضرور پائی جاتی ہیں، مگر ہمیں امید ہے کہ ہماری کتاب "اسلام اور جدید معاشی نظر پاٹ" اور "مسئلہ ملکیت زمین" کا مطالعہ انہیں دُور کرنے میں کافی مددگار ثابت ہو گا۔

فرضیتِ زکوٰۃ کی اہمیت اب بڑی حد تک دُنیا کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔

کسی صاحبِ نظر سے یہ بات مخفی نہیں رہی ہے کہ اشتراکیت، فاشزم اور سرمایہ دار افراد جمہوریت، اقوام نے اب تک سو شل انشور نس کا جو وسیع نظام سوچا ہے، زکوٰۃ اس سے

بہت زیادہ وسیع پیاسنے پر اجتماعی انسورنس کا انتظام کرتی ہے۔ لیکن یہاں بھی کچھ ممکنیں زکوٰۃ کے تفصیلی احکام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پیش آتی ہیں۔ اور لوگوں کے لیے یہ بات سمجھنی بھی مشکل ہو رہی ہے کہ ایک جدید ریاست کے مالیات میں زکوٰۃ و خمس کو کس طرح نصب کیا جاسکتا ہے۔ ان الجھتوں کو دُور کرنے کے لیے انشاء اللہ ایک مختصر رسالہ احکام زکوٰۃ پر مرتب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

قانون میراث کے پارسے میں اسلام نے تمام دنیا کے قوانین و راشتہ سے بہت کوچ ملک اختیار کیا ہے۔ پہلے اس کی حکمتوں سے بکثرت لوگ ناواقف تھے اور طرح طرح کے اعتراضات اس پر کرتے تھے، لیکن اب بتدربی ساری دنیا اس کی طرف بخوبی جلد ہی ہے۔ حتیٰ کہ روسی اشتراکیت کو بھی اس کی خوش پیشی کرنی پڑی ہے۔ مگر اس نقشے کے پوتھے جو کوسمجمنے میں موجودہ زمانے کے لوگوں کو سخت مشکل پیش کر رہی ہے۔ سرمایہ دار ان علم معاشرت نے پچھلی صدیوں میں تحریک برداشتی گہری بڑاؤں کے ساتھ جمادیا ہے کہ سود کی حرمت محض ایک جذباتی چیز ہے اور یہ کہ بلا سود کسی شخص کو قرض دینا محض ایک اخلاقی رعایت ہے جس کا مطالبہ مذہب نے خواہ خواہ اس قدر مبالغہ کے ساتھ کر دیا ہے ورنہ منطقی حیثیت سے وہ صرف ناقابل اعتراض ہی نہیں بلکہ عمل امغاید اور ضروری بھی ہے۔ اس غلط نظریہ اور اس کی اس پر زور تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ جدید نظام

لہ سو بیٹ روں کے نازہ ترین قانون دراشت میں اولاد، بیوی، شوہر، والدین، بھائیوں، بہنوں اور متینی کو دراثت ملھرا یا گیا ہے۔ نیز یہ قاعدہ بھی مقرر کیا گیا ہے کہ آدمی اپنا ترکہ اپنے حاجت مند قریبی رشتہ داروں اور پیکن اداروں میں تقسیم کرنے کی وصیت کر سکتا ہے مگر رشتہ داروں کا حق مقدم ہے۔ اس کے ساتھ ایسی وصیت فنون ملھرائی گئی ہے جس کا مقصود نابالغ اولاد یا غریب دارثوں کو حق دراثت سے خودم کرنا ہو۔ اس قانون کو دیکھ کر کوئی شخص یہ محسوس کیے بغیر خیں رہ سکتا کہ اشتراکی "ترقی پسندوں" نے ۱۹۵۵ء میں اس قانون کی طرف "رجعت" فرمائی ہے جو ۱۹۴۷ء میں بنایا گیا تھا۔

سرماہی داری کے تمام عیوب پر تو دنیا بھر کے ناقدرین کو کھنگاہ پر طاقتی ہے مگر اس سب سے برطانیہ بندی عیوب پر کسی کی نگاہ نہیں پڑتی جتنی کہ روس کے اشتراکی بھی اپنی حملہ کت میں سرماہی داری نظام کی اس ام المخاشرت کو بر طائیہ اور امریکہ بھی کی طرح پروردش کر رہے ہیں۔ اور حدیہ ہے کہ خود مسلمان بھی اجنبی کو ڈنیلیں مسود کا سب سے برطانیہ میں ہونا چاہیے، مغرب کے اس گراہ کن پر ویگنڈا سے بڑی طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ ہمارے شکست خود دہ اہل مذہب میں یہ عام غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ مسود کوئی قابل اعتراض چیز اگر ہے بھی تو صرف اس صورت میں جب کہ وہ ان لوگوں سے وصول کیا جائے جو اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں اور ہے وہ قرضے جو کار و بار میں لگانے کے لیے حاصل کیے گئے ہوں، تو ان پر سود کا لین دین سراسر چائز و معقول اور حلال و طیب ہے، اور اس میں دین، اخلاق، عقل اور اصول علم معيشت، کسی چیز کے اعتبار سے بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس پر مزید وہ خوش فہمیاں ہیں جن کی بنیا پر قدیم طرز کے بنیوں اور ساہو کاروں کی سود خواری سے موجودہ زمانہ کے بنیکنگ کو ایک مختلف چیز سمجھا جاتا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان بنیکوں کا "ستھرا" کار و بار تو بالکل ایک پاکیزہ چیز ہے جس سے ہر قسم کا تعلق رکھا جاسکتا ہے۔ اسی بنیا پر اب سود کی شرعی تعریف بدلتے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں جس مسود کو حرام کیا گیا ہے اس کی تعریف میں یہ سود سے ہے آتا ہی نہیں۔ ان تمام مغالطوں کے پکر سے جو لوگ مغلک گئے ہیں وہ بھی یہ سمجھنے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں کہ سود کو قانونگابند کر دینے کے بعد موجودہ زمانہ میں مالیات کا نظم کس طرح قائم ہو سکتا ہے۔

اہمده صفحات میں اپنی مسائل کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔

سود کی عقلی توجیہات

سب سے پہلے جس بات کو طے ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا فی الواقع سود ایک معقول چیز ہے؟ کیا درحقیقت عقل کی رو سے ایک شخص اپنے دیئے ہوئے قرض پر سود کا مطالیب کرنے میں حق بجا نہ ہے؟ اور کیا انصاف یہی چاہتا ہے کہ جو شخص کسی سے

قرض نے وہ اس کو اصل کے علاوہ کچھ سود بھی دے؟ یہ اس بحث کا اولین سوال ہے اور اس کے طے ہونے سے آدمی سے زیادہ بحث اپ سے آپ طے ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر سود ایک معقول چیز ہے تو پھر تحریم سود کے مقدمے میں کوئی جان باقی نہیں رہتی اور اگر سود کو عقل و انصاف کی رو سے درست ثابت نہیں کیا جاسکتا تو پھر یہ امر غور طلب ہو جاتا ہے کہ انسانی معاشرے میں اس نامعقول چیز کو باقی رکھنے پر آخر کیوں اصرار کیا جائے؟

توجیہ اول

اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے جس دلیل سے ہم کو سابقہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کو اپنا پس انداز کیا ہوا مال قرض دیتا ہے وہ خطرہ مول لیتا ہے، ایشارہ کرتا ہے، اپنی ضرورت روک کر دوسرے کی ضرورت پوری کرتا ہے، جس مال سے وہ خود فائدہ اٹھا سکتا تھا اسے دوسرے کے حوالہ کرتا ہے۔ قرض نہیں داسے نے اگر قرض اس لیے لیا ہے کہ اپنی کوئی ذاتی ضرورت اس سے پوری کرے تو اسے اس کا کرایہ ادا کرنا چاہیے، جس طرح وہ مکان یا فرنچر یا سواری کا کرایہ ادا کرتا ہے۔ یہ کرایہ اس خطرے کا معاوضہ بھی ہو گا کہ دائن نے اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت خود استعمال کرنے کے مجاز ہے اس کو استعمال کرنے سے یہ مدد دے دی۔ اور اگر ملیون نے یہ قرض کسی نفع آور کام میں لگانے کے لیے لیا ہے تو پھر قوادائن اس پر سود مانگنے کا بدرجہ اولیٰ مستحق ہے۔ جب ملیون اس کی دی ہوئی دولت سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو آخر دائن اس فائدے میں سے کیوں نہ حصہ پائے؟

اس توجیہ کا یہ حصہ بالحل درست ہے کہ قرض دینے والا اپنا مال دوسرے کے حوالہ کرنے میں خطرہ بھی مول لیتا ہے اور ایشارہ بھی کرتا ہے۔ لیکن اس سے یہ تبدیل کیسے ہلکا یا کوہ اس خطرے اور ایشارہ کی تجسس پارچی یاد میں صدی سالانہ یا ششماہی یا ماہوار کے حساب سے دصول کرنے کا حق رکھتا ہے؟ خطرے کی بنیاد پر جو حقوق معقول طریقہ سے اس کو پہنچتے ہیں وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہیں کہ وہ ملیون کی کوئی چیز رہن رکھنے لے دیا اس

کی کسی چیز کی کفالت پر قرض دے، یا اس سے کوئی خامن طلب کرے، یا پھر سب سے خطرہ ہی مول نہ لے اور قرض دینے سے انکار کر دے۔ مگر خطرہ نہ تو کوئی مال تجارت ہے جس کی کوئی قیمت ہو اور نہ کوئی مکان یا فرنچر یا سواری ہے کہ اس کا کوئی کرایہ ہو سکے۔ رہا ایشارہ تو وہ اُسی وقت تک ایشارہ ہے جب تک کہ وہ کار و بار نہ ہو۔ آدمی کو ایشارہ کرنا ہو تو پھر ایشارہ ہی کرے اور اس اخلاقی فعل کے اخلاقی فوائد پر راضی رہے۔ اور اگر وہ معادنے کی بات کرتا ہے تو پھر ایشارہ کا ذکر نہ کرے بلکہ سیدھی طرح سوداگری کرے اور یہ بتائے گے کہ وہ قرض کے مقابلہ میں اصل رقم کے علاوہ ایک مزید رقم ہو اور یا سالانہ کے حساب سے جو وصول کرتا ہے اس کا آخر وہ کس بیان پر مستحق ہے؟

کیا یہ ہر جانہ ہے؟ مگر جو رقم اس نے قرض دی ہے وہ اس کی ضرورت سے زائد تھی، اور اس سے وہ خود استعمال بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے یہاں فی الواقع کوئی "ہرج" واقع ہی نہیں ہوا کہ اپنے دیئے ہوئے اس قرض پر وہ کوئی "ہر جانہ" لیتے کا مستحق ہو۔

کیا یہ کرایہ ہے؟ مگر کرایہ تو ان چیزوں کا ہوا کرتا ہے جنہیں کرایہ دار کے لیے جنتا کرنے اور درست رکھنے پر آدمی اپنا وقت امتحنت اور مال صرف کرتا ہے اور جو کرایہ دار کے استعمال سے خراب ہوتی ہیں، ٹوٹتی پھوٹتی ہیں اور اپنی قیمت کھوئی رہتی ہیں۔ یہ تعریف اشیائیہ استعمال، مثلاً مکان، فرنچر اور سواری وغیرہ پر تو صادق آتی ہے، اور اپنی کارایہ ایک معقول چیز ہے، لیکن اس تعریف کا اطلاق کسی طرح بھی نہ تو اشیاء صرف، مثلاً گھروں اور بیتل وغیرہ پر ہوتا ہے اور نہ وہ پرے پر ہوتا ہے جو محض اشیاء اور خدمات خریدنے کا ایک فریبہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا کرایہ ایک بے معنی چیز ہے۔

زیادہ سے زیادہ ایک دائن جو کچھ کہہ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ میں دوسرے شخص کو اپنے مال سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے رہا ہوں، لہذا مجھے اس فائدے میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ یہ البته ایک معقول بات ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جس فائدہ کش آدمی نے اپنے بھروسے کے بال پرخون کا پیٹ بھرنے کے لیے تم سے ۵ روپے حاصل کیے ہیں، کیا واقعی وہ تمہارے دیئے ہوئے غلے یا روپے سے ایسا ہی "فائده" ہے؟

اٹھارہ ہے جس میں سے تم ایک چھٹا نک فی سیر ۲۴ روپے فی صد ماہوار کے حساب سے اپنا حصہ پانے کے متعلق ہو؟ فائدہ تو وہ ہے شکر اٹھارہ ہے۔ اس استفادے کا موقع بلاشبہ تم نے ہی اسے دیا ہے، لیکن عقل، انصاف، معاشی علم، کار و باری اصول آخوندگی کی رو سے اس فائدے اور اس موقع استفادہ کی یہ قویت قرار پاتی ہے کہ تم اس کی ایک مالی قیمت مشخص کرو، اور قرض مانگئے والے کی مصیبت بھی زیادہ سخت ہو اتنی ہی یہ قیمت بھی زیادہ ہو جائے، اور اس کی مصیبت زدگی کا زمانہ جتنا دراز ہوتا جائے تمہارے دیشے ہوئے اس "موقع استفادہ" کی قیمت بھی ہمینوں اور برسوں کے حساب سے اس پر بڑھتی اور بڑھتی چلی جائے؟ تم اگر اتنا بڑا ادل نہیں رکھتے کہ حاجتمند اور آافتہ رسیدہ انسان کو اپنی ضرورت سے زائد بچا ہوا مال عطا کر دو، تو حد سے حد بجواتے تمہارے لیے معقول ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی رقم کی واپسی کا اطمینان کر کے اسے قرض دے دو۔ اور اگر تمہارے دل میں قرض دینے کی بھی گنجائش نہیں ہے تو بد رجہ آخر یہ بھی ایک معقول بات ہو سکتی ہے کہ تم اسے سے اس کو کچونہ دو مگر کار و بار اور تجارت کی یہ کون سی معقول صورت ہے کہ ایک شخص کی مصیبت اور تخلیف تمہارے لیے نفع اندوں کا موقع ظہرے، جو کے پیٹ اور جان بدب مربع تمہارے لیے روپیہ لگانے (Investment) کی جگہ قرار پائیں اور انسانی معاشر بنتے بڑھیں اتنے ہی تمہارے نفع کے امکانات بھی بڑھتے چلے جائیں؟

"فائدہ اٹھانے کا موقع دینا" اگر کسی صورت میں کوئی مالی قیمت رکھتا ہے تو وہ صرف وہ صورت ہے جب کہ روپیہ لینے والا اسے کسی کار و باری کا گارہ ہو۔ اس صورت میں روپیہ دینے والا یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ مجھے اس فائدے میں سے حصہ ملنا چاہیے یہ میرے روپے سے دوسرا شخص اٹھارہ ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ سرمایہ بجاۓ تو خود کوئی منافعہ پیدا کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا، بلکہ منافعہ صرف اس صورت میں پیدا کرتا ہے جب انسانی محنت و ذہاشت اس پر کام کرے۔ پھر انسانی محنت و ذہاشت اس کے ساتھ لگتے ہی منافعہ پیدا کرنا نہیں شروع کر دیتی، بلکہ اس کے نفع اور ہونے

میں ایک مدت در کار ہوتی ہے۔ مزید برآں اس کا نفع آور ہونا یقینی نہیں ہے، اس میں نقصان اور دیوالہ کا بھی امکان ہے۔ اور نفع آور ہونے کی صورت میں بھی یہ پہنچی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کس وقت کتنا نفع پیدا کرے گی۔ اب یہ بات کس طرح معقول ہو سکتی ہے کہ روپیہ دینے والے کامنا فدرا سی وقت سے شروع ہو جائے جب کہ انسانی محنت ذہانت نے اس روپے کو ابھی ہاتھ ہی لگایا ہو؟ اور اس کے منافع کی شرح اور مقدار بھی میقین ہو، جب کہ سرمایہ کے ساتھ انسانی محنت کے ملنے سے نفع پیدا ہونا در توقیین ہے، اور نہ یہ معلوم ہے کہ اس سے فی الواقع کتنا نفع پیدا ہو گا؟

معقولیت کے ساتھ ہو بات کی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنا پس انداز کیا ہوا روپیہ کسی نفع آور کام میں لگانا چاہتا ہو اسے محنت کرنے والوں کے ساتھ شرکت کا معاملہ کرنا چاہیئے اور نفع نقصان میں ایک طبقہ مدد و تعاون کے مطابق حصہ دار میں جانا چاہیئے۔ نفع کرنے کا یہ آخر کو نامعقول طریقہ ہے کہ میں ایک شخص کا شرکت بننے کے بعد اسے سور روپے قرض دوں اور اس سے کہوں کہ پونکہ تو اس رقم سے فائدہ اٹھائے گا اس لیے تجھ پر میرا یہ حق ہے کہ مجھے مثلاً ایک روپیہ ماہوار اس وقت تک دیتا رہ جب تک میرے یہ روپے تیرے کار و بار میں استعمال ہو رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جب تک اس سرمایہ کو استعمال کر کے اس کی محنت نے نفع پیدا کرنا نہ شروع کیا ہو اُس وقت تک آخر وہ کون سامنا فدرا موجود ہے جس میں سے حصہ مانگنے کا مجھ تک ہنچتا ہو؟ اگر وہ شخص کار و بار میں فائدے کے بجائے نقصان اٹھائے تو میں کس عقل و انصاف کی رو سے یہ ہوا مخالف اس سے وصول کرنے کا حق رکھتا ہوں؟ اور اگر اس کا منافع ایک روپیہ ماہوار سے کم رہے تو مجھے ایک روپیہ ماہوار لینے کا کیا حق ہے؟ اور اگر اس کا کل منافع ایک ہی روپیہ ہو تو کون سا انصاف یہ جائز رکھتا ہے کہ جس شخص نے ہمینہ بھر تک اپنا وقت، محنت، قابلیت اور ذائقی سرمایہ، سب کچھ صرف کیا وہ تو کچھ نہ پائے اور میں جو صرف سور روپے اس کو دے کر الگ ہو گیا تھا، اس کا سارا منافع لے اڑوں؟ ایک بیل بھی اگر تیلی کے لیے دن بھر کو ہو چلاتا ہے تو کم از کم اس سے چارہ مانگنے کا حق تو ضرور رکھتا ہے۔ مگر یہ سودی قرض

ایک کار و باری آدمی کو وہ بیل بنادیتا ہے جسے کو لہو تو دن بھر میرے لیے سلانا چاہیئے اور چارہ کہیں اور سے کھانا چاہیئے۔

بھر اگر بالفرض ایک کار و باری آدمی کامنا فرع اس معین رقم سے نہ اندھی رہے تو قرض دینے والے نے سود کے طور پر اس کے ذمہ لگائی ہو، تب بھی عقل، انصاف، اصول تجارت، اور قانون معيشت، کسی چیز کی رو سے اس بات کو معقول ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ تاجرو صناع، کاشت کار، اور در سرے تمام وہ لوگ جو اصل عالمیں پیدا کش ہیں، جو سوسائٹی کی ضروریات تیار اور فراہم کرنے میں اپنے اوقات صرف کرتے ہیں، مختیں برداشت کرتے ہیں، دماغ لڑاتے ہیں، اور اپنے جسم و ذہن کی ساری قویں کھپا دیتے ہیں، ان سب کا فائدہ تو مشتبہ اور غیر معین ہو مگر صرف اس ایک آدمی کا فائدہ یقینی اور معین ہو جس نے اپنی پس انداز کی ہوئی رقم قرض دے دی ہے۔ ان سب کے لیے تو نقصان کا خطرہ بھی ہو مگر اس کے لیے خالص نفع کی گارنٹی ہو۔ ان سب کے نفع کی شرح بازار کی قیمتیں کے ساتھ گرتی اور چھاصتی رہے، مگر یہ ایک اللہ کا بندہ جو نفع اپنے لیے طے کر چکا ہے وہ اسے جوں کا توں ماہ بماہ اور سال بسال ملتا رہے۔

لہ اس مقام پر ایک شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ پھر تم زمین کے لگان کو کس طرح جائز مظہراتے ہو جب کہ اس کی پوزیشن بھی بعینہ سود کی ہے؟ مگر درحقیقت یہ اعتراض ان لوگوں پر وارد ہوتا ہے جو زمین کے نقد لگان، مثلاً ۲۰ روپیہ بیگدی یا ۰.۵ روپیہ ایک روپ کے حساب سے پہنچی معین کر لیتے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، بلکہ میں خود بھی اسے سود سے مشابہ سمجھتا ہوں، اس لیے اس اعتراض کا جواب میرے ذمہ نہیں ہے۔ میرا ملک یہ ہے کہ مالک زمین اور کاشت کار کے درمیان معاملہ کی صحیح صورت بٹائی ہے، یعنی یہ کہ جتنی پیداوار ہوگی اس کا اتنا حصہ زمیندار کا اور اتنا کاشت کار کا۔ یہ معاملہ تجارتی حصہ داری سے مشابہ ہے اور اس کو میں جائز سمجھتا ہوں مگر اکیلے زمین، تو اس کی یہ صورت میرے ذمہ دیکھ جائز ہے ربا قی صفوہ ہو پر

توجیہ دوم

اس تنقید سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بادی انتظار میں سود ایک معقول چیز قرار دینے کے لیے جو دلائل کافی سمجھے لیے جاتے ہیں، اور اگر ہر ایسی میں جاتے ہیں ان کی کمزوری کھلنی شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں تک اس قرض کا تعلق ہے جو شخصی حاجات کے لیے یا جاتا ہے، اس پر سود عائد ہونے کے لیے تو سرے سے کوئی عقلی دلیل موجود ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ حامیاں سود نے خود ہی اس کمزور مقدمے سے باقاعدہ اٹھا لیا ہے۔ رہا وہ قرض جو کار و باری اغراض کے لیے یا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی حامیاں سود کو اس پر چیز پر سوال سے سابقہ پیش آتا ہے کہ سود آخر کس چیز کی قیمت ہے؟ ایک دائی اپنے سرمایہ کے ساتھ مدیون کو وہ کون سی جوہری (Substantial) چیز دیتا ہے جس کی ایک مالی قیمت، اور وہ بھی ماہ بہاہ دسال ہے سال ادا شد فی قیمت مانگنے کا اے حق پہنچتا ہو؟ اس چیز کے مشخص کرنے میں حامیاں سود کو خاصی پریشانی پیش آئی۔

ایک گروہ نے کہا کہ وہ "فائدہ اٹھانے کا موقع" ہے۔ لیکن جیسا کہ اوپر کی تنقید سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے، یہ "موقع" کسی متعین اور تلقینی اور روزہ افزون قیمت کا استحقاق پیدا نہیں کرتا، بلکہ صرف اس صورت میں ایک متناسب نفع کا استحقاق پیدا کرتا ہے جب کہ فی الواقع روپیہ لینے والے کو نفع ہو۔

دوسرا گروہ تھوڑی سی پوزیشن تجدیل کر کے کہتا ہے کہ وہ چیز "مہلت" ہے جو دائی اپنے سرمایہ کے ساتھ اس کے استعمال کے لیے مدیون کو دیتا ہے۔ یہ مہلت بجاۓ خود اپنی ایک قیمت رکھتی ہے اور جس قدر یہ دراز ہوتی جائے اس کی قیمت برداشت ہی چل جاتی ہے۔ جس روز آدمی روپیہ لے کر کام میں لگاتا ہے اس روز لے کر اس دن تک جب کہ اس سرمایہ کے ذریعے سے تیار کیا ہوا مال بازار میں پہنچے اور قیمت لائے ایک ایک

(یقینی حاشیہ صفحہ ۵۳) اسے میں نے اپنی کتاب "مسئلہ ملکیت نہیں" میں بیان کر دیا ہے اور اس پر یہ احترام و ارادہ نہیں ہو سکتا۔

لمحہ کار و باری آدمی کے لیے قیمتی ہے۔ یہ ہمہ اگر اسے نہ ملے اور بچ بھی میں سرمایہ اس سے واپس لے لیا جائے تو سرے سے اس کا کار و بار چل بھی نہیں سکتا۔ لہذا یہ وقت روپیہ لے کر لگانے والے کے لیے یقیناً ایک قیمت رکھتا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، پھر کیوں نہ روپیہ دینے والا اس فائدہ میں سے حصہ رہے؟ اور اس وقت کی کمی و بیشی کے ساتھ مددیوں کے لیے نفع کے امکانات بھی لامحالہ کم و بیش ہوتے ہیں، پھر کیوں نہ داشت وقت ہی کی درازی و کوتاہی کے لحاظ سے اس کی قیمت مشخص کرے؟ مگر یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر روپیہ دینے والے کو کس ذریعہ علم سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو شخص کام لگانے کے لیے اس سے روپیہ لے رہا ہے وہ ضرور نفع ہی حاصل کرے گا، نقصان سے دوچار نہ ہو گا؟ اور پھر یہ اس تے کیسے جانا کہ اس کا نفع بھی لازماً اس قدر قیمتی رہے گا لہذا ضرور استنے قیمتی اس کو روپیہ دینے والے کا حصہ ادا کرنا چاہیے؟ اور پھر اس کے پاس یہ حساب لگانے کا آخر کیا ذریعہ ہے کہ وہ وقت جس کے دوران میں وہ مددیوں کو اپنے روپے کے استعمال کی ہمہ دسے رہا ہے لازماً ہر چیزی اور ہر سال اتنا نفع لاتا رہے گا لہذا ضرور اس کی ماہوار یا سالانہ قیمت یہ قرار پافی چاہیے؟ ان سوالات کا کوئی معقول جواب حاصلیں سود کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے بات پھر دیں آجاتی ہے کہ کار و باری معاملات میں اگر کوئی چیز معقول ہے تو وہ صرف نفع و نقصان کی طریقہ اور متناسب حصہ داری ہے ز کہ مگر دباؤ ایک متعین شرح کے ساتھ عائد کر دیا جائے۔

توجیہ سوم

ایک اور گروہ کہتا ہے کہ نفع آوری سرمایہ کی ذاتی صفت ہے، لہذا ایک شخص کا دوسرا کے فرائیم کردہ سرمایہ کو استعمال کرتا بجا گئے خود اس امر کا استحقاق پیدا کرتا ہے کہ داشت ممکن ہے اور مددیوں ادا کرے۔ سرمایہ یہ قوت رکھتا ہے کہ اسٹیلہ صدرست کی تیاری و فراہمی میں مددگار ہو۔ سرمایہ کی مدد سے اتنا سامان تیار ہوتا ہے جتنا اس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سرمایہ کی مدد شامل حال ہونے سے تریادہ مقدار میں

زیادہ اچھا مال تیار ہوتا ہے اور اچھی قیمت دینے والی منڈیوں تک پہنچ سکتا ہے ورنہ کم اور گھٹیا تیار ہوتا ہے اور اسیے موقع پر نہیں پہنچ سکتا جہاں زیادہ قیمت مل سکے۔ یہ ثبوت ہے اس امر کا کہ نفع اوری ایک ایسی صفت ہے جو سرمایہ کی ذات میں ودیعت کردی گئی ہے۔ لہذا مجرد اس کا استعمال ہی سود کا استحقاق پیدا کر دیتا ہے۔

لیکن اقل تیر دعویٰ ہی بد اہمتر غلط ہے کہ سرمایہ میں ”نفع اوری“ نام کی کوئی ذاتی صفت پائی جاتی ہے۔ یہ صفت تو اس میں صرف اُس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ آدمی اسے لے کر کسی مشہر کام میں لگائے۔ صرف اسی صورت میں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ روپیہ لینے والا چونکہ اس سے ایک نافع کام لے رہا ہے اس لیے اسے نفع میں سے حصہ دینا چاہیے۔ مگر جو شخص بجایاری میں علاج پر صرف کرنے کے لیے، یا کسی میتت کی تجویز و تکفیں کے لیے روپیہ قرض لے رہا ہے اس کے پاس یہ آخر کون سی معاشی قدر پیدا کرتا ہے جس میں حصہ بٹانے کا حق دائیں کو پہنچتا ہو؟

پھر جو سرمایہ نفع اور کاموں میں لگایا جاتا ہے وہ بھی لازماً زیادہ قیمت ہی پیدا نہیں کرتا کہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ نفع بخشی اس کی ذاتی صفت ہے۔ بسا اوقات کسی کام میں زیادہ سرمایہ لگادینے سے نفع برداشت کے مجاہے گھٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ اُس طے نقصان کی نوبت آ جاتی ہے۔ آج کل تجارتی دنیا پر تھوڑی تھوڑی مدت بعد بوجرانی دورے (Crisis) پڑتے رہتے ہیں ان کی وجہ پر تو ہے کہ جب سرمایہ دار کاروبار میں بے تحاشا سرمایہ لگاتے چلے جاتے ہیں اور پیداوار بڑھنی شروع ہوتی ہے تو قیمتیں گرنے لگتی ہیں اور افزونی مال کے ساتھ ارزانی قدر رفتہ رفتہ اس حد کو ہٹچ جاتی ہے کہ سرمایہ لگاتے سے کسی نفع کی توقع باقی نہیں رہتی۔

مزید برآں سرمایہ میں نفع اوری کی اگر کوئی صفت ہے بھی تو اس کا وقت فعل میں آنا بہت سی دوسری چیزوں پر مخصر ہے۔ مثلاً اس کے استعمال کرنے والوں کی محنت، قابلیت، ذہانت اور تجربہ کاری۔ دوران استعمال میں معاشی، تمنی اور سیاسی حالات کی سازگاری۔ آفات زمانہ سے محفوظیت۔ یہ اور اسیے ہی دوسرے امور

نفع بخشی کے لازمی شرائط ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پانی جائے تو بسا اوقات سرمایہ کی ساری نفع بخشی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اٹھی نقصان میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مگر سودی کا رو بار میں سرمایہ دینے والا نہ تو خود ان شرطوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے، اور نہیں مانتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی شرط کے مفہوم ہو جانے سے اس کا سرمایہ نفع آور نہ ہو سکا تو وہ کوئی سود دینے کا حق دار نہ ہو گا۔ وہ تو اس بات کا مدعی ہے کہ اس کے سرمایہ کا استعمال بجاۓ خود ایک متعین شرح کے ساتھ سود کا استحقاق پیدا کرتا ہے خواہ فی الواقع کوئی "نفع آوری" اس سے ظہور میں آئی ہو یا نہ آئی ہو۔

بدر جہڑا اخراجی مان لیا جائے کہ سرمایہ کی ذات ہی میں نفع بخشی موجود ہے جس کی بنابر سرمایہ دینے والا نفع میں سے حصہ پانے کا حق ہے، تب بھی اخراج وہ کونسا حساب ہے جس سے تعین کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ آج کل سرمایہ کی نفع بخشی لازماً اس قدر ہے لہذا جو لوگ سرمایہ لے کر استعمال کریں ان کو لازماً اس شرح سے سودا دا کرنا چاہیے؟ اور اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ زمانہ حال کے لیے اس شرح کا تعین کسی حساب سے ملکن ہے تو ہم یہ سمجھنے سے تو بالکل ہی قاصر ہیں کہ جس سرمایہ عاد نے ۱۹۷۹ء میں کسی کاروباری ادارے سے کو ۰۱ سال کے لیے راجح وقت شرح سود پر قرض دیا تھا اس کے پاس یہ معلوم کرنے کا آخر کیا ذریعہ تھا کہ آئندہ دس اور سیس سال کے دوران میں سرمایہ کی نفع بخشی ضرور آج ہی کے معیار پر قائم رہے گی؟ خصوصاً جب کہ ۱۹۷۹ء میں بازار کی شرح سود ۱۹۷۹ء سے بالکل مختلف ہو اور ۱۹۷۹ء میں اس سے بھی زیادہ مختلف ہو جائے۔ تب کس دلیل سے اس شخص کو حق بجانب ٹھہرا�ا جائے گا جس نے ایک ادارے سے دس سال کے لیے دوسرے ادارے سے بیس سال کے لیے ۱۹۷۹ء کی شرح کے مطابق سرمایہ کے متوقع منافع میں سے اپنا حصہ قطعی طور پر تعین کرایا تھا؟

توجیہ چہارم

آخری توجیہ میں ذرا زیادہ ذہافت صرف کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ:-

انسان فطرتاً حاضر کے فائدے سے، لطف، لذت اور آسودگی کو دُور دراٹ مستقبل کے فوائد و لذائی پر ترجیح دیتا ہے۔ مستقبل جتنا دُور ہو اسی قدر اس کے فوائد و لذائی مشتبہ ہوتے ہیں اور اسی مناسبت سے آدمی کی شگاہ میں ان کی قیمت کم ہوتی جاتی ہے۔ اس ترجیح عاجله اور مردود حیثیت آجہ کے متعدد وجوہ ہیں مثلاً:-

۱۔ مستقبل کا متادھکی میں ہونا اور زندگی کا غیر یقینی ہونا جس کی وجہ سے مستقبل کے فوائد مشتبہ بھی ہوتے ہیں اور ان کی کوئی تصور بھی آدمی کی چشم تصوریں نہیں ہوتی۔ بخلاف اس کے آج ہونے کا نقد فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ یقینی بھی ہے اور اس کو آدمی بچشم سمجھی دیکھ رہا ہے۔

۲۔ جو شخص اس وقت حاجت مند ہے اُس کی حاجت کا اس وقت پورا ہو جانا اُس کے لیے اس سے بہت زیادہ قیمت رکھتا ہے کہ آئندہ کسی موقع پر اُس کو وہ چیز ملے جس کا ممکن ہے کہ وہ اس وقت حاجت مند ہو اور ممکن ہے کہ نہ ہو۔

۳۔ جو مال اس وقت مل رہا ہے وہ بالفعل کام آمد اور قابل استعمال ہے، اس لحاظ سے وہ اُس مال پر فوقیت رکھتا ہے جو آئندہ کسی وقت حاصل ہو گا۔

ان وجوہ سے حاضر کا نقد فائدہ مستقبل کے مشتبہ فائدے پر ترجیح رکھتا ہے۔ لہذا آج جو شخص ایک رقم قرض لے رہا ہے اس کی قیمت لازماً اُس رقم سے زیادہ ہے جو وہ کل دائن کو ادا کرے گا، اور سود وہ قدر پر زائد ہے۔ جو ادائیگی کے وقت اصل کے ساتھ شامل ہو کر اس کی قیمت کو اُس رقم کے برابر کرتی ہے جو قرض دیتے وقت دائن نے اس کو دی تھی۔ مثال کے طور پر اس معاملہ کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص ساہو کار کے پاس آتا ہے اور اس سے سور وپے قرض مانگتا ہے۔ ساہو کار اس سے یہ بات طے کرتا ہے کہ آج سور وپے وہ اس کو دے رہا ہے ان کے بدلتے میں وہ ایک سال بعد اس سے ۳۰۰ روپے لے گا۔ اس معاملہ میں دراصل حاضر کے .. اروپوں کا تباہہ مستقبل کے ۳۰۰ روپے سے ہو رہا ہے۔ تین روپے اُس فرق کے برابر ہیں جو حاضر کے مال اور مستقبل کے مال کی نفسیاتی (ذکر معاشی) قیمت کے درمیان پایا جاتا ہے۔ جب

تک یہ تین روپے ایک سال بعد کے ۱۰ روپوں کے ساتھ شامل ہوں گے ان کی قیمت ان سور روپوں کے برابر نہ ہو گی جو قرض دیتے وقت دائن نے مدیون کو دیتے تھے۔

یہ توجیہ جس ہوشیاری کے ساتھ کی گئی ہے اس کی داد نہ درینا ظلم ہے۔ مگر درحقیقت اس میں حاضر اور مستقبل کی نفسیاتی قیمت کا بوجو فرق بیان کیا گیا ہے وہ ایک مغالطہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔

کیا فی الواقع انسانی فطرت حاضر کو مستقبل کے مقابلہ میں فریادہ اہم اور زیادہ قیمتی سمجھتی ہے؟ اگر یہ بات ہے تو کیا وجہ ہے کہ بیشتر لوگ اپنی ساری کمائی کو آج ہی خرچ کر ڈالنا مناسب نہیں سمجھتے بلکہ اس کے لیکن حصے کو مستقبل کے بیسے بچا رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ شاید آپ کو ایک فیصدی بھی ایسے آدمی نہ ملیں گے جو غفردا سے بے نیاز ہوں اور آج کے لطف ولذت پر اپنا سارا مال اٹھا دینے کو ترجیح دیتے ہوں۔ کم از کم ۹۹ فیصدی انسانوں کا حال تو ہی ہے کہ وہ آج کی ضرورتوں کو روک کر کل کے لیے کچھ نہ کچھ سامان کر رکھنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ مستقبل میں ٹھیک آنے والی بہت سی متوقع اور ممکن ضرورتیں اور اندیشناک صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا خیالی نقشہ آدمی کی نگاہ میں اُن حالات کی بہ نسبت زیادہ بڑا اور اہم ہوتا ہے جن سے وہ اس وقت کسی نہ کسی طرح لشتم پشم گزرے چاہ رہا ہے۔ پھر وہ ساری دوڑھوپ اور تلگ دوڑھو ایک انسان زمانہ حال میں کرتا ہے اس سے مقصود آخر اس کے سوا کیا ہوتا ہے کہ اس کا مستقبل بہتر ہو؟ ابھی آج کی مختتوں کے سارے ثمرات آدمی اسی کو شش میں تو کھپاتا ہے کہ اس کے آنے والے ایام زندگی آج سے زیادہ اچھی طرح بسر ہوں۔ کوئی احمق سے احمد آدمی بھی بھسل آپ کو ایسا مل سکے گا جو اس قیمت پر اپنے حاضر کو خوش آئندہ بنانا پسند کرتا ہو کہ اس کا مستقبل خراب ہو جائے یا کم از کم آج سے زیادہ بدتر ہو۔ جہالت و نادانی کی بنابر آدمی ایسا کر جائے یا کسی وقت خواہش کے طوفان سے مغلوب ہو کر ایسا کر گزرے تو بات دوسرا ہے اور دوسرا سمجھا کر

تو کوئی شخص بھی اس روایتے کو صحیح و معقول قرار نہیں دیتا۔

پھر اگر تھوڑی دیر کے لیے اس دعوے کو جوں کا توں مان بھی لیا جائے کہ انسان حاضر کے اطمینان کی خاطر مستقبل کے نقصان کو گوارا کرنا درست سمجھتا ہے، تب بھی وہ استدلال ٹھیک نہیں۔ مجھتا جس کی بنا اس دعوے پر کمی گئی ہے۔ قرض لیتے وقت جو معاملہ دائن اور مدیون کے درمیان طے ہوا تھا اس میں آپ کے قول کے مطابق حاضر کے ۱۰۰ روپوں کی قیمت ایک سال کے بعد ۲۰۰ روپوں کے برابر تھی۔ لیکن اب جو ایک سال کے بعد مدیون اپنا قرض ادا کر لے گیا تو واقعی صورت معاملہ کیا تھی؟ یہ کہ حاضر کے ۱۰۰ روپے ماضی کے سور روپوں کے برابر ہو گئے۔ اور اگر پہلے سال مدیون قرض ادا نہ کر سکا تو دوسرا سال کے خاتمے پر ماضی بعید کے سور روپوں کی قیمت حاضر کے ۶۰۰ روپوں کے برابر ہو گئی۔ کیا فی الواقع ماضی اور حال میں قدر و قیمت کا یہی تناسب ہے؟ اور کیا یہ اصول بھی صحیح ہے کہ جتنا جتنا ماضی پڑانا ہوتا جائے اس کی قیمت بھی حال کے مقابلے میں راستی جلی جائے؟ کیا پہلے گز دی ہوئی خود رتوں کی آسودگی آپ کے لیے اتنی ہی قابل قدر ہے کہ جو روپیہ آپ کو ایک مرتب دراز پہلے ملا تھا اور جس کو خرچ کر کے آپ کبھی کا نیٹا نہیں کر سکے ہیں، وہ آپ کے لیے زمانے کی ہر ساعت گزرنے پر حاضر کے روپے سے زیاد قیمتی ہوتا چلا جائے ایسا تکہ اگر آپ کو سور روپے متمم کیے ہوئے بچا سی گز دی سکے ہوں تو اب ان کی قیمت ڈھائی سور روپے کے برابر ہو جائے؟

شرح سود کی "معقولیت"

یہ ہے ان دلائل کی کل کائنات جو سودخواری کے درکیل اس کو عقل و انصاف کی رو سے دیکھا جائز و مناسب چیز ہابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تنقید سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ معقولیت سے اس ناپاک چیز کو دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی ذہنی دلیل سے بھی اس کی کوئی معقول وجہ پیش نہیں کی جاسکتی کہ سود کیوں لیا اور دیا جائے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جو چیز اس قدر غیر معقول تھی، مغرب کے علماء اور مفکرین نے اس کو

باکل بدریہ بیانات و مسلمات میں شامل کر لیا اور نفس سود کی معقولیت کو گویا ایک طبقے شدہ جبراقت اور مانی ہوئی حقیقت فرض کر کے ساری گفتگو اس امر پر مرکوز کر دی کہ شرح سود "معقول" ہوئی چاہیے۔ دورِ جدید کے مغربی لفڑ پھر میں یہ بحث تو آپ کو کم جی ملے گی کہ سود بجا نئے خود لینے اور دینے کے لائق چیز ہے بھی یا نہیں، البتہ جو کچھ بھی رد و قدر آپ ان کے ہاں دیکھیں گے وہ زیادہ تر اس امر سے متعلق ہو گی کہ فلاں شرح سود بے جا اور "حد سے بڑھی ہوئی" ہے اس لیے قابل اعتراض ہے، اور فلاں شرح "معقول" ہے اس لیے قابل قبول ہے۔

مگر کیا فی الواقع کوئی شرح سود معقول بھی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس سوال کو نظر انداز کیے دیتے ہیں کہ جس چیز کا بجا نئے خود معقول ہونا ثابت نہیں کیا جاسکتا اس کی شرح کے معقول یا نامعقول ہونے کی بحث پیدا ہی کہاں ہوتی ہے۔ اس سوال سے قطع نظر کر کے ہم صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کون سی شرح سود ہے جس کو فطری اور معقول کہا جاتا ہے؟ اور ایک شرح کے لیے بے جایا بجا ہونے کا آخر معیار کیا ہے؟ اور کیا درحقیقت دنیا کے سودی کار و بار میں شرح سود کا تعین کسی عقلی (Rational) بنیاد پر ہو رہا ہے؟

اس سوال کی جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو اولین حقیقت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ "معقول شرح سود" نامی کوئی چیز دنیا میں کبھی نہیں پائی گئی ہے۔ مختلف شرحوں کو مختلف زمانوں میں معقول تھہرا یا گیا ہے اور بعد میں وہی شریعیں نامعقول قرار دے دی گئی ہیں۔ بلکہ ایک ہی زمانہ میں ایک جگہ معقول شرح کچھ ہے اور دوسری جگہ کچھ اور — قدم ہندو دوستی کو تلیہ (Kautilya) کی تصریح کے مطابق ہے۔ ۴۰۰ قی صدی سالاں تک شرح سود باکل معقول اور جائز سمجھی جاتی تھی، اور اگر خطرہ زیادہ ہو تو اس سے بھی زیادہ شرح ہو سکتی تھی۔ اٹھارہویں صدی کے وسط آخراً درائیں صدی کے سطراویں میں ہندوستانی ریاستوں کے جو مالی معاملات ایک طرف دیسی ساہو کاروں سے اور دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت سے ہوتے تھے ان میں بالعمده

فی صدی سالانہ شرح رائج تھی۔ ۱۹۳۰ء کی جنگ عظیم کے زمانے میں، حکومت ہند نے ۴
فی صدی سالانہ سود پر جنگی قرضے حاصل کیے۔ ۱۹۳۰ء اور ۱۹۳۱ء کے درمیان کو اپنے
سو سائیٹیوں میں عام شرح سود ۱۲ سے ۱۵ فی صدی تک رہی۔ ۱۹۳۰ء اور ۱۹۳۱ء کے
دور میں ملک کی عدالتیں، فی صدی سالانہ کے قریب شرح کو معقول قرار دئی رہیں۔
دوسری جنگ عظیم کے لگ بھگ زمانے میں ریز رو بنک آف انڈیا کا ڈسکوفٹ
دیٹ ۷ فی صدی سالانہ مقرر ہوا اور یہی شرح دورانِ جنگ میں بھی
قائم رہی، بلکہ پونے تین فی صدی پر حکومت ہند کو قرضے ملتے
رہے۔

یہ تو ہے خود ہمارے اپنے بر عظیم کا حال۔ اور یورپ کو دیکھیے تو وہاں بھی اپ
کو کچھ ایسا ہی نقشہ نظر آئے گا۔ سو ہوں صدی کے وسط میں انگلستان میں۔ فی صدی
شرح بالکل معقول قرار دی گئی تھی۔ ۱۹۳۰ء کے قریب زمانے میں یورپ کے بعض مناطق
بنک آف ٹرانس فوجی صدی شرح لگاتے تھے اور خود مجلس اقوام نے یورپ کی ریاستوں کو
این وساطت سے جو قرضے اُس دور میں دلوائے تھے ان کی شرح بھی اسی کے لگ
بھگ تھی۔ مگر آج یورپ اور امریکہ میں کسی کے سامنے اس شرح کا نام لجیے تو وہ پہنچ
اٹھے گا کہ یہ شرح سود نہیں بلکہ لوٹ ہے۔ اب جدید دیکھیے ۷۲ اور ۷۳ فی صدی شرح
کا پڑھا ہے۔ ۷۳ فی صدی انتہائی شرح ہے، اور بعض حالات میں ایک اور ۷۴ اور ۷۵ فی
صدی تک قوبہ پہنچ جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف غریب عوام کو سودی قرض دینے
والے ہماجنوں کے لیے انگلستان میں ۱۹۳۰ء کے منی لینڈریس ایکٹ کی رو سے جو
شرح جائز رکھی گئی ہے وہ ۷۸۷۳ فی صدی سالانہ ہے اور امریکہ کی عدالتیں سود خوار ہماجنوں
کو جس شرح سود کے مطابق سود دلوار ہی ہیں وہ ۳۰۰ سے شروع ہو کر ۶۰۰ فی صدی سالانہ
تک پہنچ جاتی ہے۔ بتائیے ان میں سے کس کا نام فطری اور معقول شرح سود ہے؟
اب ذرا آگے بڑا کر اس مسئلے کا جائزہ لیجیے کہ کیا قی الحقیقت کوئی شرح سود فطری
اور معقول ہو سکتی ہے؟ اس سوال پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کی عقل خود بتا

دے گی کہ شرح سود اگر معقول طور پر تعین ہو سکتی تھی تو صرف اس صورت میں جب کہ اس فائدے کی قیمت مشخص ہوتی رہیا ہو سکتی۔ جو ایک شخص کسی قرض لی ہوئی رقم سے حاصل کرتا ہے۔ مثلاً اگر یہ بات متعین ہو جاتی کہ ایک سال تک سورپے کا استعمال ۲۵ روپے کے برابر فائدہ دیتا ہے تو البتہ یہ طے کیا جاسکتے تھا کہ اس فائدے میں سے ۵ یا ۴ یا ۳ اروپیہ اس شخص کا فطری اور معقول حصہ ہے جس کی رقم دوران سال میں استعمال کی گئی ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ اس طرح سے استعمال سرماہی کا فائدہ نہ تو مشخص کیا گیا ہے، نہ کیا جاسکتا ہے، نہ بازاری شرح سود کے تعین میں کبھی اس امر کا لحاظ کیا جاتا ہے کہ روپیہ قرض لینے والے کو اس سے کتنا فائدہ ہو گا بلکہ کوئی فائدہ ہو گا بھی یاد نہیں۔ جملہ کچھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ چاہجئی کار و بار میں تو قرض کی قیمت قرض مانگنے والے کی مجبوری کے لحاظ سے مشخص ہوتی ہے، اور تجارتی سودخواری کی منڈی میں شرح سود کا انتار چڑھا د کچھ دسری بنیادوں پر ہوتا رہتا ہے جن کو حقل اور انصاف سے کوئی دُور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔

شرح سود کے وجوہ

مہاجنی کار و بار میں ایک مہاجن بالعموم یہ دیکھتا ہے کہ جو شخص اس سے قرض مانگنے آیا ہے وہ کس حد تک غریب ہے، لکھا مجبور ہے اور قرض ملنے کی صورت میں کس قدر زیادہ مبتلا ٹھے اذیت ہو گا۔ انہی چیزوں کے لحاظ سے وہ طے کرتا ہے کہ مجھے اس سے کتنا سود مانگنا چاہیے۔ اگر وہ کم غریب ہے، کم رقم مانگ رہا ہے اور بہت زیادہ پریشان نہیں ہے تو شرح سود کم ہو گی۔ اس کے بعد کم وہ جتنا زیاد و خستہ حال اور جس قدر زیادہ سخت حاجت مند ہو گا اتنی ہی شرح برصغیر ملی جائے گی، جتنی کہ اگر کسی فاقہ کش آدمی کا کچھ بیماری کی حالت میں دم توڑ رہا ہو تو چار پانچ سو فی صدی شرح سود بھی اس کے معاملہ میں کچھ "تبے جا" نہیں ہے۔ اس طرح کی صورت حال میں "فطری" شرح سود قریب قریب اُسی معیار کے لحاظ سے مشخص ہوتی ہے جس معیار کے لحاظ سے ۱۹۷۴ء کے پہنچا مرد قیامت میں امرتسر کے اٹیشن پر ایک سکھ نے ایک مسلمان سے پانی کے

ایک گلاس کی فطری قیمت ۰۰ روپے وصول کی تھی، کیونکہ اس کا بچہ پیاس سے مر رہا تھا اور پناہ گزینوں کی طرف سے کوئی مسلمان نیچے اٹر کر خود پانی نہیں لے سکتا تھا۔

وہاں دوسری قسم کا بازارِ مالیات، تو اس میں شرح سود کا تعین اور اس کا اعتماد چڑھاو جن بیانوں پر ہوتا ہے ان کے پار سے میں ماہرین معاشیات کے دو مسلک ہیں:-
ایک گروہ کہتا ہے کہ طلب اور رسد کا قانون اس کی بنیاد پر ہے۔ جب روپیہ لگانے کے خواہش مند کم ہوتے ہیں اور قرض دینے کے قابل رقمیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو سود کی شرح گرنے لگتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ بہت زیادہ گرجاتی ہے تو لوگ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کار و بار میں لگانے کے لیے روپیہ قرض لیتے پر بکثرت آمادہ ہونے لگتے ہیں۔ پھر جب روپیہ کی مانگ برطانی شروع ہوتی ہے اور قابل قرض رقمیں کم ہونے لگتی ہیں تو شرح سود برطانی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس حد کو پہنچ جاتی ہے کہ قرض کی مانگ روک جاتی ہے۔

غور کیجئے اسکے محتی کیا ہیں۔ سرمایہ دار یہ نہیں کرتا کہ سیدھے اور معقول طریقہ سے کار و باری آدمی کے ساتھ شرکت کا مقابلہ طے کرے اور انصاف کے ساتھ اس کے واقعی منافع میں اپنا حصہ لگائے۔ اس کے بجائے وہ ایک اندازہ کرتا ہے کہ کار و بار میں اس شخص کو کم اتنا فائدہ ہو گا اپنے اجر رقم میں اسے دے رہا ہو اس پر مجھے اتنا سود ملتا چاہیے۔ دوسری طرف کار و باری آدمی بھی اندازہ کرتا ہے کہ تو روپیہ میں اس سے ملے رہا ہو وہ مجھے زیادہ سے زیادہ اتنا فرع دے سکتا ہے اپنے سود اس سے زیادہ نہ ہونا چاہیے۔ دونوں قیاس (Speculation) سے کام لیتے ہیں۔ سرمایہ دار ہمیشہ کار و بار کے منافع کا مبالغہ آمیز تجھیں کرتا ہے، اور کار و باری آدمی فرع کی امیدوں کے ساتھ نقصان کے اندریوں کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ اس بنابرداری کے درمیان تعاون کے بجائے ایک دائمی کشمکش برپا رہتی ہے جب کار و باری آدمی فرع کی امید پر سرمایہ لگانا چاہتا ہے تو سرمایہ دار اپنے سرمایہ کی قیمت برطانی شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ اتنی برطانی شروع جاتا ہے کہ اس قدر شرح سود پر روپیہ لے کر کام میں لگانا کسی طرح فرع بخش

میں رہتا۔ اس طرح آخر کار روپے کا کام میں لگنا بند ہو جاتا ہے اور معاشی ترقی کی رفتار یکایک رُک جاتی ہے پھر جب کساد بازاری کا سخت دورہ پوری کاروباری دنیا پر پڑ جاتا ہے اور سرمایہ دار دیکھتا ہے کہ اس کی اینی تباہی قریب آئی ہے تو وہ شرح سود کو اس حد تک گرا دیتا ہے کہ کاروباری آدمیوں کو اس شرح پر دوپیہ کرنے کے لگانے میں نفع کی امید ہو جاتی ہے اور صنعت و تجارت کے باز ادب میں پھر سرمایہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر معمول شرائط پر سرمائے اور کاروبار کے درمیان حصہ دار اون تعادن ہوتا تو ایک ہموار طریقے سے دنیا کی معیشت کا نظام حل سکتا تھا۔ لیکن جب قانون نے سرمایہ دار کے لیے سود پر دوپیہ چلانے کا راستہ کھول دیا تو سرمائے اور کاروبار کے باہمی تعلقات میں سڑپاڑی اور خواری پن کی روح داخل ہو گئی اور شرح سود کی کمی و بیشی ایسے تمار بازار اون طریقوں پر ہوتے لگی جن کی بدولت پوری دنیا کی معاشی زندگی ایک دامنی بحران میں بستکار ہتی ہے۔

دوسرا گروہ شرح سود کی توجیہ اس طرح کرتا ہے کہ جب سرمایہ دار روپے کو خود اپنے لیے قابل استعمال رکھنا زیادہ پسند کرتا ہے تو وہ سود کی شرح برطخادیت ہے، اور جب اس کی یہ خواہش کم ہو جاتی ہے تو سود کی شرح بھی گھٹ جاتی ہے۔ رہائی سوال کو سرمایہ دار نقدر دوپیہ اپنے پاس رکھنے کو کیوں ترجیح دیتا ہے؟ تو اس کا جواب دو یہ دیتے ہیں کہ اس کے متعدد وجوہ ہیں۔ کچھ نہ کچھ روپیہ اپنی ذاتی یا کاروباری ضرورتوں کے لیے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور کچھ نہ کچھ ناگہانی حالات اور غیر متوقع ضروریات کے لیے بھی محفوظ رکھنا پڑتا ہے، مثلاً کسی ذاتی معاملہ میں کوئی غیر معمولی شرچ یا کسی اچھے سوچنے کا موقعہ یکایک سامنے آ جانا۔ ان دو وجہوں کے علاوہ تیسرا وجہ، اور زیادہ اہم وجہ یہ ہے کہ سرمایہ دار پسند کرتا ہے کہ مستقبل میں کسی وقت قیمتیں گرنے یا شرح سود پر جانے کی صورت میں فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے پاس نقدر دوپیہ کافی موجود ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دوچوہ کی بنابر روپے کو اپنے لیے قابل استعمال رکھنے کی خواہش سرمایہ دا کے دل میں پیدا ہوتی ہے، کیا وہ گھٹتی برداشتی ہے کہ اس کا اثر شرح سود کے انتار پر جدعاو

کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں مختلف شخصی، اجتماعی، سیاسی اور معاشری اسباب سے کبھی یہ خواہش بڑا ہو جاتی ہے اس لیے سرمایہ دار شرح مسودہ برطھادیتا ہے اور کار و بار کی طرف سرمایہ آنکم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی اس خواہش میں کمی آجاتی ہے اس لیے سرمایہ دار شرح سودگھٹادیتا ہے اور اس کے لکھنے کی وجہ سے لوگ تجارت و صنعت میں لگانے کے لیے زیادہ سرمایہ قرض لینے لگتے ہیں۔

اس خوشنما توجیہ کے پیچے ذرا اچھا نک کر دیجیے کہ کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ جہاں تک خانگی ضروریاست یا ذاتی کار و بار کی ضروریاست کا تعلق ہے، اُن کی بنابر معمولی اور غیر معمولی سب طرح کے حالات میں سرمایہ دار کی یہ خواہش کہ وہ سرمایہ کو اپنے لیے قابل استعمال رکھے، بمشکل اس کے پانچ فی صدی سرمائی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے پہلی دولتوں و جہوں کو خواہ خواہ اہمیت دینا صحیح نہیں ہے۔ اپنا ۹۵ فی صدی سرمایہ جس بیان پر وہ کبھی روکتا ہے اور کبھی بازار قرض کی طرف بہاتا ہے، وہ دراصل تیسری وجہ ہے اور اس کا تجزیہ کیجیے تو اس کے اندر سے اصل حقیقت یہ برآمد ہو گی کہ سرمایہ دار کمال درجہ خود غرضانہ نیست کے ساتھ دنیا کے اور خود اپنے ملک اور قوم کے حالات کو دیکھتا رہتا ہے۔ ان حالات میں کبھی وہ کچھ مخصوص آثار دیکھتا ہے اور ان کی بنابر چاہتا ہے کہ اس کے پاس وہ تجیار ہر وقت موجود رہے جس کے ذریعہ سے وہ سوسائٹی کی مشکلات، آفات اور مصائب کا ناجائز فائدہ اٹھا سکے اور اس کی پریشانیوں میں احتراق کر کے اپنی خوش حالی پڑھ سکے۔ اس لیے وہ سڑہ بازی کی خاطر سرمایہ کو اپنے لیے روک لیتا ہے شرح برطھادیتا ہے تجارت و صنعت کی طرف سرمائی کا بہاؤ کیک لختہ بند کر دیتا ہے اور سوسائٹی پر اس بلاسے عظیم کا دروازہ کھوں دیتا ہے جس کا نام "کساد بازاری" (Depression) ہے۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ اس راستہ جو کچھ حرام خودی وہ کر سکتا تھا کہ چکا، آگے مزید فائدے کا کوئی امکان باقی نہیں رہے، بلکہ نقصان کی سرحد قریب آگئی ہے، تو "سرمائی کو اپنے لیے قابل استعمال رکھنے کی خواہش" اس کے نفسِ خبیث میں کم ہو جاتی ہے اور وہ کم شروع سود کا لارج و سکر کار و باری لوگوں کو صلاحیتے عام دینے لگتا ہے کہ آؤ، میرے یاں بہت سا

روپیہ تمہارے لیے قابل استعمال پڑا ہے۔

شرح سود کی بس بھی دو توجیہات میتوودہ نہ مانے کے ماہرین معاشیات نے کی ہیں، اور اپنی اپنی جگہ دونوں ہی صحیح ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ان میں سے جو وجہ بھی ہوا اس سے اخراج ایک "معقول" اور "فطری" شرح کس طرح متعین ہوتی یا ہو سکتی ہے؟ یا تو ہمیں عقل اور معقولیت اور فطرت کے مفہومات بدلتے پڑیں گے، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ سود خود جس قدر نامعقول چیز ہے اس کی شرح بھی استثنے ہی نامعقول اباب سے متعین ہوتی اور گھٹتی بڑھتی ہے۔

سود کا "معاشی فائدہ" اور اس کی "ضرورت"

اس کے بعد سود کے وکلاء یہ بحث چھپڑا دیتے ہیں کہ سود ایک معاشی ضرورت ہے اور کچھ فوائد ایسے ہیں جو اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس دعوے کی تائید میں بودلائل وہ دیتے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے:-

(۱) انسانی سیاست کا سارا کار و بار سرمائی کے اجتماع پر منحصر ہے، اور سرمائی کا جمع ہونا بغیر اس کے ممکن نہیں کہ لوگ اپنی ضروریات اور خواہشات پر پابندی خالیہ کر سکتے اور اپنی ساری کی ساری آبادیوں کو اپنی ذات پر خرچ نہ کر ڈالیں بلکہ کچھ نہ کچھ پس انداز بھی کرتے رہا کریں۔ یہی ایک صورت ہے سرمایہ اکٹھا ہونے کی۔ لیکن آخر ایک آدمی کیوں اپنی ضروریات کو روکنے اور کفاہت شعاری کرنے پر آمادہ ہو اگر اسے اس ضبطِ نفس اور اس قربانی کا کوئی اجر نہ ملے؟ سود ہی تو وہ اجر ہے جس کی امید لوگوں کو روپیہ بچانے پر آمادہ کرتی ہے۔ تم اسے حرام کر دے گے تو سرے سے فاضل آبادیوں کو محفوظ گرنے کا سلسلہ ہی بند ہو جائے گا جو سرمایہ کی بہم رسائی کا اصل ذریعہ ہے۔

(۲) معاشی کار و بار کی طرف سرمائی کے بہاؤ کی آسان ترین صورت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے اپنی جمع شدہ دولت کو سود پر چلانے کا دروازہ کھلا رہے۔ اس طرح سود ہی کا لایح ان کو اس بات پر بھی آمادہ کرتا رہتا ہے کہ اپنی پس انداز کی ہوئی رقموں کو بیکار نہ ڈال رکھیں بلکہ کار و باری لوگوں کے ہوا رکر دیں، اور ایک مقرر شرح کے مطابق

سود وصول کرتے رہیں۔ اس دروازے کو بند کرنے کے معنی یہ پہنچ کر صرف روپیہ مجمع کرنے کا ایک اہم ترین حرکت غائب ہو جائے بلکہ تو تھوڑا بہت سرمایہ مجمع ہو دے بھی کار و بار میں لگنے کے لیے حاصل ہو سکے۔

(۲) سود صرف یہی نہیں کہ سرمایہ مجمع کرتاتا اور اسے کار و بار کی طرف کھینچ کر لاتا ہے، بلکہ وہی اس کے خیر مفید استعمال کو روکتا بھی ہے۔ اور شرح سود وہ چیز ہے جو ہترین طریقہ سے آپ ہی آپ اس امر کا انتظام کرتی رہتی ہے کہ سرمایہ کار و بار کی کی مختلف علکی تجویزوں میں سے اُن تجویزوں کی طرف جائے جو اُن میں سب سے زیاد ہار آور ہوں۔ اس کے سوا کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی جو مختلف عملی تجویزوں میں سے نافع کو غیر نافع سے اور نریادہ نافع کو کم نافع سے میز کر لے اور انفع کی طرف سرمائی کا رخ پھیرتی رہے۔ تم سود کو ڈراڈو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اُول تو لوگ بڑی بے پرواہی سے سرمایہ استعمال کرنے لگیں گے اور پھر بلا الحافظ لفوح و نقصان، ہر طرح کے اٹے پیدھے کاموں میں اسے لگانا شروع کر دیں گے۔

(۳) قرض وہ چیز ہے جو انسانی زندگی کی ناگزیر ضروریات میں سے ہے۔ افراد کو بھی اپنے ذاتی معاملات میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، کار و باری لوگوں کو بھی آئئے دن اس کی حاجت رہتی ہے، اور مکومتوں کا کام بھی اس کے بغیر نہیں چل سکتا، اس کثرت سے اتنے بڑے پیمانے پر قرض کی بہم رسانی آخر زبردی خیرات کے بیل پر کھاں تک ہو سکتی ہے؟ اگر تم صاحب سرمایہ لوگوں کو سود کا لالپخ مددو گے اور اس امر کا اطمیننا بہم نہ پہنچاؤ گے کہ ان کے راس المال کے ساتھ ان کا سود بھی ان کو ملتا رہے گا تو وہ مشکل ہی قرض دینے پر آمادہ ہوں گے اور اس طرح قرضوں کی بہم رسانی ڈک جانے کا نہایت بُرا اثر پوری معاشی زندگی پر منترب ہو گا۔ ایک غریب آدمی کو اپنے بڑے وقت پر جہاں سے قرض مل تو جاتا ہے۔ سود کا لالپخ نہ ہو تو اس کا مردہ سبے کفن ہی پڑا رہ جائے اور کوئی اس کی طرف مدد کا ہاتھ نہ بڑھائے۔ ایک تاجر کو تنگ واقع پر سودی قرض فوڑا مل جاتا ہے اور اس کا کام چلتا رہتا ہے۔ یہ دروازہ بند ہو جائے تو نہ معلوم کتنی مرتبہ

اس کا دیوالہ نکلنے کی نوبت آجائے۔ ایسا ہی معاملہ حکومتوں کا بھی ہے کہ ان کی ضروریں سودی قرض ہی سے پوری ہوتی رہتی ہیں، اور نہ کروڑوں روپے فراہم کرنے والے سچی داتا آخر انہیں روز روڑ کہاں مل سکتے ہیں؟

کیا سودی الواقع ضروری اور مفید ہے؟

آئیے اب ہم ان سے ایک ایک "فائدے" اور "ضرورت" کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آیا فی الحقيقة وہ کوئی فائدہ اور ضرورت ہے یا یہ سب کچھ حاضر ایک شیطانی دسوسر ہے۔

اولین غلط فہمی یہ ہے کہ معاشی زندگی کے لیے افراد کی کفایت شواری اور زندگی کی ضروری اور مفید چیز سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ معاملہ اس کے بر عکس ہے۔ درحقیقت ساری معاشی ترقی و خوش حالی محصر ہے اس پر کہ جماعت بھیثیت جموعی جتنا کچھ سامان نیست پسیدا کرنا جائے۔ وہ جسلدی جسلدی فروخت ہوتا چلا جائے تاکہ پیداوار اور اس کی کمپت کا چکر تو اذن کے ساتھ اور تیز رفتاری کے ساتھ چلتا رہے۔ یہ بات صرف اُسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب کروگ بالعموم اس امر کے عادی ہوں کہ معاشی سعی و عمل کے ذور ان میں جتنی کچھ دولت ان کے حصہ میں آئے اسے صرف کرتے رہیں، اور اس قدر فراغ دل ہوں کہ اگر ان کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ دولت آگئی ہو تو اسے جماعت کے کم نصیب افراد کی طرف منتقل کر دیا کریں تاکہ وہ بھی بفراغت اپنے لیے ضروریات زندگی خرید سکیں۔ مگر تم اس کے بر عکس لوگوں کو یہ سکھاتے ہو کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت ہچکی ہو وہ بھی کنجوںی برسٹ کر دے جسے تم ضبط انفس اور زہاد اور قرآنی وغیرہ الفاظ سے تحریر کرتے ہو) اپنی مناسب ضروریات کا ایک اچھا خاص اجتنب پورا کرنے سے باز رہے، اور اس طرح ہر شخص زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کی کوشش کرے۔ تمہارے فروکر اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ سرمایہ اکٹھا ہو کر صنعت و تجارت کی ترقی کے لیے بہترین سکے گا۔ لیکن درحقیقت اس کا نقصان یہ ہو گا کہ ہمارا اس وقت بازار میں موجود ہے اس کا ایک بڑا حصہ بہت پڑا رہ جائے گا۔ کیونکہ جن لوگوں کے اندر قوتیت خرید

پہلے ہی کم تھی وہ تو استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سامال خرید نسکے، اور جو بقدر ضرورت خرید سکتے تھے انہوں نے استطاعت کے باوجود پیداوار کا اچھا خاصہ حصہ نہ خریدا، اور جن کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ قوت خریداری پہنچ گئی تھی انہوں نے اُسے دوسروں کی طرف منتقل کرنے کے بجائے اپنے پاس روک کر رکھ لیا۔ اب اگر ہر معاشی چکر میں بھی ہوتا رہے کہ بقدر ضرورت اور زائد از ضرورت قوت خرید پانے والے لوگ اپنی اس قوت کے برطے حصے کو نہ تو خود پیداوار کے خریدنے میں استعمال کریں نہ کم قوت خرید رکھنے والوں کو دیں، بلکہ اب سے روکتے اور جمع کرتے چلے جائیں، تو اس کا حاصل یہ ہو گا کہ ہر چکر میں جماحت کی معاشی پیداوار کا معتدله حصہ فرداخت سے ڈکتا چلا جائے گا۔ مال کی کمپسٹ کم ہونے سے روزگار میں کمی واقع ہو گی۔ روزگار کی کمی آندیوں کی کمی سے پھر اموال تجارت کی کمپسٹ میں مزید کمی دو نہماں ہوتی چلی جائے گی۔ اس طرح چند افراد کی نر اندوڑی بہت سے افراد کی بدحالی کا سبب بنتے گی اور آخر کار یہ ہیز خود اُن نر اندوڑ افراد کے سیلے بھی وہاں جان بن جائے گی، کیونکہ جس دولت کو وہ خریداری میں استعمال کرنے کے بجائے سمیٹ سمیٹ کر مزید پیداوار میں استعمال کرنے گے آخر اس کے ذریعے سے تیار کی ہوئی پیداوار کچھے گی کہاں؟

اس حقیقت پر اگر خود کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اصل معاشی ضرورت تو انہاں اب اور محکمات کو دور کرنا ہے جن کی بنابر افراد اپنی آندیوں کو خرچ کرنے کے بجائے روک رکھنے اور جمع کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ساری جماحت کی معاشی فلاخ یہ پاہتی ہے کہ ایک طرف اجتنبی طور پر ایسے انتظام اس کر دیئے جائیں جن کی بدولت ہر شخص کو اپنے بڑے وقت پر مالی مدد مل جایا کر سے تاکہ ووگوں کو اپنی آندیاں جمع کرنے کی حاجت ہی نہ محسوس ہو، اور دوسرا طرف جمع شدہ دولت پر ذکوۃ حایہ کی بجائے تاکہ ووگوں کے اندر جمع کرنے کا میلان کم ہو، اور اس کے ہاتھوں دولت روک جائے اس کا ایک حصہ بہر حال ان ووگوں تک پہنچتا رہے جنہوں نے گردہ دولت میں سے کم حصہ پایا رہے۔ لیکن تم اس کے برعکس سود کا لाख دے دے کر ووگوں کے طبعی سخن کو اور زیادہ

اگستے ہو، اور جو بخیل نہیں میں ان کو بھی یہ سکھاتے ہو کہ وہ خرچ کرنے کے بجائے مال جمع کر میں۔

پھر اس غلط طریقے سے اجتماعی مفاد کے خلاف جو سرمایہ اکٹھا ہوتا ہے اس کو تم پیدائش دولت کے کار و بار کی طرف لاتے بھی ہو تو سود کے راستے سے لاتے ہو۔ یہ اجتماعی مفاد پر تہارا دوسرا ظلم ہے۔ اگر یہ اکٹھی کی موئی دولت اس شرط پر کار و بار میں لگتی کہ جتنا کچھ منافع کار و بار میں ہو گا اس میں سے سرمایہ دار کو تناسب کے مطابق حصہ مل جائے گا تب بھی چند ای مضافت نہ ہتا۔ مگر تم اس کو اس شرط پر بازار مالیاتی میں لاتے ہو کہ کار و بار میں چاہے منافع ہو یا نہ ہو، اور چاہے کم منافع ہو یا نہ یادہ؟ بہر حال سرمایہ دار اس قدر فی صدی منافع ضرور پائے گا۔ اس طرح تم نے اجتماعی معیشت کو دوسرانقصان پہنچایا۔ ایک نقصان وہ جو روپے کو خرچ نہ کرنے اور روکنے سے پہنچا۔ اور دوسرا یہ کہ جو روپیہ دو گا گیا خدا وہ اجتماعی معیشت کی طرف پڑا بھی تو جتہرداری کے اصول پر کار و بار میں شریک نہیں ہوا بلکہ قرض بن کر پورے معاشرے کی صنعت و تجارت پر لگا اور قانون نے اس کو یقینی منافع کی ضمانت دے دی۔ اب تہارے اس غلط نظام کی وجہ سے صورت حال یہ ہو گئی کہ معاشرے کے بخوبی افراد اس قوتی خریداری کو جو انہیں حاصل ہوتی ہے، اجتماعی پیداوار کی خریداری میں صرف کرنے کے بجائے روکنے روکنے کر ایک سود طلب قرضے کی شکل میں معاشرے کے سرپر لادتے پڑتے ہیں اور معاشرہ اس روز افزون پیچپیدگی میں مبتلا ہو گیا ہے کہ آخر وہ اس ہر لمحہ بڑھنے والے قرض و سود کو کس طرح ادا کرے جب کہ اس سرمائے تیار کیے ہوئے مال کی کمپت بانار میں مشکل ہے اور مشکل تر ہوتی جاہی ہے۔ لاکھوں کروڑوں آجی اُسے اس بیسے نہیں خریدتے کہ ان کے پاس خریدنے کے لیے پیسہ نہیں اور ہزار ہا آجی اس کو اس لیئے نہیں خریدتے کہ وہ اپنی قوت خریداری کو مزید سود طلب قرض بنانے کے لیے روکنے پلے جا رہے ہیں۔

تم اس سود کا یہ فائدہ بتاتے ہو کہ اُس کے دباو کی وجہ سے کار و باری آجی نبود

ہوتا ہے کہ سرمائی کے فضول استعمال سے بچے اور اس کو زیادہ سے زیادہ نفع بخشن طریقے سے استعمال کرے۔ تم شرح سود کی یہ کرامت بیان کرتے ہو کرو وہ خابوشی کے ساتھ کار و بار کی ہدایت درہنمائی کافر بغضہ انجام دینی رہتی ہے اور یہ اسی ہدایت ہے کہ سرمایہ اپنے بہاؤ کے لیے تمام عکن راستوں میں سے اُس کار و بار کے لئے کوچھ اٹ لیتا ہے جو سب سے زیادہ نافع ہوتا ہے۔ لیکن دراہشی سخن سازی کے پر دے کوہشاکر دیکھو کہ اس کے نچے اصل حقیقت کیا چھپی ہوئی ہے۔ دراصل سود نے پہلی خدمت تو یہ انجام دی کہ "فائدے" اور "منفعت" کی تمام دوسری تفسیریں اس کے فیض سے متذوک ہو گئیں اور ان الفاظ کا صرف ایک ہی مفہوم باقی رہ گیا، یعنی "مالی فائدہ" اور "مادی منفعت" اس طرح سرمائی کو بڑی یکسوئی حاصل ہو گئی۔

پہلے وہ اُن راستوں کی طرف بھی چلا جایا کرتا تھا جن میں مالی فائدے کے سوا کسی اور قسم کا فائدہ ہوتا تھا۔ مگر اب وہ سیدھا اُن راستوں کا ریخ کرتا ہے جو سرمائی فائدے کا لیکھن ہوتا ہے۔ پھر دوسری خدمت وہ اپنی شرح خاص کے ذریعے سے یہ انجام دیتا ہے کہ سرمائی کے محدود استعمال کا معیار سوسائٹی کا فائدہ نہیں بلکہ صرف سرمایہ دار کا فائدہ بن جاتا ہے۔ شرح سودہہ ملے کر دیتی ہے کہ سرمایہ اُس کام میں صرف ہو گا جو مثلاً ۶ فی صدی سالانہ یا اس سے زیادہ منافع سرمایہ دار کو دے سکا ہو۔ اس سے کم نفع دیئے والا کوئی کام اس قابل نہیں ہے کہ اس پر مال صرف کیا جائے۔ اب فرض کیجیے کہ ایک ایکم سرمایہ کے سامنے یہ آتی ہے کہ اسیے مکانات تعمیر کے جائیں جو آرام وہ بھی نہیں اور جنہیں غریب لوگ کم کرائے پرے سکیں اور دوسری ایکم یہ آتی ہے کہ ایک بیان دار سینا تعمیر کیا جائے۔ پہلی ایکم ۶ فی صدی سے کم منافع کی امید دلاتی ہے اور دوسری ایکم اس سے زیادہ نفع دلتی نظر آتی ہے۔ دوسرے مثلاً میں تو اس کا امکان تھا کہ سرمایہ نادافی کے ساتھ ہمیں ایکم کی طرف ہو جاتا، یا کم از کم ان دونوں کے درمیان مترقب ہو کر استخارہ کرنے کی ضرورت محسوس کرتا۔ مگر یہ شرح سود کا فیض ہدایت ہے کہ وہ سرمایہ کو بلا تاثیل دوسری ایکم کا راستہ دکھا دیتا ہے۔

اور پہلی اسکیم کو اس طرح تیجے پہنچتا ہے کہ سرمایہ اس کی طرف آنکھوں اٹھا کر بھی نہیں دیتا۔ اس پر مزید کرامت مدرج سود میں یہ ہے کہ وہ کاروباری اکتوی کو مجبور کر دستی ہے کہ وہ ہر عکن طریقہ سے باختہ پاؤں مار کر اپنے منافع کو اس حد سے اوپر ہی اوپر رکھنے کی کوشش کرے جو سرمایہ دار نے کچینخ دی ہے، تو اس غرض کے لیے اس کو کیسے ہی غیر اخلاقی طریقے اختیار کرنے پڑتے۔ مثلاً اگر کسی شخص نے ایک فلم کمپنی قائم کی ہے اور جو سرمایہ اس میں لگا ہوا ہے اس کی مدرج سود ۲۰ فی صدی سالانہ ہے تو اس کو لا مخالف وہ طریقے اختیار کرنے پڑتے گے جن سے اس کے کاروبار کا منافع ہر ماں میں اس مدرج سے زیادہ رہے۔ یہ بات اگر ایسے فلم تیار کرنے سے حاصل نہ ہو سکے جو اخلاقی حیثیت سے پاکیزہ اور علمی حیثیت سے منفی ہوں، تو وہ مجبور جو گاہکہ عربان اور فرش کھیل تیار کرے اور ایسے اپنے طریقوں سے ان کا استہارہ دے جن سے حوام کے جذبہ بھرا کیں اور وہ شہوانیت کے طوفان میں برکر اس کے کھیل دیکھنے کے لیے بحق درحقیقی امندہ آئیں۔

یہ ہے اُن فوائد کی حقیقت جو تہارے نزدیک سود سے حاصل ہوتے ہیں اور جن کے حصول کا کوئی ذریعہ سود کے سوا نہیں ہے۔ اب فرداً اُس ضرورت کا بازروں بھی لے لیجئے جو آپ کے نزدیک سود کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی بلاشبہ قرض انسانی زندگی کی ضروریات میں سے ہے۔ اس کی ضرورت افراد کو اپنی شخصی حاجات میں بھی پیش آتی ہے، صنعت اور تجارت اور زراعت وغیرہ معاشی کاموں میں بھی ہر وقت اس کی مانگ رہتی ہے اور حکومت سیاست تمام اجتماعی ادارے بھی اس کے حاجت مندرجہ ہتے ہیں لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ سود کے بغیر قرض کی ہم رسانی غیر ممکن ہے۔ دراصل یہ صورت حال کہ افراد سے لے کر قوم تک کسی کو بھی ایک پیسہ بلا سود قرض نہیں ملتا اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے سود کو قانوناً بازرو رکھا ہے۔ اس کو حرام کیجئے اور معیشت کے ساتھ اخلاقی کا بھی وہ نظام اختیار کیجئے جو اسلام نے تحریز کیا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ شخصی حاجات کا رہار اور اجتماعی

ضروریات، ہر چیز کے لیے قرض بلا سود ملنا شروع ہو جائے گا، بلکہ علیئے نہ کرنے لگیں گے۔ اسلام حملہ اس کا ثبوت دے چکا ہے۔ صد یوں مسلمان سوسائٹی سود کے بغیر بہترین طریقہ پر اپنی میشیت کا سارا کام چلا تی رہی ہے۔ آپ کے اس منحوس دور سود خواہی سے اپنے کبھی مسلمان سوسائٹی کا یہ حال نہیں رہا ہے کہ کسی مسلمان، کاجنازہ اس لیے بے کفن پڑا رہ گیا ہو کہ اس کے وارث کو کہیں سے بلا سود قرض نہیں ملا، یا مسلمانوں کی صنعت و تجارت اور ترکیت اس لیے بیٹھ گئی ہو کہ کار و باری ضروریات کے مطابق قرض حسن بھی پہنچنا غیر ممکن ثابت ہوا، یا مسلمان حکومتیں رفاقت حام کے کاموں کے لیے اور جہاد کے لیے اس وجہ سے سرمایہ نہ پاسکی ہوں کہ ان کی قوم سود کے بغیر اپنی حکومت کو روپیہ دینے پر آمادہ نہ تھی۔ لہذا آپ کا یہ دعویٰ کہ قرض حسن ناقابل عمل ہے اور قرض واستقراض کی عمارت صرف سود ہی پر کھڑی ہو سکتی ہے، کسی منطقی تردید کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اپنے صد یوں کے عمل سے اسے غلط ثابت کر چکے ہیں۔

یہ بحث کہ آج اس زمانے کی معاشری ضروریات کے لیے قرض بلا سود کی بھی رسانی عملاء کس طرح ہو سکتی ہے، ہمارے اس باب کے موضوع سے خارج ہے۔ اس پر ہم بعد کے ایک باب میں گفتگو کریں گے۔

(۳)

امیکجاتی پہلو

پچھلے باب میں جو بحث ہم نے کی ہے اس سے تو صراحت اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ سود نہ تو کوئی معقول چیز سے بذوہ انصاف کا تقاضا ہے، بذوہ کوئی معاشر ضرورت ہے، اور نہ اس میں فی الحقيقة تفاصیل سے کا کوئی پہلو ہے۔ لیکن سود کی حرمت صرف ان منفی اسباب ہی پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ قطعی طور پر ایک نقصان دہ چیز ہے اور بہت سے پہلوؤں بیکت نیادہ نقصان دہ ہے۔ اس باب میں ہم ایک ایک کر کے ان نقصانات کا تفصیلی جائز دلیل گے تاکہ کسی معقول آدمی کو اس ناپاک چیز کی حرمت میں ذرہ برابر بھی شبہ باقی نہ رہ جائے۔

سُود کے اخلاقی و روحانی نقصانات

سب سے پہلے اخلاق و روحانیت کے نقطہ نظر سے دیکھیے کیونکہ اخلاق اور روح ہی اصل جو ہر انسانیت ہے، اور اگر کوئی چیز ہمارے اس جو ہر کو نقصان پہنچائے والی ہو تو بہر حال وہ قابل ترک ہے، خواہ کسی دونسرے پہلو سے اس میں سکتے ہی فوائد ہوں۔ اب اگر آپ سود کا فضیاقی تجزیہ کر لے گے تو آپ کو بیک نظر معلوم ہو جائے گا کہ روپیہ سمع کرنے کی خواہش سے لے کر سودی کا رد بارے مختلف مرحلوں تک پورا ذہنی عمل خود غرضی، بخشنگ، تنگ دلی، سنگت دلی اور زند پرستی جیسی صفات کے زیر اثر

چارہ سی رہتا ہے اور جتنا جتنا آدمی اس کا رو بارش آگے پڑھتا جاتا ہے ویسی صفات اس کے اندر نشوونما پاتی جاتی ہیں۔ اس کے بر عکس نذکوہ و مددقات کی ابتدائی نیت سے کہ اس کے عملی خلہور تک پورا ذہنی عمل فیاضی، ایثار، ہمدردی، فراخ دلی، عالی ظرفی اور غیر اندیشی جیسی صفات کے زیر اثر واقع ہوتا ہے اور اس طریقہ کار پر مسلسل عمل کرتے رہنے سے یہی صفات انسان کے اندر نشوونما پاتی ہیں۔ کیا کوئی انسان دنیا میں ایسا ہے جس کا دل شہادت دیتا ہو کہ اخلاقی صفات کے ان دونوں جمیوں میں سے پہلا جمیع بدترین اور دوسرا جمیع بدترین ہے؟

تمدنی و اجتماعی نقصانات

اب تمدنی حیثیت سے دیکھیے۔ ایک دراسے خود خوض سے یہ بات ہر شخص کی سمجھ میں بآسانی آسکتی ہے کہ جس معاشرے میں افراد ایک دوسرے کے ساتھ خود غرضی کا معاملہ کریں، کوئی اپنی ذاتی غرض اور اپنے ذاتی فائدے کے بغیر کسی کے کام نہ آئے، ایک کی حاجت مندی دوسرے کے لیے نفع اندوزی کا موقع بن جائے اور مال دار طبقوں کا مقاونہ اور طبقوں کے مقاد کی خدمت ہو جائے، ایسا معاشرو کبھی مستحکم نہیں ہو سکتا۔ اس کے اجزاء اہمیت انتشار و پراگندگی ہی کی طرف مائل رہیں گے۔ اور اگر دوسرے اہماب بھی اس صورت مال کے لیے مددگار بن جائیں تو ایسے معاشرے کے اجزاء کا باہم متصادم ہو جانا بھی کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کے بر عکس جس معاشرے کا اجتماعی نظام آپس کی ہمدردی پر مبنی ہو، جس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کریں، جس میں ہر شخص دوسرے کی احتیاج کے موقع پر فراخ دلی کے ساتھ مدد کا ہاتھ بڑھائے، اور جس میں مال دار لوگ نادار لوگوں کے ساتھ ہمدرد اندر احاشت یا کم از کم منصفانہ تعاون کا طریقہ برقراری، ایسے معاشرے میں آپس کی محبت اور خیر خواہی اور دلپی نشوونما پائے گی۔ اس کے اجزاء ایک دوسرے کی ساتھ پیوستہ اور ایک دوسرے کے پشتیبان ہوں گے۔ اس میں احمد و فی فزار و تصادم کو راه پانے کا موقع نہیں سکے گا۔ اس میں باہمی تعاون اور خیر خواہی کی وجہ سے ترقی کی رفتار پہلے معاشرے

کی بہ نسبت بہت زیادہ تیز ہو گی۔

ایسا ہی حال میں الاقوامی تعلقات کا بھی ہے۔ ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ فیاضی و ہمدردی کا معاملہ کرے اور اس کی مصیبت کے وقت کچھ دل سے مدد کا ہتھ بٹھائے۔ ممکن نہیں ہے کہ دوسری طرف سے اس کا حواب محبت اور شکر گز اور اُو خلاصہ خیرخواہی کے سو اکسی اور صورت میں ملے اس کے بر عکس وہی قوم اگر اپنی ہمیشہ قوم کے ساتھ خود غرضی دنگ دلی کا بر تاؤ کرے اور اس کی مشکلات کا ناجائز فائدہ اٹھائے تو ہو سکتا ہے کہ مال کی صورت میں وہ بہت کچھ نفع اس سے حاصل کرے، لیکن کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر اپنے اُس شایلاں کے قسم کے ہسایہ کے لیے اُس قوم کے دل میں کوئی انخلاص اور محبت اور خیرخواہی باقی رہ جائے۔ ابھی کچھ زیادہ ترت نہیں گزدی ہے، پچھلی جنگ عظیم کے زمانہ کی بات ہے کہ انگلستان نے امریکہ سے ایک بجاری قرض کا معاملہ طے کیا تو (Bretton wood Agreement) کے نام سے مشہور ہے۔ انگلستان پاہتا تھا کہ اُس کا خوش حال دوست جو اس رطائی میں اس کا فیق تھا، اُسے بلاسود قرض دے دے۔ لیکن امریکہ سود چھوڑنے پر راضی نہ ہوا اور انگلستان اپنی مشکلات کی وجہ سے مجبور ہو گیا کہ سود دینا قبول کرے۔ اس کا جو اثر انگریزی قوم پر ترب ہوا وہ ان تحریروں سے معلوم ہو سکتا ہے جو اُس نہ مانے میں انگلستان کے مدبرین اور اخبارنویسون کی زبان اور قلم سے نکلیں۔ مشہور ماہر معاشیات لارڈ گینز آنجمہانی، جنہوں نے انگلستان کی طرف سے یہ معاملہ طے کیا تھا، جب اپنے مشن کو پورا کر کے پڑھنے تو انہوں نے برلنی دارالاماراء میں اس پر تقدیر کرتے ہوئے کہا کہ "میں تمام عمر اس سچ کو نہ بھولوں گا جو مجھے اس بات سے ہوا کہ امریکہ نے ہم کو بلاسود قرض دینا گوارا نہ کیا" مسٹر ہریل جیسے ذریعہ امریکہ پسند شخص نے کہا کہ "یہ بھی پہن کا بر تاؤ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، مجھے اس کی گہرائی میں بڑے خطرات نظر آتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کا ہمارے باہمی تعلقات پر بہت ہی بُرا اثر پڑا ہے" اُس وقت کے وزیر خزانہ ڈاکٹر ڈالن نے پارلیمنٹ میں اس معاہدے کو منظوری کے لیے پیش کرتے ہوئے

کہا کہ "یہ بھاری بوجہ جسے لا دے رہے ہوئے ہم جنگ سے نکل رہے ہیں ہماری ان قربانیوں اور جفاکشیوں کا بڑا ابھی عجیب صلبہ ہے جو ہم نے مشترک مقصد کے لیے یہداشت کیں۔ اس تر اسے ستم طریقۂ انعام پر آئندۂ زمانہ کے مورخین ہی کچھ بہتر ائمہ زنی کر سکیں گے ہم نے درخواست کی تھی کہ ہم کو قرضی حسن دیا جائے، مگر جواب میں ہم سے کہا گیا کہ یہ عملی سیاست نہیں ہے"

یہ سود کا فطری اثر اور اُس کا لازمی نفسیاتی رُدِ عمل ہے جو ہمیشہ ہر حال میں رونما ہو گا، ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ یہ معاملہ کرے یا ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ۔ انگلستان کے لوگ یہ مانندے کے لیے تیار نہ تھے اور آج بھی وہ اسے نہیں مانتے کہ انفرادی معاملات میں سودی لین دین کوئی بُری چیز ہے۔ آپ کسی انگریز سے بلا سودی قرض کی بات کریں وہ فوراً آپ کو جواب دے گا کہ جناب "عملی کاروبار" (Practical Business) کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن جب اس کی قومی مصیبت کے موقع پر اس کی ہمسایہ قوم نے اس کے ساتھ یہ "عملی کاروبار" کا طریقہ برنا تو ہر انگریز چیخ اٹھا اور اس نے تمام دنیا کے سامنے اس حقیقت پر گواہی دی کہ سود دلوں کو پھاڑنے والی اور تعلقات کو خراب کرنے والی چیز ہے۔

معاشی تقاضا نات

اب اس کے معاشی پہلو پر نکاہ ڈالیے۔ سود کا تعلق معاشی زندگی کے اُن معاملات سے ہے جن میں کسی طور پر قرض کا لین دین ہوتا ہے۔ قرض مختلف اقسام کے ہوتے ہیں:-

ایک قسم کے قرضے وہ ہیں جو حاجت مندوگ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے ہیں۔

دوسری قسم کے قرضے وہ ہیں جو تاجر اور صناع اور زمیندار اپنے نفع اور کاموں میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔

تیسرا قسم اُن قرضوں کی ہے جو حکومتیں اپنے اہل ملک سے لیتی ہیں۔ اور

اُن کی نو جیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض قرضے غیر نفع اور اغراض کے لیے ہوتے ہیں، مثلاً وہ جو نہریں اور برقی آبی کی اسکیمیں جاری کرنے کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں۔

پوچھی قسم اُن قرضوں کی ہے جو حکومتیں اپنی ضروریات کی خاطر غیر مالک کے بازار پر سے لیتی ہیں۔

ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ لے کر ہم دیکھیں گے کہ اس پر سود عائد ہونے کے نقصانات کی ہیں۔

اہل حاجت کے قرضے

دنیا میں سب سے بڑھ کر سود خواری اُس کاروبار میں ہوتی ہے جو ہاجتی کاروبار (Money Lending Business) کہلاتا ہے۔ یہ بلا صرف برعظیم مند تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ایک عالم گیر بلا ہے جس سے دنیا کا کوئی ملک بچا ہوا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی یہ انتظام نہیں ہے کہ غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو اُن کی ہنگامی ضروریات کے لیے آسانی سے قرض مل جائے اور بلا سود نہیں تو کم از کم تجارتی شرح سود بھی پر نصیب ہو جائے۔ حکومت اسے اپنے فرائض سے خارج سمجھتی ہے۔ سوسائٹی کو اس ضرورت کا احساس نہیں۔ بنیک صرف اُن کاموں میں ہاتھ ڈالتے ہیں جن میں ہزاروں لاکھوں کے دارے نیارے ہوتے ہیں اور ویسے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک قلیل المعاش آدمی کسی فوری ضرورت کے لیے بنیک بھک پہنچ سکے اور اس سے قرض حاصل کر سکے۔ ان وجہ سے مزدور، کسان، چھوٹے کاروباری آدمی، کم تکھرا ہوں والے ملازم اور عام غریب لوگ ہر خاک میں مجبور ہوتے ہیں کہ اپنے بُرے وقت پر اُن ہجاجنوں سے قرض لیں جو اپنی بستیوں کے قریب ہی ان کو گدھ کی طرح شکار کی طرح تلاش میں مند لاتے ہوئے مل جاتے ہیں۔ اس کاروبار میں اتنی بھاری شرح سود رائج ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ سودی قرض کے جال میں پھنس جاتا ہے وہ پھر اس سے نہیں بھل سکتا، بلکہ دادا کا لیا ہوا قرض پوتا تک دراثت میں

منتقل ہوتا چلا جاتا ہے اور اصل سے کئی گناہ سودا دا کر سکتے پر بھی اصل قرض کی چیزوں بھی کی توں آدمی کے سینے پر دھری رہتی ہے۔ پھر پارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر قرض دار کو مدت تک سودا دا کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو چڑھے ہوئے سود کی رقم کو اصل میں شامل کر کے وہی ہا جن اپنا ہی قرض و سود وصول کرنے کے لیے اسی شخص کو ایک اور بڑا قرض زیادہ شرح سود پر دے دیتا ہے اور وہ غریب پہلے سے زیادہ زیر بار پہ جانا ہے۔ انگلستان میں اس کار و بار کی کم سے کم شرح سود ۸٪ فی صدی سالانہ ہے۔ جواز دوئیے قانون دلوائی جاتی ہے۔ لیکن عام شرح جس پر دہاں یہ کار و بار پہلے رہا ہے ۱۵٪ سے ۲۰٪ فی صدی سالانہ تک ہے اور ایسی مثالیں بھی پائی گئی ہیں جن میں باہم تیرو سو فی صدی سالانہ پر معاملہ ہوا ہے۔ امریکہ میں ہجا جنوں کے لیے قانونی شرح سود ۳٪ سے ۴٪ فی صدی سالانہ تک ہے، لیکن ان کا عام کار و بار ۱۰٪ سے ۱۴٪ فی صدی تک سالانہ شرح پر ہوا ہے اور بارہا یہ شرح ۸٪ فی صدی تک بھی ہے جو جاتی ہے۔ خود ہمارے اس سر بر عظیم میں بڑا ہی نیک طبع ہے وہ ہا جن جو کسی غریب کو ۸٪ فی صدی سالانہ پر قرض دے دے، وہ نہ عام شرح ۵٪ فی صدی سالانہ ہے جو بارہا ۱۵٪ فی صدی تک بھی ہے، بلکہ ۳٪ اور ۳۵٪ فی صدی سالانہ شرح کی مثالیں بھی پائی گئی ہیں۔

یہ وہ بلاشبھ عظیم ہے جس میں ہر ملک کے غریب اور متوسط الحال طبقوں کی بڑی اکثریت بڑی طرح پہنسی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے قلیل المعاش کارکنوں کی آمدنی کا برداشتہ ہجا جن سے جاتا ہے۔ شب و روز کی آن تک محنت کے بعد جو حقوقی سی تنخوا ہیں یا مزدوریاں ان کو ملتی ہیں ان میں سے سودا دا کرنے کے بعد ان کے پاس اتنا بھی نہیں رہتا کہ دو دقت کی روٹی پلا سکیں۔ یہ چیز صرف بھی نہیں کہ ان کے اخلاق کو بگاڑتی اور انہیں جو ائم کی طرف دھکیلتی ہے، اور صرف بھی نہیں کہ ان کے معیارِ ذندگی کو پست اور ان کی اولاد کے معیارِ تعییم و تربیت کو پست ترکر دیتی ہے، بلکہ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ داشتی تکراوہ پر بیشافی ملک کے عام کارکنوں کی قابلیت کار کو بہت گھٹا دیتی ہے۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی محنت کا پہل دوسرا سے اڑتا ہے تو اپنے کام سے ان

کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے سودی کاروبار کی یہ قسم صرف ایک ظلم ہی نہیں ہے بلکہ اس میں اجتماعی معیشت کا بھی بڑا بھاری نقصان ہے۔ یہ کیسی عجیب حماقت ہے کہ جو لوگ ایک قوم کے اصل عالمیں پیدائش ہیں اور جگہی مختنؤں ہی سے وہ ساری دولت پیدا ہوتی ہے جس پر قوم کی اجتماعی خوشحالی کا مدار ہے، قوم ان پر بہت سی جو شخصیں مسلط یکے رکھتی ہے جو ان کا خون پھوس چوس کر ان کو نذر حال کرتی رہتی ہیں۔ تم حساب لگاتے ہو کہ طیر پاسے استنب لامکہ عملی گھنٹوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے ملک کی معاشی پیداوار میں انتہی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس بنابر تم مچھروں پر چل پڑتے ہو اور ان کا قلع قبح کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ لیکن تم اس کا حساب نہیں لگاتے کہ تمہارے سودخوار ہہا جن تمہارے لاکھوں کارکنوں کو کتنا پریشان، کتنا بد دل اور کتنا افسردہ کرتے رہتے ہیں اس قدر ان کے جذبہ محمل کو سرد اور قوتیت کارکوکم کر دیتے ہیں اور اس کا کتنا بڑا اثر تمہاری معاشی پیداوار پر متاثر ہوتا ہے۔ اس معاملہ میں تمہارے مقابل معمکوں کا حال یہ ہے کہ تم ہہا جنوں کا قلع قبح کرنے کے بجائے اٹھاؤں کے قرض داروں کو پکڑتے ہو اور جو خون ہہا جن خود ان کے اندر سے ہیں ہونت سکتا ہے تمہاری عدالتیں سچوڑ کر ہہا جن کے حوالہ کر دیتی ہیں۔

اس کا دوسرا معاشی نقصان یہ ہے کہ اس طرح غریب طبقے کی رہی ہی قوتیت خریداری بھی سودخوار سا ہو کارچینیں لے جاتا ہے۔ لاکھوں آدمیوں کی بے روڑگاری اور کروڑوں آدمیوں کی ناکافی آمد فی پہلے ہی تجارت و صنعت کے فروع میں مانع تھی۔ اس پر تم نے اچھی آمد نیاں رکھنے والوں کو یہ راستہ دکھایا کہ وہ خرچ نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیاد رقم پیش انداز کیا کریں۔ اس سے کاروبار کو ایک نقصان اور پہنچا۔ اب اس سب پر مستلزم ہے کہ لاکھوں کروڑوں غریب آدمیوں کو ناکافی تنخواہوں اور مزدوریوں کی شکل میں بوجتوڑی بہت قوت خریداری حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی وہ اپنی ضروریاست زندگی خریدنیکی استعمال نہیں کرنے پا تے، بلکہ اس کا ایک بڑا حصہ سا ہو کاروبار سے چین لیتا ہے اور اس کو اشیاء اور خدمات کی خریداری پر صرف کرنے کے بجائے سو سائیٹ کے سر

پر مزید سود طلب قرض چڑھانے کی استعمال کرتا ہے۔ ذرا حساب لگاگز دیکھئے۔ اگر دنیا میں ۵ کروڑ آدمی بھی ایسے ہمایوں کے پہنچنے سے میں بچنے ہوئے ہیں، اور وہ اوس طادس روپے جیسا نہ سودا دا کر پہلیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر جیسے ۵ کروڑ روپے کا مال فروخت ہونے سے رہ جاتا ہے اور اتنی تجارتی رقم معاشی پیداوار کی طرف پہنچنے کے بعد میں یہ سودی قرضوں کی تخلیق میں ماہ بماہ صرف ہوتی رہتی ہے۔

کاروباری قرض

اب دیکھئے کہ یوں قرض تجارت و صنعت اور دوسری کاروباری اغراض کے لیے لیا جاتا ہے اُس پر سود کو جائز قرار دینے کے معاشری نقصانات کیا ہیں، صنعت، تجارت، ذرا صحت اور دوسرے تمام معاشی کاموں کی بہتری یہ چاہتی ہے کہ جتنے لوگ بھی کسی کاروبار کے چلانے میں کسی طور پر حصہ لے رہے ہوں ان سب کے مفاد، اغراض اور دلچسپیاں اُس کام کے فروغ سے دایستہ ہوں۔ اس کا نقصان سب کا نقطہ ہوتا کہ وہ اس کے خطرے سے بچنے کی مشترک سعی کروں، اور اس کا فائدہ سب کا فائدہ ہوتا کہ وہ اس کو بڑھانے میں اپنی پوری طاقت صرف کر دیں۔ اس لحاظ سے معاشی مفاد کا تقاضا یہ تھا کہ جو لوگ کاروبار میں دماغی یا جسمانی کارکن کی حیثیت سے نہیں بلکہ صرف سرمایہ فراہم کرنے والے فریق کی حیثیت سے شریک ہوں ان کی مشترکت بھی اسی نوعیت کی ہوتا کہ وہ کاروبار کی محلائی برائی سے دایستہ ہوں اور وہ اس کے فروغ میں اور اس کو نقصان سے بچانے میں پوری دلچسپی لیں۔ مگر جب قانون نے سود کو جائز کر دیا تو

لہ اس جگہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ۱۹۴۷ء میں قبل تقسیم کے ہندوستان کے متعلق اندازہ کیا گیا تھا کہ اس ملک کے چہار ہی قرضے کم از کم دس ارب روپے تک پہنچے ہوئے تھیں اور ایک ملک کا حال ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ساری دنیا میں اس نوعیت کے قرضوں کی مجموعی مقدار کیا ہو گی اور جو شرح سود اس کاروبار میں رائج ہے اس کے لحاظ سے ماہانہ کس قدر سود ہمایوں کے پاس پہنچتا ہو گا۔

صاحب سرمایہ لوگوں کے لیے راستہ کھل گیا کہ وہ اپنا سرمایہ شریک اور حصہ دار کی حیثیت سے کار و بار بھی لگانے کے بجائے دامن کی حیثیت سے بصورت قرض دے اور اس پر ایک مقرر شرح کے مطابق اپنا منافع و صول کرتے رہیں۔ اس طرح سوسائٹی کے معاشری عمل میں ایک ایسا ذرا لا غیر فطری عامل اگر مل جاتا ہے جو تمام عالمین پیدائش کے بر عکس اس پر سے عمل کی بجلائی برائی سے کوئی دچپی نہیں رکھتا۔ اس عمل میں نقصان آکر ہو تو سب کے لیے خطرہ ہے مگر اس کے لیے نفع کی گاہ نہیں ہے، اس لیے سب تو نقصان کو روکنے کی کوشش کریں گے، مگر یہ اس وقت تک ہو گریز نہ ہو گا جب تک کہ کار و بار کا بالکل ہی دیوالہ نہ ملنے لگے۔ نقصان کے موقع پر یہ کار و بار کو بچانے کے لیے مد کو نہیں دوڑے سے گا بلکہ اپنے مالی مفاد کو بچانے کے لیے اپنادیا ہوار و پیری بھی کھینچ لینا چاہے گا۔ اسی طرح معاشری پیداوار کے عمل کو فروع دینے سے بھی براؤ راست اسے کوئی دچپی نہ ہو گی۔ کیونکہ اس کا نفع تو بہر حال مقرر ہے، پھر اسروہ کیوں اس کام کی ترقی و کامیابی کے لیے اپنا سرکپاسٹے بغرض سوسائٹی کے نفع اور نقصان سے بے تعلق ہو کر یہ عجیب قسم کا معاشری عامل الگ بیٹھا ہو اصرفت اپنے سرمایہ کو "کراہی" پر چلاتا رہتا ہے اور سب کے لئے اپنا مقرر کراہی و صول کرتا رہتا ہے۔

اس غلط طریقہ نے سرمایہ اور کار و بار کے درمیان رفاقت اور ہمدردانہ تعاون کے بجائے ایک بہت ہی بڑی طرح کا خود غرضانہ تعلق قائم کر دیا ہے۔ جو لوگ بھی روپیے جمع کرنے اور معاشری پیداوار کے کام پر لگانے کے موقع رکھتے ہیں وہ اس روپیے نہ خود کوئی کار و بار کرتے ہیں بلکہ کار و بار کرنے والوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کار و پیر ایک مقرر منافع کی ضمانت کے ساتھ قرض کے طور پر کام میں لگے، اور پھر وہ مقرر منافع بھی زیادہ سے زیادہ شرح پر ہو۔ اس کے بعد نقصانات میں سے چند نمایاں ترین یہ ہیں:-

(۱) سرمایہ کا ایک معنکر بر حصہ، اور بسا اوقات برطا حصہ، محض شرح سود پر مبنی کے انتظار میں رکا پڑا رہتا ہے اور کسی مفید کام میں نہیں لگتا باوجود یہ کہ قابل استعمال

وسائل بھی دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ روزگار کے طالب آدمی بھی کثرت سے مارے پھر سے ہوتے ہیں، اور اشیاء ضرورت کی مانگ بھی موجود ہوتی ہے لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خدمتی استحصال ہوتے ہیں، نہ آدمی کام پر لگتے ہیں اور نہ منڈیوں میں حقیقی طلب کے مطابق مال کی کمیت ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ سرمایہ دار جس شرح سے فائدہ لینا چاہتا ہے اس کے ملنے کی اسے توقع نہیں ہوتی اور اس بنابردار کام میں لگانے کے لیے روپیہ نہیں دیتا۔

(۲) نریادہ شرح سود کا لایحہ وہ چیز ہے جس کی بنابرداریہ دار طبقہ کار و بار کی طرف سرمایہ کے بہاؤ کو خود کار و بار کی حقیقی ضرورت اور طبعی مانگ کے مطابق نہیں بلکہ اپنے مفاد کے لحاظ سے روکتا اور کھولتا رہتا ہے۔ اس کا نقصان کچھ اسی طرح کا ہے جیسے کوئی نہر کا مالک کھیتوں اور باغوں کی مانگ اور ضرورت کے مطابق پانی نہ کھوئے اور نہ بند کرے، بلکہ اپنے پانی کے کھونے اور بند کرنے کا خابطہ یہ بنائے کہ جب پانی کی ضرورت نہ ہو تو وہ سبے تحاشا پانی بڑے سستے داموں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، اور جوں ہی کہ پانی کی مانگ بڑھتی شروع ہو وہ اس کے ساتھ ساتھ پانی کی قیمت پر طاقت اتنا چلا جائے یہاں تک کہ اس قیمت پر پانی لے کر کھیتوں اور باغوں میں لگانا کچھ بھی نفع بخش نہ رہے۔

(۳) سود اور اس کی شرح ہی وہ چیز ہے جس کی پدولت تجارت و صنعت کا نظام ایک ہمار طبقہ سے چلنے کے بجائے تجارتی چکر (Trade cycle) کی اس بیانی میں مبتلا ہوتا ہے جس میں اس پر بار بار کساد بازاری کے دورے پرستے ہیں۔ اس کی تشرح ہم پہلے کچھ ہیں اس لیے یہاں اس کے اعدادے کی ضرورت نہیں۔

(۴) پھر یہ بھی اسی کا کشمکش ہے کہ سرمایہ ان کاموں کی طرف جانتے کے لیے راضی نہیں ہوتا جو مصالح عامتوں کے لیے مفید اور ضروری ہیں مگر مالی لحاظ سے اتنے نفع بخش نہیں ہیں کہ بازار کی شرح سود کے مطابق فائدہ دے سکیں۔ اس کے برعکس وہ غیر ضروری مگر نریادہ نفع آور کاموں کی طرف پہنچتا ہے اور اُدھر بھی وہ کارکنوں کو مجبور کرتا ہے کہ

شرح سود سے زیادہ کافی کے لیے ہر طرح کے بھلے اور بُرے اور صحیح و غلط طریقے استعمال کریں۔ اس نقصان کی تشریح بھی ہم پہلے کر آئے ہیں اس لیے اس کو دُھرانے کی ضرورت نہیں۔

(۵) سرمایہ دار بھی مدت کے لیے سرمایہ دینے سے پہلو تھی کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرف وہ سفر بازی کے لیے اچھا خاصہ سرمایہ ہر وقت اپنے پاس قابل استعمال رکھنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف انہیں یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ اگر آئندہ کبھی شرح سود زیادہ پڑ جی تو ہم اس وقت کم سود پر زیادہ سرمایہ پہنسا دینے سے نقصان میں نہ ہیں گے۔ اس کا تیجہ یہ ہوتا ہے کہ اہلِ صنعت و حرفت بھی اپنے سارے کاروبار میں تنگ نظری و کم خواستگار کا طریقہ اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور مستغل بہتری کے لیے کچھ کرنے کے بجائے بس چلتا کام کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ مثلاً اسی سے تقیل المدت سرمایہ کو لے کر ان کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنی صنعت کے لیے جدید ترین آلات اور مشینیں خریدنے پر کوئی بڑی رقم خرچ کر دیں۔ بلکہ وہ پُرانی مشینوں ہی کو گیس گھس کر بجلا برامال مار کیٹیں ہیں پھیلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تاکہ قرض و سود ادا کر سکیں اور کچھ اپنا منافع بھی پیدا کر لیں۔ اسی طرح یہ بھی ان تقیل المدت قرضوں ہی کی برکت ہے کہ منڈی سے مال کی مانگ کم ہتے دیکھ کر فواؤ ہی کارخانہ دار مال کی پیداوار گھنادیتا ہے اور ذرا سی دیر پے لیے بھی پیداوار کی رفتار کو علیٰ حالہ برقرار رکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا، کیونکہ اُس سے خطرہ ہوتا ہے کہ اگر بازار میں مال کی قیمت گر گئی تو وہ پھر بالکل دیوالہ کی سرحد پر ہو گا۔

(۶) پھر جو سرمایہ بڑی صنعتی و تجارتی اسکیوں کے لیے لمبی مدت کے واسطے ملتا ہے اس پر بھی ایک خاص شرح کے مطابق سود عائد ہونا بڑے نقصانات کا موجب ہوتا ہے۔ اس طرح کے قرضے بالعموم دس، بیس یا تیس سال کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں اور اس پوری مدت کے لیے ابتداء ہی میں ایک خاص فی صدی سالانہ شرح سود طے ہو جاتی ہے۔ اس شرح کا تعین کرتے وقت کوئی لحاظ اس امر کا نہیں کیا جاتا اور جب تک فریقین کو علم غائب نہ ہو کیا جا بھی نہیں سکتا، کہ آئندہ دس بیس یا تیس سال

کے دوران میں قبیلوں کا اتار پڑھا و کیا شکل اختیار کرے گا اور قرض لینے والے کے
لیے نفع کے امکانات کس حد تک کم یا زیادہ ہوں گے یا بالکل نہ ہیں گے۔ فرض کیجیے
کہ ۱۹۴۷ء میں ایک شخص نے ۲۰ سال کے لیے، فی صدی شرح سود پر ایک بھارتی قرض
حاصل کیا اور اس سے کوئی بڑا کام شروع کر دیا۔ اب وہ مجبور ہے کہ اسکے لئے ہر
سال باقاعدگی کے ساتھ اس حساب سے اصل کی اقساط اور سودا داکر تاریخ پر
میں طے ہوا تھا۔ لیکن اگر ۱۹۵۷ء تک پہنچتے پہنچتے قبیلوں نے اس وقت کے نزدیک سے
آدمی رہ گئی ہوں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ شخص جب تک آغازِ معاملہ کے زمانے
کی پہلیت اس وقت دو گناہ مال پہنچے وہ نہ اس رقم کا سودا داکر سکتا ہے اور نہ
قطع اس کا لازمی تثبیت ہے کہ اس ارزانی کے دور میں یا تو اس قسم کے اکثر قرض داروں
کے دیوالیے نکل جائیں، یا وہ دریوالیے سے بچنے کے لیے معاشی نظام کو خراب کرنے
والی ناجائز حرکات میں سے کوئی حرکت کریں۔ اس معاملہ پر اگر غور کیا جائے تو کمی معمول
آدمی کو اس امر میں کوئی شک نہ رہے گا کہ مختلف زمانوں میں پڑھتی اور گرتی ہوئی قبیلوں
کے درمیان قرض دینے والے سرمایہ دار کا وہ مناقع جو تمام زمانوں میں یکساں رہے
ہدائق ہے اور وہ معاشیات کے اصولوں ہی کے لحاظ سے اس کو کسی طرح درست
اوہ اجتماعی خوش حالی میں مددگار ثابت کیا جاسکتا ہے۔ کیا دنیا میں کہیں آپ نے یہ لفڑا
ہے کہ کوئی کمپنی جو اشیاء صفر درت میں سے کسی چیز کی فراہمی کا شیکھ لے رہی ہو، یہ معاملہ کرے
کہ وہ آئندہ تین سال یا بیس سال تک یہ چیز اسی قیمت پر خریدار کو ہتھا کر کی رہے گی؟
اگر یہ کسی لمبی مدت کے سودے میں ممکن نہیں ہے، تو اکثر صرف سودی قرض دینے
 والا سرمایہ دار ہی وہ انوکھا سودا گر کیوں ہو جو رس ہا رس کی مدت کیلئے اپنے قرض کی قیمت
پہنچی طے کرے اور وہی وصول کرنا چلا جائے۔

حکومتوں کے ملکی قرضے

اب اُن قرضوں کو لیجیے جو حکومتوں مزدورویات اور مصالح کے لیے خود پہنچا دک
کے لوگوں سے لیتی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم وہ ہے جو غیر نفع آور کاموں کے لیے بھی جاتی

ہے، اور دوسری قسم وہ جو نفع آور کاموں المکانی جاتی ہے۔

پہلی قسم کے قرضوں پر سودا بینی نوعیت کے لحاظ سے وہی معنی رکھتا ہے جو اصل حاجت افراد کے ذاتی قرضوں پر سودا کی نوعیت ہے۔ بلکہ درحقیقت یہ اس سے بھی بدتر چیز ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص جس کو ایک معاشرے نے جنم دیا، پالا، پوسا، اس قابل بنایا کہ وہ کچھ کام کے، خطرات سے اس کی حفاظت کی، نقصانات سے اس کو بچایا، اور معاشرے کے تدبی و سیاسی اور معاشی نظام نے ان تمام خدمات کا انتظام کیا جن کی پرستی وہ امن سے بیٹھا اپنا کار و بار چلا رہا ہے، وہ اُسی معاشرے کو ان ضرورتیں کے موقع پر جن میں کسی مالی نفع کا کوئی سوال نہیں ہے اور جن کے پورا ہونے سے سب لوگوں کے ساتھ خود اس شخص کا مفاد بھی وابستہ ہے، بلا سودا و پیر قرض دینے پر آمادہ نہیں ہوتا اور خود اپنے مرتبی معاشرے سے کہتا ہے کہ تو چاہے اس روپے سے نفع کائے یا نہ کائے، مگر میں تو اپنی رقم کا اتنا معاوضہ سالانہ ضرور لیتا رہوں گا۔

یہ معاملہ اس وقت اور بھی زیادہ سمجھنے ہو جاتا ہے جب کہ قوم کو جنگ پیش آئے اور سب کے ساتھ خود اس سرمایہ دار فرزند قوم کی لہنی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کا سوال بھی درپیش ہو۔ ایسے موقع پر جو کچھ بھی قومی خزانے سے خرچ ہوتا ہے وہ کسی کارروائی میں نہیں لگتا بلکہ الگ میں پھونک دیا جاتا ہے۔ اس میں منافع کا کیا سوال؟ اور یہ خرچ اس کام میں ہوتا ہے جس کی کامیابی و ناکامی پر ساری قوم کے ساتھ خود اس شخص کی اپنی بوت و زیست کا بھی انعام ہے اور اس کام میں قوم کے دوسرے لوگ اپنی جانیں اور وقت اور محنت سب کچھ کھپا رہے ہوئے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی یہ سوال نہیں کرتا کہ قومی وجہ کے لیے جو حصہ میں ادا کردہ ہوں اس پر کتنا منافع سالانہ مجذکو ملتا رہے گا؟ مگر پوری قوم میں سے صرف ایک سرمایہ دار ہی ایسا نکلتا ہے جو اپنا مال دینے سے پہلے یہ شرط کرتا ہے کہ مجھے ہر سو روپے پر اتنا منافع ہر سال ملنا چاہیے، اور میرا یہ منافع اس وقت تک ملے جانا چاہیے جب تک ساری قوم مل کر میری دی ہوئی اصل رقم مجھے واپس نہ کر دے خواہ اس میں ایک صدی ہی کیوں نہ لگے جائے، اور میرا یہ

منافع اُن لوگوں کی جیبوں میں سے بھی آنا چاہیے جنہوں نے ملک اور قوم کی اور خود میری حفاظت کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں کٹوائے یا اپنے بیٹھے بیاپ، بھائی یا شوہر منت کھو دیے ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک معاشرے میں ایسا طبقہ آیا اس کا متنقہ ہے کہ اسے سُود کھلا کھلا کر پالا جائے، یا اس کا کہ اسے اس زہر کی گولیاں کھلائی جائیں جس سے رک्तے مارے جاتے ہیں؟

رسہے دوسری قسم کے قرضے تو ان کی نوعیت اُن قرضوں سے کچھ بھی مختلف نہیں ہے جو عام افراد اور ادارے کا ردباری اغراض کے لیے لیتے ہیں، لہذا ان پر بھی وہ سب اختراضات وارد ہوتے ہیں جو اپر ہم نے کار و باری قرضوں کے سود پر لیے ہیں۔ حکومتی حکومتیں نفع اور کاموں پر لگانے کے لیے بھی مدت کے قرضے لیتی ہیں۔ مگر کوئی حکومت بھی ایک مقرر شرح سود پر قرض لیتے وقت یہ نہیں جانتی کہ آئندہ نہیں تیس سال کے دوران میں ملک کے اندر ونی حالات اور دنیا کے بین الاقوامی معاملات کیا رنگ اختیار کریں گے اور ان میں اُس کام کی نفع اوری کا کیا حال رہے گا جس پر خرچ کرنے کے لیے وہ سودی قرض لے رہی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کے اندازے غلط نکلتے ہیں اور وہ کام شرح سود کے برابر نفع نہیں دیتا کجا کہ اس سے تریادہ۔ یہ اُن بڑے اسباب میں سے ایک ہے جن کی وجہ سے حکومتیں مالی مشکلات میں مبتلا ہوتی ہیں اور ان کے لیے پچھلے ہی قرضوں کے اصل و سود ادا کرنے میں ہو جاتے ہیں کجا کہ وہ مزید نفع اور تجاویز پر مزید سرمایہ لگا سکیں۔

لہ اس موقع پر یہ معلوم کرنا لطف سے غالی نہ ہو گا کہ انگلستان کے باشندے آج تک اپنے سرمایہ داروں کو ان جگلی قرضوں کا سودا دا کیے جا رہے ہیں جو اب سے سو سورس پہلے اُن کے بزرگوں نے پولیں سے رٹنے کے لیے حاصل کیے تھے۔ اور امریکہ کے باشندے اُس رقم سے پوچھنی رقم اب تک ادا کر چکے ہیں جو امریکن سول دار کے مصارف کے لیے ۱۸۷۴ء میں قرض لی گئی تھی اور ابھی اُن کے ذمہ مزید ایک ارب ڈالر کے قریب اصل و سود واجب الاداب ہے

علاوہ برسیہاں بھی وہی صورت پیش آتی ہے جس کی طرف ہم پہلے کئی بار اشارہ کر چکے ہیں کہ بازار کی شرح سود ایک ایسی حد مقرر کردیتی ہے جس سے کم نفع دینے والے کسی کام پر سرمایہ نہیں لگایا جاسکتا خواہ وہ کام پبلک کے لیے کتنا ہی ضروری اور مفید ہو۔ غیر آباد علاقوں کی آبادی، بخوبیوں کی درستی خشک علاقوں میں آپاشی کے استثناء، دیہات میں سڑکوں اور روشنی اور حفاظان صحبت کا بندوبست، کم تجویزیں پانے والے ملازموں کے لیے صحبت بخش مکانات کی تعمیر اور ایسے ہی دوسرے کام اپنی جگہ چاہے سکتے ہی ضروری ہوں اور ان کے نہ ہونے سے چاہے ملک اور قوم کا کتنا ہی نقصان ہو، مگر کوئی حکومت ان پر روپیہ صرف نہیں کر سکتی جب تک کہ ان سے اتنا نفع حاصل ہونے کی توقع نہ ہو تو راجح وقت شرح سود کے بردار یا اس سے زیادہ ہو سکے۔

پھر اس قسم کے جن کاموں پر سودی قرض لے کر سرمایہ لگایا جاتا ہے ان کے معاملہ میں بھی حقیقی صورت حال یہ ہوتی ہے کہ حکومت اس کے سود کا بار عام باشندوں پر ڈال دیتی ہے ٹیکسوں کے ذریعہ سے ہر شخص کی جیب سے ہالہ اس طریقہ پرلا دا سطہ یہ سود نکالا جاتا ہے اور سال کے سال لاکھوں روپے کی رقمیں جمع کر کے سرمایہ داروں کو مدت ہائے دراز تک پہنچاتی جاتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کیجیے کہ آج ۵ کروڑ سرمایہ سے آب پاشی کی ایک بڑی اسکیم عمل میں لائی جاتی ہے، اور یہ سرمایہ ۱۰ فیصدی سالانہ شرح پر حاصل کیا جاتا ہے۔ اس حساب سے حکومت کو ہر سال ۳۰ لاکھ روپیہ سود ادا کرنا ہو گا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ حکومت اتنی بڑی رقم کیسی سے زیاد کو کھو دکر نہیں نکالے گی بلکہ اس کا بار اُن زمینداروں پر ڈالے گی جو آب پاشی کے اس منصوبے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہر زمیندار پر جو آبیانہ لگایا جائے گا، اس میں ایک حصہ لازماً اس سود کی نسبت کا بھی ہو گا۔ اور زمیندار خود بھی یہ سود اپنی گرد سے نہیں دے سکا بلکہ وہ اسکا بار غلطے کی قیمت پر ڈالے گا۔ اس طرح یہ سود بالہ اس طریقہ ہر اس شخص سے وصول کیا جائے گا جو اس غلطے کی روٹی کھائے گا۔ ایک ایک غریب اور فاقہ کش آجی کی روٹی میں سے لازماً ایک ایک شکر دا توڑا جائے گا۔ اور ان

سرمایہ داروں کے پیش میں ڈالا جائے گا جنہوں نے ۲۰ لاکھ روپیہ سالانہ سود پر اس منصوبہ کے نیلے قرض دیا تھا۔ اگر حکومت کو یہ قرض ادا کرتے کرتے ۵۰ برس لگ جائیں تو وہ غربیوں کے چندہ جمع کر کر کے امیروں کی مدد کا یہ فریضہ نصف صدی تک برابر انجام دیتی جائے گی، اور اس سارے معاملہ میں خود اس کی چیزیت ہباجن کے "مینیم جی" سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہ ہو گی۔

یہ عمل اجتماعی میثمت میں دولت کے بہاؤ کو ناداروں سے مال داروں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ حالانکہ جماعت کی فلاج کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مال داروں سے ناداروں کی طرف جامد ہو۔ یہ خرابی صرف اُسی سود میں نہیں ہے جو حکومتیں نفع اور قرضوں پر ادا کرتی ہیں، بلکہ ان سارے سودی معاملات میں ہے جو تمام کاروباری آدمی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی تاجر یا صناع یا زمیندار اپنی گرد سے وہ سود ادا نہیں کرتا جو اس سرمایہ دار کو درینا ہوتا ہے۔ وہ سب اس بار کو اپنے اپنے مال کی قیمتیوں پر ڈالتے ہیں اور اس طرح عام لوگوں سے پھیر پھیر چندہ اکٹھا کر کے لکھتے ہیں اور کوئی ڈیپوں کی جبوی میں پھینکتے رہتے ہیں۔ اس اوندو ہے نظام میں سب سے زیادہ "مدد" کا مستحق ملک کا سب سے بڑا دولت مند سا ہو کارہ ہے، اور اس کی مدد کا فرضی سب سے بڑا ہے کہ جس شخص پر حاکم ہوتا ہے وہ ملک کا وہ باشندہ ہے جو دن بھر اپنا خون پسینہ رکیک کر کے ڈیپو میں کما کر لائے اور پھر بھی اپنے نیم فاقہ کشی مال بخون کے لیے چلنی اور روٹی کا انتظام کرنا اس پر حرام ہو جب تک کہ پہلے وہ اس چلنی اور روٹی میں سے اپنے ملک کے سب سے بڑے "قابلِ رحم" کر دیتی کا "حق" نہ نکال دے۔

حکومتوں کے پیر و فی قرضے

آخری مدنظر قرضوں کی ہے جو حکومتیں اپنے ملک سے باہر کے ساہو کاروں سے لیتی ہیں۔ اس قسم کے قرضے بالعموم بہت بڑی بڑی رقموں کے لیے ہوتے ہیں جن کی مقدار کروڑوں سے گزر کر بسا اوقات اربوں اور کھربوں تک پہنچ جاتی ہے۔ حکومتیں ایسے قرضے زیادہ تو ان حالات میں لیتی ہیں جب ان کے ملک پر غیر معمولی مشکلات اور

محاذب کا رجوم ہوتا ہے اور خود ملک کے مالی ذرائع ان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ اور کبھی وہ اس لارچ میں بھی اس تدبیر کی طرف رجوع کرتی ہیں کہ بڑا صرایہ لئے کرتے تغیری کاموں پر لگانے سے ان کے وسائل جلدی ترقی کر جائیں گے۔ ان قرضوں کی شرح سود ۶-۷ فیصدی سے لے کر ۹-۱۰ فیصدی تک ہوتی ہے اور اس شرح پر اربوں روپے کا سالانہ سود ہی کروڑوں روپے ہوتا ہے۔ بین الاقوامی بازار نے اس کے سیٹھ اور ساہو کا رہنمی حکومتوں کو زیجہ میں ڈال کر ان کی وساطت سے یہ سرمایہ قرض دیتے ہیں اور اس کے لیے حمایت کے طور پر قرض لینے والی حکومت کے محاصل میں سے کسی محصول، مثلاً چنگی، تباکو، شکر، نمک یا کسی اور ملکی آمدی کو رہن رکھ لیتے ہیں۔

اس نوعیت کے سودی قرضے اُن تمام خرابیوں کے حامل ہوتے ہیں جن کا اہم پہلے ذکر کر آئے ہیں۔ شخصی حاجات کے قرض اور کار و باری قرض اور حکومتوں کے اندر ورنی قرض کوئی نقصان ایسا نہیں رکھتے جو ان بین الاقوامی قرضوں پر سود لگانے کے طریقہ میں ہے ہو۔ اس لیے اُن خرابیوں اور نقصانات کا تواعادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر قرض کی یہ قسم اُن سب کے ساتھ ایک اور خرابی بھی اپنے اندر رکھتی ہے جو ان سب سے زیادہ خوفناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان قرضوں کی بدولت پوری پوری قوموں کی مالی چیزیت خراب اور معاشی حالت تباہ ہو جاتی ہے جس کا نہایت بُرا اثر ساری دنیا کی معاشی حالت پر پڑتا ہے۔ پھر ان کی بدولت قوموں میں عداوت اور دشمنی کے بیچ پڑتے ہیں، اور آخوندگار اہنگی کی بدولت آفت، رسیدہ قوموں کے نوجوان دل برداشتہ ہو کر انتہا پسندانہ سیاسی و تمدنی اور معاشی فلسفوں کو قبول کرنے لگتے ہیں اور اپنے قومی مصائب کا حل ایک خوبی انقلاب یا ایک تباہی غیز جنگیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ جس قوم کے مالی ذرائع پہلے ہی اپنی مشکلات یا اپنی ضرورتوں کو نفع کرنے کے لیے کافی نہ ہتے، وہ آخر کس طرح اس قابل ہو سکتی ہے کہ ہر سال پچاس

ساٹھ لاکھ یا کروڑ دو کروڑ روپیہ تو صرف سود میں ادا کرے اور پھر اس کے علاوہ اصل قرض کی اقساط بھی دینتی رہے؛ خصوصاً جب کہ اس کے ذرائع آمد فی میں سے کسی ایک بڑے اور زیادہ نفع بخش ذریعے کو تاک کر آپ نے پہلے ہی مکفول کر لیا ہوا اور اس کی چادر پہلے سے بھی زیادہ تنگ ہو کر رکھنی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو قوم کوئی بڑی رقم اس طور پر سودی قرض ملتی ہے، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وہ مشکلات رفع ہو جائیں جن سے نکلنے کے لیے اس نے یہ قرض لیا تھا۔ اس کے بر عکس اکثر یہی قرض اس کی مشکلات میں مزید اضافہ کا موجب ہو جاتا ہے۔ قرض کی اقساط اور سودا دا کرنے کے لیے اسے اپنے افراد پر بہت زیادہ میکس لگانا پڑتا ہے اور مصارف میں بہت زیادہ کمی کر دینی ہوتی ہے۔ اس سے ایک طرف قوم کے عوام میں بے چینی بڑھتی ہے، کیونکہ جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اس کا بدل ان کو اس خرچ کے ہم وزن نہیں ملتا۔ اور دسری طرف اپنے ملک کے لوگوں پر اس قدر زیادہ بارڈال کر بھی حکومت کے لیے قرض کی اقساط اور سود باقاعدہ دا کرتے رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر جب قرض دار ملک کی طرف سے ادائیگی میں مسلسل کوتا ہی صادر ہونے لگتی ہے تو بیرونی قرض خواہ اس پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بے ایمان ملک ہے، ہمارا روپیہ کھانا چاہتا ہے۔ ان کے اشاروں پر ان کے قومی اخبارات اس غریب ملک پر چوٹی کرنے لگتے ہیں۔ پھر ان کی حکومت بچ بیں دخل انداز ہوتی ہے اور اپنے سرمایہ داروں کے لئے اس پر صرف سیاسی دباؤ ہی ڈالنے پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ اس کی مشکلات کا ناجائز فائدہ بھی اٹھانا چاہتی ہے۔ قرض دار ملک کی حکومت اس پچندے سے نکلنے کے لیے کوشش کرتی ہے کہ میکسون میں مزید اضافہ اور مصارف میں مزید تخفیف کر کے کسی طرح جلدی سے جلدی اس سے چھپ کر اپائے۔ مگر اس کا اثر باشندگان ملک پر یہ پڑتا ہے کہ پیغم اور روزافزوں مالی ہارا اور معاشی تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے ان کے مزاج میں تنگی آ جاتی ہے، بیرونی قرض خواہ کی چلوں اور سیاسی دباؤ پر دہ اور نریادہ چڑھ جاتے ہیں، اپنے ملک کے اختدال پسند مدبروں پر ان کا غصہ بھڑک

اٹھتا ہے اور معاملہ فہم لوگوں کو چھوڑ کر وہ ان انتہا پسند جو اربوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو سارے قردوں سے بیک جنہیں زبان بری الذمہ ہو کر خم ٹھونک میدان میں آگھڑے ہوتے ہیں اور لکھا کر کہتے ہیں کہ جس میں طاقت ہو وہ ہم سے اپنے مطالبات منوا ہے۔

یہاں پہنچ کر سود کی شرائیزی و فتنہ پردازی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ کیا اس پر بھی کوئی صاحب عقل و ہوش آدمی یہ ماننے میں متعال کر سکتا ہے کہ سود ایک ایسی برائی ہے جسے قطعی حرام ہونا چاہیے؟ کیا اس کے یہ نقصانات اور یہ نتائج دیکھ لینے کے بعد بھی کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں شک ہو سکتا ہے کہ:-

التریا سبْحُونَ جُرْزاً ایسَرَهَا اَنْ یَنْكَحَ الرِّجُلُ

امثلہ۔ (ابن صاجب، بیہقی)

سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو اگر ستر اجزاء میں تقسیم کیا جائے تو اس کا ایک ٹکے سے ہلکا جزو اس گناہ کے برابر ہو گا کہ ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ زندگی کرے۔

جدید بینکنگ

مگر سود کی شناختوں کا مضمون ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اس کی اپنی ذاتی بُرائیوں کو اس تنظیم نے کمی گناہ زیادہ برطانوی ایسا ہے جو زمانہ حال میں جہا جنی و ساہو کاری کے پڑانے طریقوں کی جگہ جدید بینکنگ کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اہل تنظیم نے قدیم صرافت کی گذشتہ دور جدید کے بنیکر اور فینانشیل کو لا بٹھایا ہے۔ جس کے باہم میں آگر سود کا ہشیار ہر زمانے سے زیادہ غارست گریں گیا ہے۔

ابتدائی تاریخ

اس نئے نظام ساہو کاری کے مزاج کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ابتدائی تاریخ آپ کے سامنے ہو۔

مغربی مالکوں اس کی ابتدائیوں ہوئی کہ پہلے جب کاغذ کے نوٹ نہ پڑتے تھے تو لوگ زیادہ تراہنی دولت سونے کی شکل میں جمع کیا کرتے تھے اور اسے گروں میں رکھنے کے بجائے حفاظت کی غرض سے سناروں کے پاس رکھوا دیتے تھے۔ سنار ہر امانت دار کو اس کی امانت کے بقدر سونے کی رسید لکھ دیتا تھا جس میں تصریح ہوتی تھی کہ رسید بردار کا اتنا سونا فلاں سنار کے پاس محفوظ ہے۔ رفتہ رفتہ یہ رسیدوں خرید و فروخت اور قرضوں کی ادائیگی اور حسابات کے تصفیہ میں ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف منتقل ہونے لگیں۔ لوگوں کے لیے یہ بات زیادہ آسان تھی کہ سونے کی رسید ایک دوسرے کو دیے دیں بہ نسبت اس کے کہ ہر دین دین کے موقع پر سونا

منار کے ہاں سے نکلوایا جائے اور اس کے ذریعہ سے کار و بار ہو۔ رسید حوالہ کر دینے کے معنی گویا سونا حوالہ کر دینے کے تھے۔ اس لیے تمام کار و باری اغراض کے لیے رسیدیں اصل سونے کی قائم مقام بنتی چلی گئیں اور اس امر کی نوبت بہت بہت ہی کم آنے لگی کہ کوئی شخص وہ سونا نکلوائے جو ایک رسید کے تیچپے منار کے پاس محفوظ تھا۔ اس کا موقع بس انہی ضرورتیوں کے وقت پیش آسماتھا۔ جب کسی کو بجا شے خود سونے کی ضرورت ہوتی تھی ورنہ ذریعہ مبادلہ کی جیشیت سے جتنے کام سونے سے پلتے تھے وہ سب انہی پہلی رسیدوں کے ذریعہ سے چل جایا کرتے تھے جن کا کسی کے پاس ہونا اس بات کی علامت تھا کہ وہ اس قدر سونے کا مالک ہے۔

اب تجربہ سے مناروں کو معلوم ہوا کہ جو سونا ان کے پاس لوگوں کی امانتوں کا جمع ہے اس کا بھل دسوال حصہ نکلوایا جاتا ہے، باقی ۹ حصے ان کی تجویزوں میں لیے کار پڑھے رہتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ۹ حصوں کو استعمال کیوں نہ کیا جائے چنانچہ انہوں نے یہ سونا لوگوں کو قرض دے کر اس پر سود و صول کرنا شروع کر دیا اور اسے اس طرح استعمال کرنے لگے گویا کہ وہ ان کی اپنی طکہ ہے۔ حالانکہ دراصل وہ لوگوں کی طکہ تھا۔ مزید تعیین ہے کہ وہ اس سونے کے مالکوں سے اس کی حفاظت کا معاوضہ بھی وصول کرتے تھے اور چکپے چکپے اسی سونے کو قرض پر چلا کر اس کا سود بھی وصول کر لیتے تھے۔ پھر ان کی چالاکی اور دغا بازی اس حد پر بھی نہ ڈکی۔ وہ اصل سونا قرض پر دینے کے بجائے اس کی قوت پر کاغذی رسید میں چلانے لگے۔ اس لیے کہ ان کی دی ہوئی رسیدیں بازار میں وہ سارے کام کر رہی تھیں جو ذریعہ مبادلہ ہونے کی جیشیت سے سونا کرتا تھا۔ اور چونکہ انہیں تجربہ سے معلوم ہو چکا تھا کہ محفوظ سونے کا صرف دسوال حصہ ہی عنوان و اپس مانگا جاتا ہے اس لیے انہوں نے باقی ۹ حصوں کی قوت پر ۹ کی نہیں کرنا۔ حصوں کی جعلی رسید میں بنائیں کاغذی کی جیشیت سے چلاتی اور قرض دینی شروع کر دیں۔ اس معاملہ کو مثال کے ذریعہ سے یوں سمجھیے کہ اگر منار کے پاس ایک شخص نے سور و پے کا سونا جمع کرایا تو منار نے سور و پے کی رسیدیں بنائیں، جن میں سے ہر ایک پر

لکھا کہ اس رسید کے بھیپے سورپے کا سونامیرے پاس جمع ہے۔ ان دس سی دل میں سے ایک سوں کے بھیپے فی الواقع سورپے کا سونا موجود تھا، اس نے سونا جمع کرائے والے کے حوالہ کی، اور باقی ۹ سورپے کی نور رسید میں (جن سکتے بھیپے درحقیقت کوئی سونا موجود نہ تھا) دوسرے لوگوں کو قرض دیں اور اُس پر ان سے سود و صول کرنا شروع کر دیا۔

ظاہر ہے کہ یہ ایک سخت قسم کا دھوکا اور فریب تھا۔ اس دغابازی اور جعل سازی کے ذریعہ سے اُن لوگوں نے ۹ فی صدی جعل روپیہ بالحل بے بنیاد کرنی کی شکل میں بنادالا اور خواہ تو اس کے مالک بن بیٹھے اور سوسائٹی کے سر پر اس کو قرض کے طور پر لادالا کر اس پر دس بارہ فی صدی سود و صول کرتے گے۔ حالانکہ انہوں نے اس مال کو کمایا تھا، دُکسی جائز طریقہ سے اس کے حقوق ملکیت انہیں پہنچتے تھے، اور نہ وہ کوئی حقیقی روپیہ تھا جس کو ذریعہ تہادلہ کے طور پر بانہ ارش چلانا اور اس کے عوض اشیاء اور خدمات حاصل کرنا کسی اصول اخلاق و معیشت و قانون کی رو سے جائز ہو سکتا تھا۔ ایک سادہ مزاج آدمی جب اُن کے اس کروتست کی رو دادنے گا تو اس کے ذہن میں قانون تعزیزی راست کی وہ دفعات گھومنہ لگیں گی جو دھوکے اور جعل سازی کے جو ائم سے متعلق ہیں، اور وہ اس کے بعد یہ سنت کامستو قع ہو گا کہ پھر شاید ان سناروں پر مقدمہ چلا یا گیا ہو گا۔ لیکن وہاں معاملہ اس کے بالحل بر عکس ہوا۔ یہ سنار اس مسلسل جعل سازی سے ملک کی ۹ فی صدی دولت کے مالک ہو چکے تھے۔ بادشاہ اور امراء اور وزراء سب ان کے قرض کے جمال میں پھنس چکے تھے۔ خود حکومتیں لڑائیوں کے موقع پر، اور اندر وینی مشکلات کی عقدہ کشائی کے لیے ان سے بھاری قرض لے چکی تھیں۔ اب کس کی مجال تھی یو یہ سوال اٹھا سکتا گا کہ یہ لوگ کہاں سے استثنے برٹے سرمائی کے مالک ہو گئے۔ پھر جیسا کہ ہم اپنی کتاب ”اسلام اور جدید معاشری نظریات“ میں بیان کرچکے ہیں اپنی جاگیرداری کے مقابلہ میں بخوبی بورڈ و انجمن و سینم المشرقی اور آزادی اور جہوں بریت کے زبردست اسلحے کی نشأۃ ثانیہ کے دور میں اٹھ رہی تھی اس کے میر کاروان اور مقدمہ الجیش ہی

ساہو کار اور کار و باری لوگ تھیں جن کی پشت پر فلسفہ اور ادب، اور آرٹ کا ایک دلکش عظیم ہر اس شخص اور گروہ پر ٹھہر ہوں میں کے لیے تیار تھا تو سڑکوں پر گولڈ سمتوں کے سرماں پر ٹھیم کا ماند دریا قلت کرنے کی وجہ است کرتا۔ اس طرح وہ دفابازی وہ جعل سازی، جس سے یہ دولت بنائی گئی تھی، قانون کی گرفت سے صرف محفوظی نہیں رہ گئی بلکہ قانون نے اس کو بالکل جائز تسلیم کر دیا، اور حکومتوں نے ان مُشاروں کا لمحہ اب بینکرا اور فینانشیں بن چکے تھے، یہ حق مان لیا کہ وہ تو سٹ جاری کر دیں، اور ان کے چاری کردہ تو سٹ باقاعدہ ذر کا غذی کی چیخت سے کار و بار کی دنیا میں چلتے گے۔

دوسری مرحلہ

یہ تھی اس سرمائی کی اصلاحیت جس کے ملبوستے پر قسم مُشار دو ریڈیڈ کے ساہو کار اور اقیمہ زر کے فرمان روایتی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک قدم اور بڑھایا ہو پہلے قدم سے بھی تریاد و فتحتہ انگلیز تھا۔

جس دوریں یہ جدید ساہو کاری اسی جعلی سرمائی سے طاقت پکڑ کر سراخادر ہی تھی یہ وہی دور تھا جب مغربی یورپ میں ایک طرف صنعت اور تجارت میالب کی سی شدت کے ساتھ اٹھ رہی تھی اور تمام دنیا کو مسخر کیا چاہتی تھی، دوسری طرف تمنہ تہذیب کی ایک نئی تجارت اٹھ رہی تھی جو ہنور ٹیوں سے لے کر ہیوپلٹیوں تک قندگی کے ہر شعبہ کی تحریر جدید چاہتی تھی۔ اس موقع پر ہر قسم کے معاشی اور تمدنی کاموں کو سرمائی کی حاجت تھی نئی نئی صنعتیں اور تجارتیں اپنے آغاز کے لیے سرمائی مانگ رہی تھیں۔ پہلے کے چلتے ہوئے کار و بار لہنی ترقی اور پیش قدمی کے لیے بڑی اور دوسری افراد مقدار میں سرمائی کے طالب تھے۔ اور تہذیبی و تمدنی ترقی کی مختلف انفرادیں اجتماعی تحریر میں بھی دستی اور اپنے انتقال کے لیے اس چیز کی محتاج تھیں مان سب کاموں کے لیے خود کار کنوں کا اپنا ذاتی سرمائی بہر حال ہا کافی تھا۔ اب الگا الگ دوسری ذرائع سنتے ہیں سے، خوبی جیسا کہ اس تحریر جدید کے نو خیز شبکے کی آبیدی کے لیے بہم آپنے سکتا تھا۔

(۱) وہ سرمایہ جو سابق صناروں اور عالیٰ کے ساہو کاروں کے پاس تھا۔

(۲) وہ سرمایہ جو متوسط اور خوش حال طبقوں کے پاس ان کی پس انداز کی ہوئی آمدنیوں کی شکل میں جمع تھا۔

ان میں سے پہلی قسم کا سرمایہ تو تھا ہی ساہو کاروں کے قبضہ میں، اور دوپہلے سے سود خواری کے عادی تھے، اس لیے اس کا ایک جسم بھی حصہ داری کے اصول پر کسی کام میں لگنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس ذریعہ سے صناروں پر بھی صنائعوں اور تاجریوں اور دوسرے معاشی و تندی کارکنوں کو ملا قرض کے طور پر ملا اور اس شرط پر ملا کہ خواہ ان کو نفع ہو یا نقصان، اور خواہ ان کا نفع کم ہو یا زیاد ہ، بہر حال ساہو کار کو انہیں ایک طے خدہ شرعاً کے مطابق منافع دینا ہو گا۔

اس کے بعد صرف دوسرا ذریعہ بھی ایسا رہ جاتا تھا جس سے معاشی کارو بار اور تعمیر و ترقی کے کاموں کی طرف سرمایہ اچھی اور صحت بخش صورتوں سے آسکتا تھا۔ مگر ان ساہو کاروں نے ایک ایسی چال چلی جس سے یہ ذریعہ بھی انہی کے قبضہ میں چلا گیا اور انہوں نے اس کے لیے بھی تندی و معیشت کے معاملات کی طرف جانتے کے سارے دروازے ایک سودی قرض کے دروازے سے کے سوا بند کر دیے۔ وہ چال یہ تھی کہ انہوں نے سود کا لائچ دے کر تمام ایسے لوگوں کا سرمایہ بھی اپنے پاس کیا پھر اس شروع کر دیا جو اپنی صنعت سے زیادہ آمدی بچا رکھتے تھے، یا اپنی صنعتی روک کر کچھ نہ کچھ پس انداز کرنے کے عادی تھے یہ بات اور آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ یہ صنار ساہو کار پہلے سے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ربط خبیث رکھتے تھے، اور ان کی جمع پوچھی انہی کے پاس امانت رہا کرتی تھی۔ اب یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے سرمائی کو کارو بار میں لگانے لگے ہیں اور ان کی پس انداز کی ہوئی قیمتیں ہمارے پاس آئنے کے بجائے کمپنیوں کے حصے خریدنے میں زیادہ صرف ہونے لگی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اسی زحمت میں کہاں پڑتے ہیں؟ اس طرح تو آپ کو خود شرکت کے معاملات طے کرنے ہوں گے، خود حساب کتاب رکھنا ہو گا، اور سب سے زیادہ یہ کہ اس طریقہ سے آپ نقصان کے خطر سے میں بھی پر بٹس گے اور نفع

کا انتار پر جھاؤ بھی آپ کی آہنی پر اثر انداز ہوتا رہے گا۔ اس کے بجائے آپ اپنی قلمیں
ہمارے پاس جمع کرائیں۔ ہم ان کی حفاظت بھی بلا معاوضہ کروں گے، ان کا حساب
کتاب بھی مفت رکھیں گے، اور آپ سے کچھ لینے کے بجائے اٹا آپ کو شود دیں
گے۔

یہ چال تھی جس سے ۱۹ قیصری، بلکہ اس سے بھی زیادہ پیش انداز قلمیں برداہ
راستہ معيشت و تمدن کے کاموں کی طرف جانے کے بجائے ساہو کار کے دست
تصرفہ میں چل گئیں اور قریب قریب پورے قابل حصول سرمائی پر اُس کا قبضہ ہو
گیا۔ اب صورت حال یہ ہو گئی کہ ساہو کار اپنے جعلی سرمائی کو تو سود پر چلا ہی رہا تھا،
دوسروں کا سرمایہ بھی اس نے مشتری شرح مسود پر لے کر زیادہ شرح پر قرض دینا شروع
کر دیا۔ اس نے یہ بات ناممکن بنا دی کہ اس کی مقدار کی ہوئی شرح کے سوا کسی دوسرا
شرط پر کسی کام کے لیے کہیں سے کوئی سرمایہ مل سکے جو تھوڑے بہت لوگ ایسے رو
بھی گئے جو ساہو کار کی معرفت سرمایہ لگانے کے بجائے خود برداہ راست کار و بار میں
لگانا پسند کرتے تھے اُن کو بھی ایک لگانہ دھاما فتح و حصول کرنے کی چاٹ لگ گئی اور
وہ سیدھے سادھے حصے (Share) خریدنے کے بجائے دشیقوں (Debenture)
کو ترجیح دیئے گئے جن میں ایک مقرر منافع کی ضمانت ہوتی ہے۔

اس طریق کا راستہ تقسیم مکمل کر دی۔ وہ ساری آبادی ایک طرف ہو گئی جو معيشت
اور تمدن کی کمیتیوں میں کام کرتی ہے، جس کی محنتوں اور کوششوں اور قابلیتوں ہی پر
ساری تہذیبی و معاشی پیداوار کا اختصار ہے۔ اور وہ تھوڑی بھی آبادی کو ہمی طرف تو گی۔
جس پر ان ساری کمیتیوں کی سیرا بھی کا اختصار ہے۔ پانی والوں نے کمیتی والوں کے ساتھ
رفاقت اور منصفانہ تعاون کرنے سے انتکار کر دیا اور یہ مستقل پالیسی طے کر لی کہ وہ پانی کے
اس پورے ذخیرے کو اجتماعی مفاد کے لحاظ سے نہیں بلکہ صرف اپنے مفاد اور وہ بھی
خالص مالی مفاد کے لحاظ سے استعمال کریں گے۔

اس طریق کا راستہ بھی طے کر دیا کہ مغرب کا نو ٹیکر تمدن، جو تمام دنیا پر حکمران ہوتے

والا لختا، ایک خالص مادہ پرستا نہ تمدن ہو، اور اس میں شرح سود وہ بنیادی معیار قرار پائے جس کے لحاظ سے آئُ کارہ ہر چیز کی قدر و قیمت متعین ہو۔ اس سیلے کے پوری کیشت تمدن کا انحصار تو ہے سرمایہ کے آبیں حیات پر، اور اس آبیں حیات کے ہر قطرے کی ایک مالی قیمت متعین ہے شرح سود کے مطابق۔ لہذا پورے تمدن کی کمیتی میں اگر کسی چیز کی تحریر ہی کی جاسکتی ہے، اور اگر کوئی پیداوار قدر کی مستحق ہو سکتی ہے، تو بس وہ ہو بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنا مالی فائدہ کم از کم اس حد تک دے جائے جو بورڈ و اتمدن کے قائد اعظم، ساہو کا رنے شرح سود کی شکل میں مقرر کر دکھی ہے۔

اس طریقہ کا رنے قلم اور سیف، دونوں کی حکمرانی کا درد ختم کر دیا اور اس کی جگہ بھی کھاتے کی فرماں روائی قائم کر دی۔ غریب کسانوں اور مردوں کے سے کربڑ سے برٹے سے صنعتی و تجارتی اداروں تک اور برٹی سے برٹی حکومتوں اور سلطنتوں تک سب کی ناک میں ایک غیر مریٰ تکمیل پڑ گئی اور اس کا سراسا ہو کار کے پانچیں آگئے۔

تیسرا مرحلہ

اس کے بعد اس گروہ نے تیسرا قدم اٹھایا اور اپنے کار بار کو وہ شکل دی جسے اب جدید نظام سا ہو کاری کہا جاتا ہے۔ پہلے لوگ انقرادی طور پر کام کرتے تھے اگرچہ بعض سا ہو کار گھر انوں کا مالیاتی کاروبار برٹے سے بڑھتے عظیم الشان اداروں کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ جسی کی شاخیں دُور دراز مقامات پر قائم ہو گئی تھیں، یہ کون ہے مرحلہ الگ الگ گھر اسے تھے اور اپنے ہی نام پر کام کرتے تھے۔ پھر ان کو یہ سچو جسی کہ جس طرح کاروبار کے سارے شعبوں میں مشترک سرمائی کی کپنیاں بن رہی ہیں اور وہ پر کے کاروبار کی بھی کپنیاں بنائی جائیں اور برٹے پریمانے پر ان کی تنظیم کی جائے۔ اس طرح یہ بیکن و جو دش آئے جو آج تمام دنیا کے نظام مالیات پر قابض و متصرف ہیں۔

اس جدید تنظیم کا طریقہ مختلف لفاظوں میں بھی ہے کہ چند صاحبو سرمایہ لوگ مل کر ایک ادارہ سا ہو کاری قائم کر جائے یعنی جس کا نام بیکن ہے۔ اسی ادارے میں دو طرح کا سرمایہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک حصہ داد دوں کا سرمایہ جس سے کام کی ابتدائی

جاتی ہے۔ دوسرا امانت داروں یا کھاترداروں (Depositors) کا سرمایہ بینک کا کام اور نام بڑھنے کے ساتھ ساختہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ملتا جاتا ہے اور اسی کی بدولت بینک کے اثر اور اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک بینک کی کامیابی کا اصل معیار یہ ہے کہ اس کے پاس اس کا اپنا ذاتی سرمایہ (یعنی حصہ داروں کا لگایا ہوا سرمایہ) کم سے کم ہو اور لوگوں کی رکھواٹی ہوئی مقیں زیادہ سے زیادہ ہوں۔ مثال کے طور پر بخوبی بینک کو یہیں جو قبل تعیین کے بڑے کامیاب بینکوں میں سے تھا۔ اس کا اپنا سرمایہ صرف ایک کروڑ روپا جس میں سے ۸۰ لاکھ سے کچھ ہی زائد روپیہ حصہ داروں نے حملہ ادا کیا تھا۔ لیکن ۱۹۷۵ء میں یہ بینک تقریباً ۵۵ کروڑ روپے کا وہ سرمایہ استعمال کر رہا تھا جو امانتیں رکھوانے والوں کا فراہم کردہ تھا۔ مگر وچھپ بات یہ ہے کہ بینک اپنا سارا کام تو چلاتا ہے امانتداروں کے روپے سے، جسی کا دیا ہوا سرمایہ بینک کے مجموعی سرمائی میں ۹۰-۹۵ فیصد تک ہے۔ فی صدی تک ہوتا ہے، لیکن بینک کے نظم و نسق اور اس کی پالیسی میں ان کا کوئی دخل نہیں ہوتا یہ چیز بالکل اُن حصہ داروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو بینک کے مالک ہوتے ہیں اور جن کا سرمایہ مجموعی سرمائی کا صرف دو تین یا چار پانچ فی صدی ہوا کرتا ہے۔ امانت داروں کا کام صرف یہ ہے کہ اپنا درپیشہ بینک کے خواہ کر دیں اور اس سے ایک خاص شرح کے مطابق سود لیتے رہیں۔ وہی یہ بات کہ بینک اس روپے کو استعمال کس طرح کرتا ہے، اس معاملہ میں وہ کچھ نہیں بول سکتے۔ اس کا تعلق صرف حصہ داروں سے ہے وہی منتظرین کا انتخاب کرتے ہیں، وہی پالیسی کا تعین کرتے ہیں، وہی نظم و نسق اور حساب کتاب کی نگرانی کرتے ہیں اور انہی کے منشا پر اس امر کا فیصلہ منحصر ہوتا ہے کہ سرمایہ کو ہر جائے اور کوہرہ جائے۔ پھر حصہ داروں میں سب یکساں نہیں ہوتے۔ متفرق چھوٹے چھوٹے حصہ داروں کا اثر بینک کے نظام میں برائت نام ہوتا ہے۔ دراصل چند بڑے اور بھاری حصہ داری سرمائی کی اس بھیل پر قابض ہوتے ہیں اور وہی اس پر تصرف کرتے رہتے ہیں۔

بینک اگرچہ بہت سے چھوٹے برطانیہ کام کرتا ہے جن میں سے بعض یقیناً مغیر، ضروری اور جائز بھی ہیں، لیکن اس کا اصل کام مرمتے کو سود پر چلانا ہوتا ہے۔ تجارتی بینک ہو یا صنعتی یا ذرا عتی، یا کسی اور نوعیت کا، بہر حال وہ خود کو تجارت یا صنعت یا زراعت نہیں کرتا بلکہ کار و باری لوگوں کو سرمایہ دیتا ہے اور ان سے سود و صول کرتا ہے۔ اس کے منافع کا اصلی سب سے برطانیہ ہوتا ہے کہ امانت داروں سے کم شرح سود پر سرمایہ حاصل کر سے اور کار و باری لوگوں کو زیادہ شرح پر قرض دے۔ اس

لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مخوذی سی تفصیل بینکوں کے طبقہ کارکی بھی دے دی جائے تاکہ لوگ ان کے کار و بار کی واقعی حیثیت اپنی طرح سمجھ لیں۔

بینک میں جو امانتیں رکھوائی جاتی ہیں وہ دو ٹری قسموں پر مشتمل ہوتی ہیں ایک موقب (Fixed) دوسرا معجل یا عند الطلب (Current)۔ پہلی قسم کم از کم تین ہی نے یا اس سے زیادہ مدت کے لیے بینک کے حوالہ کی جاتی ہے۔ اور دوسرا قسم میں سے ہر وقت آدمی لیتا دیتا رہتا ہے۔ بینک کا قاعدہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ مدت کے لیے کوئی رقم اس کے پاس رکھوائی جائے اسی قدر زیادہ شرح سود اس پر دیتا ہے اور جتنی مدت کم ہو جاتی ہے اسی قدر شرح بھی کم ہو جاتی ہے۔ بعض بینک عنداطلب یا چالو کھاتے (Current account) پر برائی نام کے سود دے دیتے ہیں، لیکن بالعموم اب اس پر سود دینے کا قاعدہ نہیں رہا ہے۔ بلکہ لوگ اپنے چالو کھاتے میں سے بہت زیادہ اور بار بار رقمیں نکالتے رہتے ہیں ان سے یا تو بینک ان کا حساب کتاب رکھنے کی اجرت وصول کرتے ہیں یا ان سے مطالبه کرتے ہیں کہ ایک خاص مناسب کے مطابق اپنی رقم کا کچھ حصہ بینک میں مستقل طور پر رکھوادیں تاکہ اس کے سود سے بینک کا وہ خرچ ملی آئے یہ وہ ان کا حساب کتاب رکھنے پر برداشت کرتا ہے۔

بینک اپنے سرمائی کا ایک حصہ تقریباً اسے ۲۵ فی صد تک نقد اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ روزمرہ کے لیے دین میں کام آسکے۔ اس کے بعد کچھ سرمایہ بازار صرافہ (Money Market) کو قرض دیا جاتا ہے۔ یہ تقریباً نقدی کی طرح ہر وقت قابل حصول (باقی صفحہ ۱۰۳ پر)

طریقے سے جو آمدی ہوتی ہے وہ حصہ داروں میں اُسی طرح تقسیم ہو جاتی ہے جس طرح تمام تجارتی آداروں کی آمد نیاں ان کے حصہ داروں میں مناسب طریقے سے تقسیم ہوا کرتی ہیں۔

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۲۰۱ سے) اور قلیل استعمال (Liquid) رہتا ہے اور اس پر بڑے ایک فیصدی تک سود مل جاتا ہے۔ پھر ایک حصہ ہندی کے کاروبار میں اور دوسرے قلیل المدت قرضوں میں صرف کیا جاتا ہے۔ ان کی واپسی بھی چونکہ جلدی جلدی ہوتی رہتی ہے اس لیے ان پر بھی سود کم لگتا ہے مثلاً دو سے ہفتی صدی تک یا اس سے کم دبیش۔ اس کے بعد سرمایہ کا ایک بھتیرہ حصہ ایسی چیزوں پر لگایا جاتا ہے جن میں سرمایہ کی حفاظت کا بھی زیادہ سے زیادہ اطمینان ہوتا ہے، ضرورت پڑنے پر انہیں بچ کر بھی سرمایہ واپس نکالا جاسکتا ہے۔ اور پھر ان پر دوچار فی صدی سود بھی مل جاتا ہے، مثلاً حکومتوں کی کفارتیں (Govt. securities) اور قابل اعتماد کمپنیوں کے حصے اور وشیتے (Debenture) نقدی کے بعد یہ تین مدرس ہر بینک اپنے کاروبار میں اس لیے لازماً شامل رکھتا ہے کہ یہ اس کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں۔ ان سے بینک کی کم معبوط رہتی ہے اور خطرے یا ضرورت کے وقت یہ اس کے کام آ جاتی ہی۔

اس کے بعد ایک بڑی مدد آن قرضوں کی ہے جو کاروباری لوگوں کو اونڈی چیزیں اصحاب کو اور اجتماعی اداروں کو دیئے جاتے ہیں۔ یہ بینک کی آمدی کا سب سے بڑا اذریحہ ہے۔ اس پر سب سے زیادہ شرح سود ملتی ہے اور ہر بینک یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنے سرمایہ کا زیادہ سے زیادہ حصہ اس پر صرف کرنے کا موقع ملے۔ عام طور پر بینک اس مدرس ۲۰ سے لے کر ۴۰ فی صدی تک سرمایہ لگایا کرتے ہیں اور اس میں کمی بڑی زیادہ تر ملک کے اور دنیا کے سیاسی و معاشری حالات کی بنابری ہوتی رہتی ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات باصل واضح ہو جاتی ہے کہ بینک اپنے امانت داروں سے یا ہم اور خود اپنا لگایا ہوا سرمایہ جتنی مدد میں بھی صرف کرنے ہیں وہ سب ایسے سود طلب قرضوں کی میں ہیں جو بالآخر اس طریقے سے اسٹریٹیجی کے سر پر چڑھائے جاتے ہیں اور پھر ریاستی صفحہ ۲۰۱ پر

نتائج

اس طریقے پر ساہو کار کی سطحیں کر دیتے کا تجھیر ہوا کہ پہلے زمانے کے منفرد اور متدر ہجاجنوں کی پہلی نسبت آج کے مجتمع اور منظم ساہو کاروں کا وقار اور اثر اور اعتماد کی گئی زیادہ بڑھ گیا اور پورے پورے ملکوں کی دولت سمجھ کر ان کے پاس مرکز ہو گئی۔ اب اربوں روپے کا سرمایہ ایک بینک میں اکٹھا ہو جاتا ہے، جس پر چند بیٹوں ساہو کار قابض و مستصرف ہوتے ہیں اور وہ اس ذریعہ سے وصرف اپنے ملک کی، بلکہ دنیا بھر کی معاشری اور سیاسی زندگی پر کمال درجہ خود غرضی کے ساتھ فرماں روائی کرتے رہتے ہیں۔

ان کی طاقت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ تقسیم سے پہلے ہندوستان کے دس روپے بینکوں کے پاس جمعہ داروں کا فراہم کیا جو تو سرمایہ تو صرف، اگر وہ تھامگراست داروں کے دکھوائی ہوئے سرمایہ کی مقدار چھ ارب بارہ کروڑ روپے تک پہنچی ہوئی تھی۔ ان بینکوں کے پورے نظم و نسق اور ان کی پالیسی پر چند مشتملیں جو ساہو کاروں کا قبضہ تھا جن کی تعداد حد سے بعد ڈیڑھ دو سو ہوگی۔ مگر یہ سو دل کافی تھے تھا جس کی وجہ سے ملک کے لاکھوں آدمیوں نے اتنی بڑی رقم فراہم کر کے ان کے ہاتھیں دے رکھی تھی اور اس باستے ان کو کچھ غرضی نہ تھی کہ اس طاقت پر مستحیار کو یہ لوگ کس طرح کی مقادیر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ اندازہ ہر شخص خود لگا سکتا ہے کہ جی ہجاجنوں کے پاس اتنی بڑی رقم جمع ہو دے ملک کی صنعت، تجارت، صنعت، سیاست اور تہذیب و تمدن پر کس قدر زبردست اثر ڈال رہے ہوں گے، اور یہ اثر آیا ملک اور باشندگانی ملک کے مقادیر میں کام کر رہا ہوگا۔

دیقیرہ حاشیہ صفحہ ۲۰۷ اکا) اماںت داروں کو جو چیز "مناقع" کے نام سے دی جاتی ہے وہ اُسی سو دل کا ایک حصہ ہوتی ہے جو ان قرضوں پر سماحتی سے وصول کیا جاتا ہے۔ اس میں شکر ہمیں کو بینک کچھ ایسی خدمات بھی انجام دیتے ہے جو جائز و محبوب کی ہوتی ہیں اور ان کی اجرت یا کیش بھی اس کے ذریعہ آمدی میں سے ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اسی ذریعہ سے کم اگری ہوتی آمدی بینک کی کل آمدی کا بیشک ۵۔۰٪ ایجادی حصہ ہوتی ہے۔

یا ان خود غرض دو گوں کے اپنے مقامیں۔

یہ تو اس سر زمین کا حال ہے جس میں ابھی ساہو کاروں کی تنظیم بالکل ابتدائی حالت میں ہے اور جہاں بینکوں کی امانتوں کا مجودہ کل آبادی پر مشکل ہے رد پے فی کس ہی کے حساب سے پھیلتا ہے۔ اب فردا قیاس کیجیے کہ یعنی ملکوں میں ہے اوس طاس سے ہزار دو ہزار گھنٹے تک پہنچ گیا ہے وہاں سرمایہ کی مرکزیت کا کیا عالم ہو گہاں ۱۹۳۷ء کے اعداد و شمار کی رو سے صرف تجارتی بینکوں کی امانتوں کا اوس طام کی آبادی میں ۱۳۱ پونڈ فنی کس، انگلستان کی آبادی میں ۲۴۶ پونڈ فنی کس، سویٹزر لینڈ میں ۵۷۲ پونڈ، جرمنی میں ۲۱۲ پونڈ، اور فرانس میں ۱۴۶ پونڈ فنی کس کے حساب سے پڑتا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر ان ملکوں کے باشندے اپنے ہیں اعماز کی توئی آندیاں اور اپنی ساری پونچی اپنے ساہو کاروں کے حوالہ کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر سرمایہ گھر گھر سے کچھ کچھ کرچدہ امانتوں میں مرکز ہو رہا ہے۔ اور پھر جن کے پاس وہ مرکز ہوتا ہے وہ نہ کسی کو ہوا بردہ ہیں۔ نہ اپنے نفس کے سوا کسی سے ہدایت لینے والے ہیں۔ اور نہ وہ اپنی اغراض کے سوا کسی دوسری چیز کا لحاظ کرنے والے۔ وہ بس سود کی شکل میں اس عظیم الشان مرکوز دولت کا "کرایہ" ادا کر دیتے ہیں اور عملہ اس کے مالک ہیں جاتے ہیں۔ پھر اس طاقت کے مل پر وہ ملکوں اور قوموں کی قسمتوں سے کہیتے ہیں۔ جہاں پاہتے ہیں قحط برپا کرتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں پہنچا کاں ڈال دیتے ہیں۔ جب پاہتے ہیں جنگ کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں صلح کر دیتے ہیں۔ جس چیز کو اپنے ذریعہ ستارہ نقطہ نظر سے مفید سمجھتے ہیں اسے فروع دیتے ہیں اور جس چیز کو ناقابلِ اتفاقات پاتے ہیں اسے تمام ذرائع وسائل سے خروج کر دیتے ہیں۔ صرف منڈیوں اور بازاروں ہی پرداں کا قبضہ نہیں ہے۔ علم و ادب کے گھواروں، اور ساتھی تحقیقات کے مرکزوں، پرداں کے اداروں، اور مدھب کی خانقاہوں اور حکومت کے ایوانوں، سب پر ان کی حکومت چل رہی ہے۔ کیونکہ قاضی العدالت حضرت ذریعہ کے مرید ہو چکے ہیں وہ یہ بلاسے عظیم ہے جس کی تباہ کاریاں دیکھ دیکھ کر خود مغربی ممالک کے صاحبِ فکر لوگ چیخ اٹھتے ہیں۔ اور وہاں مختلف سنتوں سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ مایاں کی اتنی بڑی طاقت

کا ایک چھوٹے سے غیر ذمہ دار خود غرض طبقے کے ہاتھ میں مرتکز ہو جانا پوری اجتماعی زندگی کے لیے سخت چہلک ہے۔ مگر ہمارے ہاں ابھی تک یہ تصوری ہوئے جا رہی ہیں کہ شود خواری تو پڑانے گذی نشین ہماجن کی حرام و نجس تھی۔ آج کامگری نشین و موڑ نشین بینکر بھارہ تو بڑا ہی پاکیزہ کاروبار کر رہا ہے، اس کے کاروبار میں روپیہ دینا اور اس سے اپنا حصہ لے لینا آخر کیوں حرام ہے؟ حالانکہ فی الحقيقة اگر پڑانے ہماجنوں اور آج کے بینکروں میں کوئی فرق واقع ہوا ہے تو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ پہلے یہ لوگ ایکے ایکے ڈاکہ مارتے تھے، اب انہوں نے جنت بندی کر کے ڈاکوؤں کے بڑے بڑے گروہ بنالیے ہیں۔ اور دوسرا فرق جو شاید پہلے فرق سے بھی زیادہ بڑا ہے یہ ہے کہ پہلے ان میں کا ہر ڈاکون قب نہی کے آلات اور مردم کشی کے ہتھیار سب کچھ اپنے ہی پاس سے لاتا تھا، مگر اب سارے ملک کی آبادی اپنی حماقت اور قانون کی غفلت و جہالت کی وجہ سے بے شمار آلات اور اسلحہ فراہم کر کے "درکاری" پر ان منظم ڈاکوؤں کے حوالے کر دیتی ہے۔ روشنی میں یہ اس کو "کلایہ ادا کرتے ہیں اور انہی میں اسی آبادی پر اسی کے فراہم کیے ہوئے آلات و اسلحہ سے ڈاکہ ڈالتے ہیں۔

اسی کردار کے متعلق ہم سے کہا جاتا ہے کہ اسے حلال و طیتب ہونا چاہیئے!

سُود کے متعلق اسلامی احکام

یہ ہماری بحث کا عقلی پہلو تھا۔ اب یہ ہم نقل کے اعتبار سے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی رو سے "سود" کیا شے ہے، اس کے حدود کیا ہیں، اسلام میں اس کی حرمت کے بوجو احکام وارد ہوئے ہیں وہ کن کن محاکمات سے متعلق ہیں اور اسلام اس کو مشاہد انسان کے معاشی معاملات کو کس قaudہ پر چلانا چاہتا ہے۔

ربو کا مفہوم

قرآن مجید میں سود کے لیے "ربو" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مادہ "زربہ" ہے جس کے معنی میں زیادت، نمو، برطہوتی، اور چڑھتے کا اعتبار ہے۔ زبانہ برطھا اور زیادہ ہوا۔ ربا فلان السوابیۃ۔ وہ ٹیکے پر چڑھ گیا۔ ربا فلان السویق:- اس نے ستور پر پانی ڈالا اور ستون پھول گیا۔ دبافی حجرہ:- اس نے فلاں کی آنکوش میں نشوونما پایا۔ اربی الشیعی چیز کو برطھایا۔ دباؤ۔ بلندی۔ دابیہ۔ وہ زمین یوں اس طرح ارعن سے بلند ہو۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں اس ماقے کے مشتقات آئے ہیں، سب جگہ زیادت اور علو اور نمو کا مفہوم پایا جاتا ہے، مثلاً:-

فَإِذَا آتَيْتَهَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ

(لہجہ: ۵)

جب ہم نے اس پر پانی برسایا تو وہ اپنے اٹھی اور برگ وبار لانے لگی۔
يَسْأَلُهُ اللَّهُ الرَّبُّ بِوَوْبِرْتِي الْعَدَّ قَاتِ۔ (البقرة: ۲۶۶)

اللَّهُ سُودَ كَمْلُهُ مَارِدٌ تَابَسَهُ اور صدقات کو برطحاتا ہے۔

فَأَخْتَمَ السَّيْلَ زَبَدًا ذَاهِيًّا۔ (الرعد: ۱۷)

جھاگٹ ہو اور پڑھ آیا تھا اس کو سیلا بہسا سے گیا۔

فَأَخْذَهُمْ أَخْذًا قَرَابِيَّةً۔ (الحاقة: ۱۰)

اس نے ان کو پھر زیادہ سختی کے ساتھ پکڑا۔

أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هُنَّ هُنَّ أَذْيَرُ مِنْ أُمَّةٍ طَرَالِ النَّحْلِ: (۹۲)

تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے برطح جائے۔

أَقْرَبُهُمْ مَا لِي رَبِيعَةُ الْمُؤْمِنُونَ: (۵۰)

ہم نے ہریم اور سچ کو ایک اونچی جگہ پر بناد دی۔

اسی ماقسم سے "رَبَّا" ہے اور اس سے مراد مال کی نزیادتی، اور اس کا اصل سے
برطح جانا ہے۔ چنانچہ اس معنی کی تصریح بھی خود قرآن میں کردی گئی ہے:-

وَذَرْدُوا مَا يَقْرُبُونَ مِنَ السَّرِيبِ... وَرَانَ تُبْشِّرُ فَلَكُمْ

رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ۔ (البقرة: ۲۶۹)

اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اُسے چھوڑ دو.....

اور اگر تم تو بہ کرو تو تمہیں اپنے راس المال (یعنی اصل رقم) سیئے کا حق ہے۔

وَمَا أَتَيْتُمْ قِنْ زَبَدًا يَرِبُّ بُوَافِي أَشْوَالِ الْمَتَابِرِ فَلَا

يَرِبُّ بُوَا عِشْدَاءَ اللَّهُ۔ (روم: ۳۹)

اور جو سود تم نے دیا ہے تاکہ لوگوں کے اموال برداشتیں تو اللہ کے
فردیکس اس سے مال نہیں برطحنا۔

ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اصل رقم پر جو زیادتی بھی ہو گی وہ مدربوں کے لئے
گی۔ لیکن قرآن مجید نے مطلق ہزارادتی کو حرام نہیں کیا ہے زیادتی تو تجارت میں بھی ہوتی ہے
قرآن جس زیادتی کو حرام قرار دیتا ہے وہ ایک خاص قسم کی نزیادتی ہے، اسی لیے وہاں
کو "السَّرِيبُونَ" کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اہل عرب کی زبان میں اسلام سے پہلے بھی معاملہ

کی اس خاص نوعیت کو اسی اصطلاحی نام سے یاد کیا جاتا تھا، مگر وہ "الرِّبُوَّ" کو سچ کی طرح جائز سمجھتے تھے جس طرح موجودہ جاہلیت میں سمجھا جاتا ہے۔ اسلام نے اگر بتایا کہ اس المال میں جو زیادتی سچ سے ہوتی ہے وہ اس زیادتی سے مختلف ہے جو "الرِّبُوَّ" سے ہوا کرتی ہے۔ پہلی قسم کی زیادتی حلال ہے اور دوسری قسم کی زیادتی حرام ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَاتُلُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوَّ وَأَحَلَّ

الْفِتْنَةُ الْبَيْعُ وَحْشَرُ مَرَاجِلُ الرِّبُوَّ. (رابعہ القراء: ۲۴۵)

سُود خواروں کا یہ حشر اس لیے ہوا گا کہ انہوں نے کہا کہ سچ بھی "الرِّبُوَّ" کے مانند ہے، حالانکہ اللہ نے سچ کو حلال اور ریبو کو حرام کیا ہے۔

پوچھ کر "الرِّبُوَّ" ایک خاص قسم کی زیادتی کا نام تھا، اور وہ معلوم و مشہور تھی، اس لیے قرآن مجید میں اس کی کوئی تشریح نہیں کی گئی، اور صرف یہ کہتے پر اتفاق کیا گیا کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اُس سے چھوڑ دو۔

جَاهِلِيَّتُ كَارِبُو

زمانہ جاہلیت میں "اریبو" کا اطلاق جس طرزِ معاملہ پر ہوتا تھا، اس کی متعدد صورتیں روایات میں آئی ہیں۔

قیادہ کہتے ہیں جاہلیت کا زبوبیہ تھا کہ ایک شخص، ایک شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور ادا سے قیمت کے لیے ایک وقت مقررہ تک چیز دیتا۔ اگر وہ قیمت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو پھر وہ مزید ہدلت دیتا اور قیمت میں اضافہ کر دیتا۔

مجاہد کہتے ہیں جاہلیت کا زبوبیہ تھا کہ ایک شخص کسی سے قرض لیتا اور کہتا کہ اگر تو مجھے اتنی ہدلت دے سے تو میں اتنا زیادہ دوں گا۔ (لماں جویہ جلد سوم صفحہ ۴۷)

ابو بکر جعفرا ص کی تحقیق یہ ہے کہ اہل جاہلیت ایک دوسرے سے قرض لیتے تو ہمیں ملے ہو جاتا کہ اتنی مدد میں اتنی رقم اصل راس المال سے زیادہ ادا کی جائے گی۔ (حكم القرآن جلد اول)

امام نازی کی تحقیق میں اہل چاہیت کا یہ دستور تھا کہ وہ ایک شخص کو ایک معین مدت کے لیے روپیہ دیتے اور اس سے ماہ بہاہ ایک مقررہ رقم سود کے طور پر وصول کرتے رہتے۔ جب وہ مدت ختم ہو جاتی تو مدیون سے راس المال کا مطالیبہ کیا جاتا۔ اگر وہ ادا نہ کر سکتا تو پھر ایک مزید مدت کے لیے چہلت دی جاتی اور سود میں اضافہ کر دیا جاتا۔
 (تفسیر کبیر جلد دوم صفحہ ۳۵)

کارہ فی بارہ کی یہ صورتیں عرب میں راجح تھیں، انہی کو اہل عرب اپنی زبان میں "اربہ" کہتے تھے، اور یہی وہ چیز تھی جس کی تحریم کا حکم قرآن مجید میں نازل ہوا ہے۔

بیح اور ربوبیں اصولی فرقی

اب اس امر بخود کیجئے کہ بیح اور ربوبیں اصولی فرق کیا ہے، ربوبی کی خصوصیات کیا ہیں جن کی وجہ سے اس کی نوعیت بیح سے مختلف ہو جاتی ہے اور اسلام نے کس بنا پر اس کو منع کیا ہے۔

بیح کا اطلاق جس معاملہ پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بالائی ایک شے کو فروخت کے لیے پیش کرتا ہے، مشتری اور باائع کے درمیان اس شے کی ایک قیمت قرار پاتی ہے، اور اس قیمت کے معاوضہ میں مشتری اس شے کو لے لیتا ہے، یہ معاملہ دو حال سے خالی ہیں ہوتا۔ یا تو باائع نے وہ چیز خود مختست کر کے اور اپنامال اس پر صرف کر کے پیدا کی ہے، یا وہ اس کو کسی دوسرے سے خرید کر لایا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ اپنے راس المال پر اب اس نے خریدنے یا ہتیا کرنے میں صرف کیا تھا، اپنے حق المختست کا اضافہ کرتا ہے اور یہی اس کا منافع ہے۔

اس کے مقابلہ میں ربوبیہ ہے کہ ایک شخص اپناراس المال ایک دوسرے شخص کو قرض دیتا ہے اور یہ شرعاً کر لیتا ہے کہ میں اتنی مدت میں اتنی رقم تجھ سے رأس المال پر ذائقوں گا۔ اس معاملہ میں راس المال کے مقابلہ راس المال ہے، اور چہلت کے مقابلہ میں

وہ زائد رقم ہے جس کی تعیین پہلے بطور ایک شرط کے کری جاتی ہے۔ اسی زائد رقم کا نام سود یا رسوب ہے جو کسی خاص مال یا شے کا معاوضہ نہیں بلکہ محسن چہلت کا معاوضہ ہوتا ہے۔ اگر بیع میں بھی قرار پا جگی ہو، اور پھر مشتری سے یہ شرط کی جائے کہ ادائی قیمت میں مثلاً ایک چینے کی دیر ہونے پر قیمت میں اتنا اضافہ کر دیا جائے گا تو زیادت سود کی تعریف میں آجائے گی۔

پس سود کی تعریف یہ قرار پافی کہ قرض میں دیئے ہوئے راس المال پر بوزائد رقم مدت کے مقابلہ میں شرط اور تعیین کے ساتھ لی جائے وہ "سود" ہے مذکور الممال پر اضافہ، اضافہ کی تعیین مدت کے لحاظ سے کیے جانا، اور معاملہ میں اس کا مشروط ہونا، یہ تین اجزاء ہے تو کبھی یہیں جن سے سود بتتا ہے، اور ہر وہ معاملہ قرض جس میں یہ تینوں اجزاء پائے جاتے ہوں، ایک سودی معاملہ ہے، قطع نظر اس سے کہ قرض کسی بار آور کام میں لگانے کے لیے لیا گیا ہو یا کوئی شخصی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور اس قرض کا لینے والا آدمی غریب ہو یا امیر۔

بیع اور سود میں اصولی فرق یہ ہے کہ:-

(۱) بیع میں مشتری اور باائع کے درمیان منافع کا مبادله برابری کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ مشتری اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے جو اس نے باائع سے خریدی ہے، اور باائع اپنی اس محنت، ذہانت اور وقت کی اجرست لیتا ہے جس کو اس نے مشتری کے لیے وہ چیز جیسا کہ نہیں صرف کیا ہے۔ بخلاف اس کے سودی لین دین میں منافع کا مبادله برابری کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سود لینے والا تو مال کی ایک مقرر مقدار لے لیتا ہے جو اس کے لیے بالیقین نفع بخش ہے، لیکن اس کے مقابلہ میں سود دیئے والے کو صرف چہلت ملتی ہے جس کا نفع بخش ہونا یقینی نہیں۔ اگر قرض دار نے اپنی شخصی ضرورتوں پر خرچ کرنے کی غرض سے قرض لیا ہے تب تو چہلت اس کے لیے نافع نہیں، بلکہ یقیناً نقصان دہ ہے۔ اور اگر اس نے یہ قرض تجارت یا زراعت یا صنعت و حرف میں لگانے کی غرض سے لیا ہے تو چہلت میں جس طرح اس کے لیے نفع کا امکان ہے اسی

طرح نقصان کا بھی امکان ہے۔ لیکن قرض خواہ بہر حال اس سے نفع کی ایک مقرر مقدار ملے یتباہے، خواہ اس کو اپنے کار بارش فائدہ ہو رہا نقصان۔ پس سود کا معاملہ یا تو ایک فرق کے فائدے اور دوسرے کے نقصان پر ہوتا ہے، یا ایک کے یقینی اور متعین فائدے اور دوسرے کے غیر یقینی اور غیر متعین فائدے پر۔

(۲) بچ دشراشی باائع مشتری سے خواہ کتنا ہی زائد منافع ملے، بہر حال وہ صرف ایک ہی مرتبہ یتباہے۔ لیکن سود کے معاملہ میں وہ اس المال دینے والا مسلسل اپنے مل پر منافع وصول کرتا رہتا ہے اور وقت کی رفتاد کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بڑھتا پہلا جاتا ہے، ملیون نے اس کے مال سے خواہ کتنا ہی فائدہ حاصل کیا ہو، بہر طور پر اس کا فائدہ ایک خاص حد تک ہی ہو گا۔ مگر اس کے معاملہ میں داشت ہو نفع اٹھاتا ہے اس کے لیے کوئی حد نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی تمام کمائی، اس کے تمام وسائل ثروت، اس کے تمام مابحاج پر محیط ہو جائے اور پھر بھی اس کا سلسلہ ختم نہ ہو۔

(۳) بچ دشراشی شے اور اس کی قیمت کا بیاد رکھنے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مشتری کو کوئی چیز باائع کو واپس دینی نہیں ہوتی۔ لیکن سود کے معاملہ میں ملیون رام المال ملے کر صرف کرچکتا ہے اور پھر اس کو وہ صرف مشد چیز دوبارہ حاصل کر کے سود کے اضافہ کے ساتھ واپس دینی پڑتی ہے۔

(۴) تجارت اور صنعت و حرف اور زر احمد میں انسانی محنت اور ذہانت صرف کرتا ہے اور اس کا فائدہ یتباہے۔ مگر سودی کار بارش وہ محض اپنا ضرورت سے زائد مال دے کر بلا کسی محنت و مشقت اور صرف مال کے دوسروں کی کمالی میں شرکت خالیہ بن جاتا ہے۔ اس کی جیشیت اصطلاحی "شرپک" کی شہری ہوتی ہو نفع و نقصان دلوں میں شرکت ہوتا ہے اور نفع میں جس کی شرکت نفع کے تباہ سے ہوتی ہے، بلکہ وہ ایسا شرکت ہوتا ہے جو بلطف نفع و نقصان اور بلطف تباہ نفع اپنے مقرر اور مشروط منافع کا دھویدار ہوتا ہے۔

علت تحریم

یہ وجہ یہ ہے جن کی بنابر اللہ تعالیٰ نے یہ کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ ان وجوہ کے علاوہ گرمیت سود کی دوسری وجہ بھی ہے جن کی طرف ہم پہلے اشارہ کرچکے ہیں۔ وہ بخل، خود غرضی، شقاوت، ابے رحمی اور زرد پرستی کی صفات پیدا کرتا ہے۔ وہ قوم اور قوم میں عداوت ڈالتا ہے۔ وہ افراد قوم کے درمیان ہمدردی اور امداد باہمی کے تعلقات کو قطع کرتا ہے۔ وہ لوگوں میں روپیرجیح کرنے اور صرف اپنے ذاتی مفاد کی ترقی پر لگانے کا میلان پیدا کرتا ہے۔ وہ سوسائٹی میں دولت کی آندر اونٹگردش کو روکتا ہے، بلکہ دولت کی گردش کا ذرخ گھست کر ناداروں سے مال داروں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے جمہور کی دولت ہست کر ایک طبقہ کے پاس اکٹھی ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ چیز آخر کار پوری سوسائٹی کے سیلے برپا دی کی موجب ہوتی ہے جیسا کہ معاشریات میں بصیرت رکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں۔ سود کے یہ تمام اثرات ناقابل انکار ہیں، اور جب یہ ناقابل انکار ہیں تو اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اسلام جس نقشے پر انسان کی اخلاقی تربیت، تمدنی شیرازہ بندی اور معاشی تنظیم کرنا چاہتا ہے اس کے ہر ہر جزء سے سود کی منافات رکھتا ہے اور سودی کار و بار کی ادائیت سے ادلت اور بقطا ہر معصوم سے مخصوص صورت بھی اس پورے نقشے کو خراب کر دیتی ہے۔ بھی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے اس قدر سخت الفاظ کے ساتھ سود کو بند کرنے کا حکم دیا کہ۔

إِنَّقُوا لَهُ دَرَرْ قَاتِلَيْقَيْرَ مِنَ السَّرِبَوَانَ كُشَّمَدْ مُؤْمِنِينَ
 فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِعَزْبَبَ قِنَّ الْلَّهُ دَرَسُولِهِ.

(البقرة: ۲۴۹)

اللہ سے ڈر اور جو سود تمہارا لوگوں پر باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے

جنگ کا اعلان قبول کر دے۔ حُرمت سود کی شدت

قرآن میں اور بھی بہت سے گناہوں کی مخالفت کا حکم آیا ہے، اور ان پر سخت و عیندہ بھی نہیں، لیکن اتنے سخت الفاظ کسی دوسرے گناہ کے پار سے میں وارد نہیں ہو سکتے۔ اسی بناء پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قلم روشن سود کو رد کرنے کے لیے سخت کوشش فرمائی۔ آپ نے نجراں کے عیسائیوں سے جو معاہدہ کیا اس میں صاف طور پر لکھ دیا کہ اگر تم سودی کا ربار کر دے گے تو معاہدہ کا عدم ہو جائے گا اور ہم کو تم سے جنگ کرنی پڑے گی۔ بنو مغیرہ کے سود خوار عرب مشہور تھے، فتح مکہ کے بعد حضورہ نے ان کی تمام سودی رقمیں باطل کر دیں اور اپنے عامل مکہ کو لکھا کہ اگر وہ باز نہ آئیں تو ان سے جنگ کر دے۔ خود حضورہ کے چھا حضرت عباس ایک بڑے چہا جن سکتے۔ صحیح الوداع میں آپ نے اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود ساقط یکے جاتے ہیں اور سب سے پہلے میں خود اپنے چھا عباس کا سود ساقط کرتا ہوں۔ آپ نے یہاں تک فرمادیا کہ سود لینے والے اور دینے والے، اور اس کی دستاویز کے کاتب، اور اس پر گواہی دینے والے سب پر اللہ کی لعنت!

ان تمام احکام کا منشاء یہ نہ تھا کہ محض سود کی ایک خاص قسم یعنی یوثری رہا جنی سوں کو بند کیا جائے اور اس کے سوا تمام اقسام کے سودوں کا در درازہ کھلا دیا ہے، بلکہ اسی سے اصل مقصد سرمایہ دارانہ اخلاقی، سرمایہ دارانہ فہمیت، سرمایہ دارانہ نظام تمدن اور سرمایہ دارانہ نظام میشست کا کلی استیصال کر کے وہ نظام قائم کرنا تھا جس میں بخل کے بجائے فیاضی ہو، خود غرضی کے بجائے ہمدردی اور امداد بارہی ہو، سود کے بجائے ذکوٰۃ ہو، بنیک کی جگہ قوی بیت المال ہو، اور وہ حالات ہی سرے سے پیش نہ آئیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ سود کا گناہ اپنی ماں کے ساتھ نہ کرنے سے متدرجہ زیادہ

جن سے مقابلہ کرنے کے لیے نظام سرمایہ داری میں کو اپر ٹاؤ سوسائٹیو انشومنس کیپنیوں اور پروپرٹی فنڈس وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے اور آخر کار اشتراکیت کا غیر فطری پروگرام اختیار کرنا پڑتا ہے۔

اب یہ ہماری اپنی حماقت ہے، اگر دری ہے، بد قسمتی ہے کہ اسلام کا یہ اخلاقی تمدنی اور معاشی نظام بالکل در ہم ہو گیا۔ سرمایہ داری ہم پر سلط ہو گئی۔ زکوٰۃ کی تحریکیں اور صحیح مصارف میں اس کو صرف کرنے کے لیے کوئی ادارہ ہم میں باقی نہ رہا۔ ہمارے مال دار خود غرض اور نفس پرست ہو گئے۔ ہمارے ناداروں کے لیے کوئی سہارا درہ۔ ہم نے اسلامی اخلاق کھو دیا اور اسکی حدود کو ایک ایک کر کے توڑا۔ الہ شراب اور بجھے اور زنا کاری میں ہم مبتلا ہوئے۔ عیش پسندی اور اسراف کی برتیبی صفات ہم میں پیدا ہو گئیں۔ فضول خرچی کے جملہ او ازم کو ہم نے اپنی ضروری باتیں داٹل کر لیا۔ سودی قرض کے بغیر ہمارے لیے شادیاں کرنا، موڑیں خریدنا، بیٹھے ہٹوانا، تزیین و آرائش اور عیش و عشرت کے سامان فراہم کرنا محال ہو گیا۔ پھر اہماد بآہی کی اسپرٹ اور عملی تسلیم ہم میں سے یکسر مفقود ہو گئی اور اس کا تجھہ یہ ہوا کہ ہمارے معاشی حالات متزلزل ہو گئے ہم میں سے ہر شخص کی زندگی کلیٹھ اپنے ہی معاشی وسائل پر منحصر ہو گئی اور وہ مجبور ہو گیا کہ اپنے مستقبل کی حفاظت کے لیے اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر سرمایہ داری کے اصولوں کی پیروی کرے۔ بنیک میں روپیہ جمع کرائے۔ انشومنس کیپنی میں بھی کوئی کوئی کو اپر ٹاؤ سوسائٹی کا روکن بنتے۔ اور بوقت ضرورت سرمایہ دار اداروں سے سود پر قرض لئے کہ اپنی حاجت رفع کرے۔ بلاشبہ آج یہ سب کچھ ہمارے لیے ناگزیر ہو گیا ہے۔ مگر کیا ان حالات کو پیدا کرنے کی ذمہ داری اسلام پر ہے؟ اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے، اور ہم ان حالات میں صرف اس وجہ سے مبتلا ہوئے کہ جس معاشی نظام کی تعلیم اسلام نے ہم کو دی تھی، اس کے ارکان میں سے ایک ایک کو ہم نے منہدم کر دالا ہے، تو کیا یہ جائز ہو گا کہ اسلامی قانون کی خلاف ورزی کر کے جس معاشی مشکلات کو ہم نے خود اپنے لیے پیدا کیا ہے ان کا حل ہم اسلام ہی کے

ایک اور قانون کی خلاف و رنہی میں تلاش کریں، اور پھر اسلام ہی سے مطالبہ کروں کہ وہ اس خلاف و رنہی قانون کی ہم کو اجازت دے دے؟ آخر ہم کو کس نے زکوٰۃ کی تنظیم سے روکا ہے؟ امداد بارہمی کی اسلامی تعلیم پر عامل ہونے سے کون ہم کو باز رکھتا ہے؟ اسلام کے قانون و راست پر عمل کرنے میں کون سڑ راہ ہے؟ سادگی پر ہرگز کاری اور کفایت شماری کی زندگی پر کمر نے میں کون سامراج ہے؟ کون ہم کو مجبور کر رہا ہے کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں اور مغربی تہذیب کے سرفائد لوازم کو اپنی ضروریاتِ زندگی میں داخل کر لیں؟ کس نے ہم کو پابند کیا ہے کہ کسب معاش کے جائز ذرائع اختیار کرنے کے بجائے، سرمایہ دار بخشے کی ہوس میں حرام خودی کے طریقے اختیار کریں؟ کس نے ہمارے مال داروں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے رشتہ داروں، ہمسایلوں، دوستوں اور اپنی قوم کی بیواؤں، تینیوں، معدودوں اور محتاجوں کی مدد کرنے سے روکا، اور بورپ، امریکہ اور چاپان کے کارخانے داروں کی طرف اپنی دولت پھینکنے پر مجبور کیا ہے؟ کس نے ہمارے متوسط اور قلیل المعاش لوگوں پر جبر کیا ہے کہ اپنی شادی اور غمی کی رسماں میں اپنی حد سے بڑھ کر خرچ کریں، امیروں کی رسماں کرنے میں اپنے معاشی رسانی سے بڑھ کر شان اور رہنمائی میں، اور اپنی فضول خرچوں کے لیے سودی قرض لیں؟ یہ سب افعال بوجم اپنے اختیار سے کردے ہیں یہ اسلام کی نگاہ میں جرائم ہیں۔ اگر آج ہم ان جرائم سے باز آ جائیں اور اسلام کے معاشی نظام کو پھر سے قائم کر لیں تو ہماری وہ تمام معاشی مشکلات دو رہ سکتی ہیں جو ہم کو ایک دوسرے جرم یعنی سود کھانے اور کھلانے کے جرم پر مجبور کر رہی ہیں۔ مگر جب ہم ان جرائم سے باز نہیں آتے تو اُس جرم کو بھی جرم بھوہی کر کریوں نہ کروں جو ان جرائم کے نتیجہ کے طور پر پیدا ہوا ہے؟ جسی شخص نے خود پاک اور طیب غذاوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ایسے مقام پر پہنچایا ہے جہاں ناپاک چیزوں کے سوا کچھ کھلنے کو نہیں ملتا اور پیٹ بھر کر نجاست کھائے اور کھلائے، مگر وہ اس نجاست کو پاک اور طیب قرار دیئے پر کریوں اصرار کرتا ہے؟

پس جیسا کہ ہم ابتداء میں لکھ آئئے ہیں سود دینے یا نہ دینے کی بحث تو ایک بعد کی

محدث ہے، اس ب سے پہلے تو آپ کو یہ طے کرنا چاہیے کہ اسلام کے معاشی نظام کی پیروی کرنی ہے یا سرمایہ داری نظام کی؟ اگر آپ پہلی صورت کو اختیار کرتے ہیں تو اس میں ہودی یعنی دین کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش۔ کیونکہ اسلامی معیشت کا سارا کار و بار ان ادارات کے بغیر چلتا ہے جو ہودی یعنی دین کرنے والے ہیں، اور یہ نظام ان لوگوں کو جرم سمجھتا ہے جو ہودی کار و بار کر کے اس کے نظام کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بر عکس اس کے اگر آپ دوسرا صورت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا سرمایہ دار اس نظمِ معیشت کو اختیار کرنا بحیثیتِ مجموعی اسلام کے خلاف ایک بخاوت ہے اور اس بخاوت کی حالت میں آپ کو اسلام کے معاشی قوانین میں سے وہ تمام قوانین توڑنے پڑیں گے جو اصول سرمایہ داری کے خلاف ہیں۔ اب آپ کی یہ خواہش کہ آپ تو انہیں اسلامی کی خلاف در تری بھی کریں، نظام سرمایہ داری کی پیروی بھی کریں اور اسلام کی نظر میں گنہ بگار بھی نہ ہوں در حقیقت یہ معنی رکھتی ہے کہ اسلام کی پیروی سچوڑ کر آپ خود اسلام کو اپنا پیرو بنانا چاہتے ہیں اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ محض آپ کو اپنے داروں میں رکھنے کی غاطر اپنے اصول بدل کر سرمایہ دارانہ نظمِ معیشت کے اصول اختیار کر لے۔

سُود کے متعلقات

ہم پہلے بیان کرچکے ہیں کہ ربود دراصل اُس قدر قسم یا فائدے کو کہتے ہیں جو قرض کے معاملہ میں ایک دائنر اس المال کے علاوہ شرط کے طور پر اپنے ملیون سے وصول کرتا ہے۔ اصطلاح شرع میں اس کو "ربا الفسیرہ" کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ ربود جو قرض کے معاملہ میں لیا اور دیا جائے۔ قرآن مجید میں اسی کو حرام کیا گیا ہے۔ اس کی حرمت پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ اس میں کبھی کسی شک و شہر نے راہ نہیں پائی۔

لیکن شریعت اسلامی کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جس چیز کو حرام کیا جاتا ہے اس کی طرف جانے کے جتنے رستے ملکن ہیں ان سب کو بند کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس کی طرف پیش قدح کی ابتداء جس مقام سے ہوتی ہے وہی روک لگادی جاتی ہے تاکہ انسان اس کے قریب بھی نہ جانے پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاعدے کو ایک لطیف مثال میں بیان فرمایا ہے۔ عرب کی اصطلاح میں ہمی اس چاہ کو کہتے ہیں جو کسی شخص نے اپنے جانوروں کے لیے مخصوص کر لی ہو اور جس میں دوسروں کے لیے اپنے جانور چڑانا منوع ہو۔ حضور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ "ہر بادشاہ کی ایک حملی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حملی اس کے وہ حدود ہیں جن سے باہر قدم نکالنے کو اس نے حرام قرار دیا ہے۔ جو جانور حملی کے ارد گرد چلتا پھرتا ہے، بعید نہیں کہ کسی وقت پورتے پورتے وہ حملی کے حدود میں بھی داخل ہو جائے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی حملی یعنی اس کے حدود کے اطراف میں پکڑ لگاتا رہتا ہے اس کے لیے ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ کہ اس کا

پاؤں پھسل جائے اور وہ حرام میں بہتلا ہو جائے۔ یہذ اجو امور حلال و حرام کے درمیان واسطہ ہیں ان سے بھی پرہیز لازم آتا ہے تاکہ تمہارا دم محفوظ رہے۔

یہی مصلحت ہے جس کو مد نظر کر کر شارع علیکم نے ہر منوع چیز کے طرف میں حرمت اور کرامت کی ایک مضبوط باڑھ لگادی ہے اور ارتکاب ممنوعات کے ذریع پر بھی ان کے قریب و بعد کے لحاظ سے سخت یا فرم پابندیاں عاید کر دی ہیں۔

سود کے مسئلہ میں ابتدائی حکم صرف یہ تھا کہ قرض کے معاملات میں جو سودی لین دین ہوتا ہے۔ وہ قطعاً حرام ہے۔ چنانچہ امامہ بن زید سے جو حدیث مردی ہے اس میں حضور مکاریہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ انما الریباني النسیۃ او فی بعض الالفاظ لا رب بالا فی النسیۃ (یعنی سود صرف قرض کے معاملات میں ہے) لیکن بعد میں آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی اس جئی کے ارد گردنڈیشیں لگانا ضروری سمجھا، تاکہ لوگ اس کے قریب بھی نہ پٹک سکیں۔ اسی قبیل سے وہ فرمان نبوی ہے جس میں سود کھانے اور کھلانے کے ساتھ سود کی دستاویز لکھنے اور اس پر گوہی دینے کو بھی حرام کیا گیا ہے۔ اور اسی قبیل سے وہ احادیث ہیں جن میں ربوا الفضل کی تحریم کا حکم دیا گیا ہے۔

له حضرت عبد اللہ بن عباس نے ابتدائیں اسی حدیث کی بناء پر یہ فتویٰ دیا تھا کہ سود صرف قرض کے معاملات میں ہے دست بدست لین دین میں نہیں ہے۔ لیکن جب بعد میں ان کو حوار اور روایات سے معلوم ہوا کہ حضور مسیح نے نقد معاملات میں بھی تفاضل کو منع فرمایا ہے تو انہوں نے اپنے پہلے قول سے روایہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ درج ابن عباس عن قوله، في الصرف و عن قوله، في المتعة۔ اسی طرح حاکم نے حیان العدوی کے طریق سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ بعد میں اپنے سابق فتویٰ پر توبیاً استغفار کی اور ہنایت سختی کے ساتھ ربوا الفضل سے منع کرنے لگے۔

ربوا الفضل کا مفہوم

ربوا الفضل اس زیادتی کو کہتے ہیں جو ایک ہی جنس کی دو چیزوں کی دستبدست یعنی دین میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ کیونکہ اس سے تراویہ نستائی کا دروازہ کھلتا ہے اور انسان میں وہ ذہنیت پر ورش پاتی ہے جس کا آخری شر و سود خواری ہے۔ چنانچہ حضور مسیح نے خود ہی اس مصلحت کو اس حدیث میں بیان فرمادیا ہے جس کو ابو سعید خدري نے بدین القاظ نقل کیا ہے کہ لَا تَبْيَغُوا
الْبَدْنَمْ بِذَرْهَمِيْنْ فَإِنَّ أَخَافَتْ عَلَيْكُمْ أَسْرِمَارَدَ السِّرْمَاسَوَالسِّرْبَا، یعنی ایک درہم کو دو درہموں کے عوض نہ فروخت کر کیونکہ تجہیز خوف ہے کہ کہیں تم سود خواری میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔

ربا الفضل کے احکام

سود کی اس قسم کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ احکام منقول ہیں۔ ان کو یہاں لفظ بلفظ نقل کیا جاتا ہے۔

عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِيتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّذَّهُبْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
وَالسِّرْبَرِ بِالسِّرْبَرِ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالثَّمْرِ بِالثَّمْرِ وَالنَّلْمُ
بِالنَّلْمِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءً بَسَوَاءً يَدَأْبِيْدَ، قَيْدًا خَتَّلَفَ
هُنَّ هُنَّ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَأْبِيْدَ.

عبدالله بن حاصبہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سو نے کامبادلہ سو نے سے اور چاندی کامبادلی سے اور گیہوں کامبادلہ سے
اوہ بخ کا بخ سے اور کھجور کا کھجور سے اور نمک کا نمک سے اس طرح
ہونا چاہیئے کہ جیسے کاتیسا اور برابر اور دست بدست ہو۔ البته اگر مختلف
اصناف کی چیزوں کا ایک دوسرے سے مبادلہ ہو تو پھر جس طرح چاہو
تپو بشر طبکہ یعنی دین دست بدست ہو جائے۔

(احمد و مسلم) وللنہائی دایں صاحب، وابی داؤد نحوہ
و فی اخْرِهٖ وَ اصْرَمْتَ أَنْ تَبِعِيْعَ الْبَرِّ وَ الشَّعِيرِ وَالشَّعِيرِ بِالْبَرِّ مِنَ اَبِيدٍ
حَكِيمَ شَشْتَانَ۔

رسندر احمد و صحیح مسلم۔ یہی حدیث نسائی اور این ماجہ اور الودا اور میں
بھی آئی ہے اور اس کے آخر میں اتنا اضافہ اور ہے) اور آپ نے ہمیں
حکم دیا کہ ہم گیہوں کا میادل رجو سے اور جو کا گیہوں سے دست بدست جس
طرح چاہیں کروں۔

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَرْبُّ الْبَرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمُمْرُّ بِالْمُمْرِ وَالْمُلْمُ
بِالْمُلْمِ مَثُلًا بِمَثْلٍ إِنَّمَا يُنْهَا زَادَ أَذًانُهُ فَقَدْ
أَذْنَى أَذْنَدُ الْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ رَبْخَارِيٌّ وَاحْمَدٌ وَمُسْلِمٌ
وَفِي لِفْظِهِ لَا تَبِعُوا الْذَّهَبَ بِالْذَّهَبِ وَلَا النُّورَ قِبَلَ النُّورِ
إِلَّا وَذُرْتَ بِبَوْزِنِ مَثُلًا بِمَثْلٍ مَوَاهٌ بِسَوَاءٍ۔ (احمد و مسلم)
ابو سعید خدراوی سمجھتے ہیں کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کا
میادل سونے سے، چاندی کا چاندی سے گیہوں کا گیہوں سے بخوبی سے
کبھور کا کبھور سے، نمک کا نمک سے جیسے کاتیسا، اور دست بدست ہوتا
چاہیئے۔ جس نے زیادہ دیا یا لیا اس نے سودی معاملہ کیا، میٹنے والا اور دینے
والا دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ رب خواری، احمد، مسلم۔ اور ایک دوسری روایت
میں ہے، سونے کو سونے کے عوض اور چاندی کو چاندی کے عوض فروخت
ہے کر و مگر ورنہ میں مساوی، جوں کا توں اور برابر سرا برابر (احمد و مسلم)
وَعَنْهُ قَالَ فَالَّذِيْلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَبِعُوا الْذَّهَبَ بِالْذَّهَبِ إِلَّا مَثُلًا بِمَثْلٍ وَلَا تُنْهِشُوا

لَعْنُهُمْ هَا يَهْلِي بِعُضِّينَ وَلَا تَبِعِّيْعُوا التَّوْرَقَ بِالسَّوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
وَلَا تَشْفُوا بِعُضْهُمْ سَاعِلِي بِعُضِّينَ وَلَا تَبِعِّيْعُوا مِنْهُمْ أَغَاثِبَأَبْحَاثِبَ

(البخاری و مسلم)

ابو سعيد خدري کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کو
سو نے کے عرض دیجو مگر جوں کاتوں۔ کوئی کسی کو زیادہ تر دے۔ اور
تر خاٹب کا تبادلہ حاضر سے کرو۔ (بخاری)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْمَسَكَنَاتِ فِي الْأَرْضِ وَالشَّعَرَاتِ وَالشَّعَرَيْرِ وَالْمُلْمَمِ
وَالْمُلْمَحِ مِثْلُهُ مِثْلٌ يَدُّا يَمِدِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ
أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَقَتْ الْكُوَافَّةُ. (مسلم)

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھر کا
مبادرہ کبھر سے، گیہوں کا گیہوں سے جو کا جو سے، اور نک کا نک سے
جوں کاتوں اور دست بدست ہونا چاہیے جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا
اس نے سودی معاملہ کیا۔ سو اس نے اس صورت کے جیسے کہ ان اشیاء
کے رنگ مختلف ہوں۔ (مسلم)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي دُقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّلَ مِنْ شَرَاءِ الْمَهْرِ بِالرَّطْبِ فَقَالَ
أَنْتَ تَقْصُّ الْمَرْطَبَ إِذَا مَيْسَ فَقَالَ ثَمَرْ فَتَهَا أَعْنَ ذَلِكَ فَرَأَاهُ
وَالسْتَّرْمَذَى وَابُودَاوِدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهٍ

سعید بن ابی دقادس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور ہیں نہ رہا
خناک خشک کبھر کا ترکبھر کے ساتھ مبادرہ کس طریقہ پر کیا جائے۔ آپ نے درافت
فرمایا کہ کبھر سوچنے کے بعد کم ہو جاتی ہے؛ سائل نے عرض کیا ہاں۔ تب آپ نے
مرے سے اس مبادرہ ہی کو منع فرمادیا۔ (مالك، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نَرْزَقُ تَهْرِالَجَمْ وَهُوَ الْخَلْطُ
مِنَ النَّمِرِ وَكُنَّا نَبِيِّمْ صَاعِدِينْ بِصَاعِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَاهِيْنْ بِصَاعِدٍ وَلَا دَرْهَمٌ بِدَارَهَمْ.

(ابخاری)

ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بالعموم اجر توں اور تنخوا ہوں
یہ مخلوط قسم کی کھجور میں ملا کرتی تھیں اور ہم دو صاع مخلوط کھجور میں دے
کر ایک صاع اچھی قسم کی کھجور میں لے لیا کرتے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ نہ دو صاع کا مقابلہ ایک صاع سے کرو اور نہ دو درہم
کا ایک درہم سے۔ (ابخاری)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ دَارَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اسْتَعْمَدَ رَجُلًا هَلِي خَيْرٍ بِرَفِيعَاءَ بِتَمِيرِ جَنِيبٍ فَقَالَ
أَكُلُّ تَمِيرَ خَيْرٍ بِرَهْكَذَا قَالَ لَا فَإِنَّهُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَا خُذْ
الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعِيْنِ وَالصَّاعِيْنِ بِالشَّلَامِ فَقَالَ
لَا تَفْعَلْ بِمَ الْجَمْعَ بِالدَّارِ إِهْمَ شُمَّ ابْرِيمَ بِالدِّارِ إِهْمَ جَنِيبًا
وَقَالَ فِي الْمُيْزَانِ مِثْلَ ذَلِيلَ۔ (ابخاری)

ابوسعید خدری اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
الله علیہ وسلم نے ایک شخص کو خبر کا تحصیل دار مقرر کر کے بھیجا وہ وہاں سے
دمال گزاری میں ہمدردہ قسم کی کھجور میں لے کر آیا۔ آنحضرت نے پوچھا کیا خبر
کی ساری کھجور میں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ اس نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، ہم
بھولی جاتی کھجور میں وصول کرتے ہیں انہیں کبھی دو صاع کے بدلے ایک
صاع کے حساب سے اور کبھی ۲ صاع کے بدلے ۲ صاع کے حساب سے
ان اچھی کھجوروں سے بدل لیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ پھر
ان مخلوط کھجوروں کو درہموں کے عوض فروخت کر دو، پھر اچھی قسم کی کھجوریں درہموں

کے عومن خرید لو۔ یہی بات آپ نے وزن کے حساب سے مبادلم کرنے کی صورت
میں بھی ارشاد فرمائی۔
(دینخاری)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لَّهُ تَعَالَى قَالَ جَاءَهُ بَلَالٌ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ
سَقَمٌ بِثُمَرٍ بَوْنِي فَقَالَ لَهُ إِشْبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ
هَذَا قَالَ حَانَةً عَنْ دَنَامَرْ وَرَدْ دُجْ فَقَعْدَتْ مِنْهُ حَمَاعَيْنِ بِعَصَامِ
فَقَالَ أَدَّهُ، عَيْنُ الرِّبَّا، عَيْنُ الرِّبَّا لَا تَغْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ
تَشْتَرِي فِيمَ الْتَّمَرِ بِبَيْعٍ اخْرُجْ شَرِّا شَرِّبَهُ۔ (دینخاری و مسلم)
ابو سعید خدري کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں برلنی بھوریں لے کر آئئے (جو بھور کی ایک بہترین قسم ہوتی ہے)، آپ نے
پوچھایا کہاں سے لے آئے؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس گھٹیا قسم کی
بھورتھی۔ میں نے وہ دو صاع دے کر یہ ایک صاع خریدی۔ فرمایا ہائیں! قطعی
سود! قطعی سود! ایسا ہر گز نہ کیا کرو۔ جب تھیں اچھی بھوریں خریدنی ہوں تو
اپنی بھوریں درہم یا کسی اور حیز کے عومن زیج رو۔ پھر اس قیمت سے اچھی بھوریں
خرید لو۔
(دینخاری و مسلم)

عَنْ فَضَالِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ إِشْتَرَى بَرْدَةً يَوْمَ خَيْرِ الْعَدْوَى
رِبَّا شَفَنِي عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرْدَلٌ فَعَصَمَتْهَا فِي وِجْدَانٍ
فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ أَشْفَنِي عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرَتْ ذَالِكَ لِلشَّبِيْهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْلَيْبَاءَ حَتَّى يُفْصَلَ۔

(مسلم،نسائی،ابوداؤد،ترمذی)

فضال بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے جنگ خیر کے موقع پر ایک جڑاڈ اور
۱۲ دینار میں خریدا۔ پھر تو میں نے اس ہار کو توڑ کر گک اور سو ٹالگ الگ کی
تو اس کے اندر ۱۲ دینار سے زیادہ کام سونا نکلا۔ میں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ

علیہ السلام کے اُسی زمانے میں درہم اور دینار خالص چاندی سونے کے ہوتے رہتی صفحہ ۴۷۵ پر

علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا آئندہ سے سونے کا جرا اور زیور سونے کے عومن نہ بیجا جائے جب تک کہ نگہ اور سونے کو انگ کا گلہ نہ کر دیا جائے۔

(مسلم، نسائی، ابو داؤد اترمذی)

عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ نَبِيُّ النَّاسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
الْفِحْشَةِ بِالْفِحْشَةِ وَالْذَّهَبِ بِالْذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسُوْلَمْ
وَأُمْرَنَكَانْ شَتَرَى الْفِحْشَةَ بِالْذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا
وَشَتَرَى الْذَّهَبَ بِالْفِحْشَةِ كَيْفَ شِئْنَا۔

(ابخاری و مسلم)

ابو بکر رہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چاندی کا چاندی سے اور سونے کا سونے سے مبادلمہ کیا جائے مگر برابری کے ساتھ نیز آپ نے فرمایا کہ چاندی کو سونے سے اور سونے کو چاندی سے جس طرح چاہو بدل سکتے ہو۔ (بخاری و مسلم)

احکام بالا کا ماحصل

ذکورہ بالا احادیث کے الفاظ اور معانی پر اور ان حالات پر جن میں یہ احادیث ارشاد ہوئی ہیں، خور کرنے سے حسب ذیل اصول اور احکام حاصل ہوتے ہیں:-

(۱) یہ ظاہر ہے کہ ایک ہی جنس کی دو چیزوں کو بدلتے کی ضرورت صرف اسی صورت میں پڑیں آتی ہے جب کہ اتحاد جنس کے باوجود ان کی توزیتیں مختلف ہوں۔ مثلاً چاول اور گیہوں کی ایک قسم اور دوسری قسم، سعدہ سونا اور گھٹیا سونا، یا معدنی نکل اور سمندری نکل وغیرہ۔ ان مختلف اقسام کی ہم جنس چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بدلتا،

(بقیہ حاشیہ محفوظ) تھے اور ان کی قیمت ان کی چاندی اور سونے ہی کے وزن کے لحاظ سے ہوتی۔ لہذا اس ترتیب میں دینار کے عومن سونا اور درہم کے عومن چاندی خریدنا بالکل یہ معنی رکھتا تھا کہ آدنی نے سونے کے عومن سونا خریدا اور چاندی کے عومن چاندی حاصل کی۔

اگرچہ بازار کے فرخ ہی کو ملحوظ رکھ کر ہو، بہر حال ان میں کمی بیشی کے ساتھ مبادلہ کرنے سے اُس ذہنیت کے پروردش پانے کا اندیشہ ہے جو بالآخر سود خواری اور ناجائز نفع اندوزی تک جا پہنچتی ہے۔ اس لیے شریعت نے قاعدہ مقرر کر دیا کہ اُن جنس اشیاء کے مبادلہ کی اگر ضرورت پیش آئے تو لازماً حسب ذیل دو شکلوں میں سے ہی کوئی ایک شکل اختیار کرنی ہوگی۔ ایک یہ کہ ان کے درمیان قدر و قیمت کا ہو متوڑ اس افرقہ ہو اسے نظر انداز کر کے برابر صراحت مبادلہ کر لیا جائے۔ دوسرا سے یہ کہ چیز کا چیز سے براہ راست مبادلہ کرنے کے بجائے ایک شخص اپنی چیز روپے کے عوض بازار کے بھاؤ پیچ دے اور دوسرے شخص سے اس کی چیز روپے کے عوض بازار کے بھاؤ فرید لے۔

(۲) جیسا کہ ابھی ہم بیان کر چکے ہیں، قدیم زمانے میں تمام سکے غالباً چاندی سونے کے ہوتے تھے اور ان کی قیمت دراصل ان کی چاندی اور ان کے سونے کی قیمت ہوتی تھی۔ اُس زمانے میں درہم کو درہم سے اور درینار کو درینار سے بدلنے کی ضرورت ایسے موقع پر پیش آتی تھی جب کہ مثلاً اگری شخص کو عراقی درہم کے عوض رومی درہم درکار ہوتے یا رومی درینار کی حاجمت ہوتی۔ ایسی ضرورتوں کے موقع پر یہودی ساہوکار اور دوسرے ناجائز کمانے والے لوگ کچھ اُسی طرح کا ناجائز منافع و صول کرتے تھے جیسا مودہ زمانے میں بیرونی سکتوں کے مبادلہ پر بیاون لی جاتی ہے، یا اندر وین ملک میں روپیہ کی ریز گاری مانگنے والوں، یادوں اور پارچے روپے کے قوت بھتائے والوں سے کچھ پیسے یا آنسے و صول کر لیے جاتے ہیں۔ یہ چیز بھی پونکہ سود خوارانہ ذہنیت ہی کی طرف لے جانے والی ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ نہ تو چاندی کا مبادلہ چاندی سے اور سونے کا مبادلہ سونے سے کمی بیشی کے ساتھ کرنا جائز ہے اور نہ ایک درہم کو درہم کے عوض بینپادرست ہے۔

(۳) اُن جنس اشیاء کے درمیان مبادلہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک چیز خام شکل میں ہو، اور دوسرے کے پاس اسی جنس سے بنی ہوئی کوئی شے ہو، اور دونوں آپس میں ان کا مبادلہ کرنا چاہیں۔ اس صورت میں دیکھا جائیگا

کہ آیا صنعت نے اس شے کی ماہیت بحال ہی تبدیل کر دی ہے۔ یا اس کے اندر صنعت کے تصرف کے باوجود ابتدائی خام صورت کی بہبیت کوئی بردافرق واقع نہیں ہوا ہے۔ پہلی صورت میں تو کمی بیشی کے ساتھ مبادله ہو سکتا ہے، لیکن دوسری صورت میں شریعت کا منشاء یہ ہے کہ یا تو سرے سے مبادله ہی نہ ہو، یا اگر ہو تو برابری کے ساتھ ہوتا کہ زیادہ ستانی کے مرض کو خذلانہ مل سکے۔ مثال کے طور پر ایک تودہ عظیم الشان تغیرات ہیں جو مردمی سے کپڑا اور لوہے سے انجن بننے کی صورت میں رونما ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ خصیف تغیرات ہیں جو سونے سے ایک پوٹری یا ایک لگن بنانے کی صورت میں ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت میں تو کوئی مضائقہ نہیں اگر ہم زیادہ مقدار میں روپی دے کر کم مقدار میں کپڑا اور بہت سے وزن کا فام لوہا دے کر تھوڑے سے وزن کا ایک انجن خرید لیں۔ لیکن دوسری صورت میں یا تو سونے کے لگن کا مبادله ہم وزن سونے ہی سے کرنا ہو گا، پھر سونے کو بازار میں بیچ کر اس کی قیمت کے لگن خریدنے پڑیں گے۔

(۲) مختلف اجناس کی چیزوں کا باہم مبادله کمی بیشی کے ساتھ ہو سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ معاملہ دست بدست ہو جائے۔ اس شرط کی وجہ یہ ہے کہ دست بدست چو لیں دین ہو گا وہ تو لامحالمہ بازار کے نرخوں ہی پر ہو گا۔ مثلاً جو شخص چاندی دے کر سونا لے گا وہ نقدر

لے یہاں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ "اس طرح تو پھر ٹنار کا سارا کاروبار بند ہو جائے گا کیونکہ اس سے سونے کی بیوی چیزوں ہم وزن سونے کے عومن فروخت کرنی ہوں گی اور وہ اپنی صنعت کی کوئی اجرت نہ لے سکے گا" یہ شبہ اس لیے غلط ہے کہ ٹنار سے دراصل ہم مبادله کا معاملہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنا سونا دے کر اس سے اپنے مطلب کی کوئی چیز بنو ستے ہیں۔ لہذا وہ اسی طرح اپنے عمل کی اجرت لینے کا حق دار ہے جس طرح ایک درزی یا ایک نان بائی۔ البتہ اگر ہم کسی زیور فروش سے سونے کا بنا ہوا کوئی زیور خریدیں تو یقیناً اسے قیمت میں زیادہ سونا دینا جائز نہ ہو گا، بلکہ ہمیں لازماً اسے چاندی یا کاغذ کے سکے ہی میں قیمت دینی ہو گی۔

سودے کی صورت میں سونے کے بالتفاہ اتنی ہی چاندی دے گا جتنی اسے بازار کے جاؤ کے لحاظ سے دینی چاہیے۔ لیکن قرض کی صورت میں کمی بیشی کا معاملہ اس اندر شہر سے غالباً نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر سود کا غبار شامل ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہ شخص آج ۸۰ تو چاندی دے کر یہ طے کرتا ہے کہ ایک چینہ بعد وہ تو چاندی کے بجائے ۶ تو ۷ سونے لے گا، اس کے پاس درحقیقت یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ایک چینہ بعد ۴۰ تو چاندی ایک تو ۷ سونے کے برابر ہو گی۔ لہذا اس نے چاندی اور سونے کے درمیان مبادلے کی اس نسبت کا جو پیشگی تعین کر لیا یہ بہر حال ایک طرح کی سود خوارانہ اور قمار بازار نہ ڈھینت کا نتیجہ ہے اور قرض یعنی واسے نے جو اسے قبول کیا تو اُس نے بھی گویا ہو اکھیلا کہ شاید ایک چینہ بعد سونے اور چاندی کی باہمی نسبت ۳۷۔۰ کے بجائے ۵۱ ہو۔ اسی بنابر شارع نے یہ قانون مقرر کیا ہے کہ مختلف اجتناس کا مبادلہ کمی بیشی کے ساتھ کرنا ہو تو وہ صرف دست بدست ہی ہو سکتا ہے۔ رہا قرض تو وہ لازماً و طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ پر ہونا چاہیے۔ یا تو چیز جتنی مقدار میں قرض دی گئی ہے وہی چیز اسی مقدار میں واپس قبول کی جائے۔ یا پھر معاملہ اجتناس اور اشیاء کی شکل میں طے کرنے کے بجائے روپے کی شکل میں طے کیا جائے۔ مثلاً یہ کہ آج نریدنے بھر سے ۸۰ روپے یا ۸۰ روپے کے گہروں قرض یعنی اور ایک چینہ بعد وہ بھر کو ۸۰ روپے یا ۸۰ روپے کے ہو داپس دے گا۔ اس قانون کو ابو داؤد کی اس روایت میں بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔

وَلَا يَأْسِ مِبْيَعِ الْذَّهَبِ بِالْفُضْلَةِ وَالْفُضْلَةُ أَكْثَرُهُمَا
مِيدُونَ بِإِيمَانِ وَأَمَانَ التَّسْيِيْةِ فَلَمَّا
وَلَا يَأْسِ مِبْيَعِ الْبَيْرِ بِالشَّعِيرِ
وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَأْمَدُونَ بِإِيمَانِ وَأَمَانَ التَّسْيِيْةِ فَلَمَّا

اور کوئی مخالفہ نہیں اگر سونے کو چاندی کے عوض بھا جائے اور چاندی زیادہ ہو بشرطیکہ معاملہ دست بدست ہو جائے۔ رہا قرض تو وہ جائز نہیں ہے۔ اور کوئی مخالفہ نہیں اگر گہروں کو یہ کے عوض بھا جائے اور جو زیادہ ہوں بشرطیکہ معاملہ دست بدست ہو جائے۔ رہا قرض تو وہ جائز نہیں ہے۔

حضرت عمرہ کا قول

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احکام محل ہیں اور معاملات کی تمام جزوی صورتوں کی ان میں تصریح نہیں ہے۔ اس لیے بہت سے جو نیات ایسے پائے جاتے ہیں جن میں شک کیا جاسکتا ہے کہ آیا وہ ربُّکی تعریف میں آتے ہیں یا نہیں۔ یہی بات ہے جس کی طرف حضرت عمرہ نے اشارہ کیا ہے کہ:-

إِنَّ أَيَّةً إِلَّا رِبِّيْمَا مِنْ أُخْرِ مَا فَرَّأَلِ مِنَ الْقُرْآنِ وَأَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَهُ لَكُمْ فَدَعُوا الرِّبَّيْبَا وَالرَّبَّيْبَيْةَ.

آیت ربُّ قرآن کی اُن آیات میں سے ہے جو آخر زمانہ میں نازل ہوئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا قبل اس کل تمام احکام ہم پر واضح فرماتے ہے اس چیز کو بھی چھوڑ دو جو یقیناً سود ہے اور اس چیز کو بھی جس میں سود کا شہر ہو۔

فقہا کے اختلافات

احکام کا یہ اجمال ہی ان اختلافات کا مبنی ہے جو سودی اجناس کے تعین، اور ان میں تحریم کی علت، اور حکم تحریم کے اجزاء میں فقہائے امت کے درمیان ہوئے ہیں۔ ایک گروہ کی راستے یہ ہے کہ ربُّ صرف اُن چھے اجناس میں ہے جن کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا ہے، یعنی ستونا، چاندی، گیہوں، بُو، خرما، اور نمکت۔ ان کے سوا دوسری تمام چیزوں میں تفاضل کے ساتھ بلا کسی قید کے ہم جس اشیاء کا لین دین ہو سکتے ہے۔ یہ مذہب تقادہ اور طاؤس اور عثمان البقی، اور ابن عقیل اور ظاہریہ کا ہے۔

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ حکم ان تمام چیزوں میں جاری ہو گا جن کا لین دین و نہن اور پیمانہ کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ یہ عمار اور امام ابو حنیفہ رم کا مذہب ہے، اور ایک روایت کی رو سے امام احمد ابن حنبل کی بھی بھی راستے ہے۔

تیسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ حکم سونے چاندی اور کھانے کی اُن چیزوں کے لیے ہے جن کا لین دین پیمانہ اور وزن کے لحاظ سے ہوتا ہے یہ سعید بن الحییب کا مذہب ہے۔

اور ایک ایک روایت اس باب میں امام شافعی اور امام احمد سے بھی منقول ہے۔
بتو تھاگر وہ کہتا ہے کہ یہ حکم مخصوص ہے اُن پیروں کے ساتھ خدا کے کام آتی
ہیں اور ذخیرہ کر کے رکھی جاتی ہیں۔ یہ امام مالک و حنفی کا مذہب ہے۔

درہم و دینار کے بارے میں امام ابوحنیفہ اور امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ
ان میں علت تحريم ان کا وزن ہے۔ اور شافعی و مالک اور ایک روایت کے مطابق امام
احمد کی رائجیہ ہے کہ قیمت اس کی علت ہے۔

ذہب کے اس اختلاف سے جزوی معاملات میں حکم تحريم کا اجزاء بھی مختلف ہو گیا
ہے۔ ایک چیز ایک ذہب ہر سے سودی جنس ہی نہیں ہے اور دوسرے
مذہب میں اس کا شمار سودی اجتناس میں نہوتا ہے۔ ایک ذہب کے نزدیک ایک
شے میں علت تحريم کچھ ہے اور دوسرے ذہب کے نزدیک کچھ اور اس سے بعض معاملات
ایک ذہب کے لحاظ سے سود کی ذہبیں آ جاتے ہیں اور دوسرے ذہب کے لحاظ سے
نہیں آتے۔ لیکن یہ تمام اختلافات اُن امور میں ہیں جو کتاب و سنت کے صریح احکام
کی رو سے ربوب کے حکم میں داخل ہیں، بلکہ ان کا تعلق صرف مشتبہات سے ہے، اور ایسے
امور سے ہے جو حلال و حرام کی درمیانی صرحد پر واقع ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان اختلافی مسائل
کو جھٹ بتا کر اُن معاملات میں شریعت کے احکام کو مشتبہ مظہر انسے کی کوشش کرے جن
کے سود ہونے پر نصوص صرسخہ وارد ہو جکی ہیں اور اس طریقہ استدلال سے رخصتوں اور
حیلوں کا ددد وازہ کھوئے، اور پھر ان دروازوں سے بھی گزر کر اُنست کو سرمایہ داری کے
راستوں پر پلنے کی ترجیب دے دے وہ خواہ اپنی جگہ نیک نیت اور خیر خواہ ہی کیوں نہ ہو،
حقیقت میں اس کا شمار ان لوگوں میں ہو گا جنہوں نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر ظن و تخیل
کی پیروی کی، خود بھی گراہ ہوئے اور درودوں کو بھی گراہ کیا۔

جانوروں کے مبادله میں تقاضل

اس سلسلہ میں یہ بابت قابل ذکر ہے کہ ہم جنس اشیاء کے مبادله میں تقاضل کی جماعت
کا ہو حکم دیا گیا ہے اس سے جانور مستثنی ہیں۔ ایک ہی جنس کے جانوروں کا مبادله ایک

دوسرے کے ساتھ تفاضل کے ساتھ کی جاسکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی
ہے اور آپ کے بعد صحابہ نے بھی کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور اور جانوروں میں قدر و
قیمت کے اختبار سے بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ مثلاً ایک عمومی قسم کا گھوڑا اور ایک
اعلیٰ نسل کا گھوڑا جو بھی میں دوڑایا جاتا ہے، یا ایک حام گٹ اور ایک اعلیٰ قسم کا گٹ، ان
کی قیمتیوں میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ ایک جانور کا تباadelہ اسی جنس کے سو جانوروں سے بھی
کیا جاسکتا ہے۔

معاشی قوانین کی تدوین جدید

اور اس کے اصول

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ زمانے کے حالات بدل چکے ہیں۔ دنیا کے ترقی اور معاشی احوال میں بہت بڑا انقلاب رونما ہوا ہے اور اس انقلاب نے مالی اور تجارتی معاملات کی صورت کچھ سے کچھ کر دی ہے۔ ایسے حالات میں وہ اجتہادی قوانین جو اسلام کے ابتدائی دو ریاض حجاز، عراق، شام اور مصر کے معاشی و ترقی حالت کو محفوظ رکھ کر حدود کیے گئے تھے، مسلمانوں کی موجودہ ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہیں۔ فقہائے کرام نے اس دور میں احکام شریعت کی جو تعبیر کی تھی وہ معاملات کی اُن صورتوں کے لیے تھی جو ان کے گرد پیش کی دنیا میں پائی جاتی تھیں۔ مگر اب ان میں سے بہت سی صورتیں باقی نہیں رہی ہیں اور بہت سی دوسری صورتیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں جو اس وقت موجود نہ تھیں۔ اس لیے بیخ و شرا اور مالیات و معاشیات کے متعلق جو قوانین ہماری فقر کی قدیم کتابوں میں پائے جاتے ہیں ان پر بہت کچھ اضافے کی اب یقیناً ضرورت ہے۔ پس اختلاف اس امر میں نہیں ہے کہ معاشی اور مالی معاملات کے لیے قانون اسلامی کی تدوین جدید ہونی چاہیئے یا نہیں۔ بلکہ اس امر میں ہے کہ تدوین کس طرز پر ہو؟

تجددیہ سے پہلے تفکر کی ضرورت

ہمارے جدت پسند حضرات نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اگر اس کا اتباع کیا جائے

اوہ ان کی اہوار کے مطابق احکام کی تدوین کی جائیے تو یہ دراصل اسلامی شریعت کے احکام کی تدوین نہ ہوگی بلکہ ان کی تحریف ہوگی، اور اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم درحقیقت اپنی معاشی زندگی میں اسلام سے مرد ہو رہے ہیں اسیلئے کو دہ طریقہ جس کی طرف یہ حضرات ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اپنے مقاصد اور نظریات اور اصول و مبادی میں اسلامی طریقہ سے کلی منافات رکھتا ہے: ان کا مقصود حضن کسب مال ہے اور اسلام کا مقصود اکل حلال۔ ان کا منتها شے مال یہ ہے کہ انسان لکھپتی اور کروڑپتی بننے، عام انسن سے کہ جائز ذرائع سے بننے یا ناجائز ذرائع سے۔ مگر اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان جو کچھ کہائے جائز طریقہ سے اور دوسروں کی حق تلفی کیجئے بغیر کہ اسے، خواہ زیادہ سے زیادہ معاشی وسائل پر قابو پایا، اور ان کے ذریعہ سے آسانش، عزت، طاقت اور نفوذ و اثر کا مالک ہو۔ خواہ یہ کامیابی اس نے کتنی ہی خود غرضی، ظلم، شقاوت، جھوٹ، فریب اور بے حیائی سے حاصل کی ہو، اس کے لیے اپنے دوسرے انسان کے نوع کے حقوق پر کتنے ہی ڈاکے کے ڈالے ہوں۔ اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے دنیا میں شر و فلان بد اخلاقی اور فواحش پھیلانے اور نوع انسانی کو مادی، اخلاقی اور روحانی بلاکت کی طرف دھکیلنے میں ذرا برابر ریخ نہ کیا ہو۔ لیکن اسلام کی نگاہ میں کامیاب وہ ہے جس نے صداقت، امانت، نیک نیتی اور دوسروں کے حقوق و مفاد کی پوری گہداشت کے ساتھ کسب معاشی کی جدوجہد کی۔ اگر اس طرح کی جدوجہد میں کروڑپتی بن گیا تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ لیکن اگر اس کو تمام عمر صرف قوت لا یہوت ہی پر زندگی بس رکنی پڑی ہو اور اسکو پہنچ کے لیے پوندر لگے کپڑاں اور رہنے کے لیے ایک ٹوٹی ہوئی سمجھو نپڑی سے زیادہ کچھ نصیب نہ ہوا ہوتا۔ بھی دہ ناکام نہیں۔ نقطہ نظر کا یہ اختلاف ان لوگوں کو اسلام کے بالکل مختلف ایک دوسرے راستہ کی طرف نے جاتا ہے جو غالباً صریح داری کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلتے کے لیے ان کو جن آسانیوں اور رخصتوں اور اباحثتوں کی ضرورت ہے وہ اسلام میں کسی طرح نہیں مل سکتیں۔ اسلام کے اصول اور احکام کو

کیجئے تا ان کر خواہ کتنا ہی بھیلا دیجئے، مگر یہ کیونکو ملکن ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ اصول اور احکام وضع ہی نہیں کیے گئے ہیں اُس کی تحریک کے لیے ان سے کوئی معاشرہ اور دستور العمل انذکر کیا جاسکے۔ پس بخش اس راستہ پر جانا چاہتا ہو اس کے لیے تو بہتر بھی ہے کہ وہ دنیا کو اور خود اپنے نفس کو دھوکہ دینا سچوڑ دے اور اچھی طرح سمجھ لے کہ سرمایہ داری کے راستہ پر چلتے کے لیے اس کو اسلام کے بجائے صرف مغربی یورپ اور امریکہ کے معashi اور مالی اصول و احکام کا اتباع کرنا پڑتا ہے۔

رسہے وہ لوگ یوں مسلمان ہیں اور مسلمان رہنا چاہتے ہیں، قرآن اور طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں اسی کا اتباع کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو ان کو ایک جدید معاشرہ احکام کی ضرورت دراصل اس لیے نہیں ہے کہ وہ نظام سرمایہ داری کے ادارات سے فائدہ اٹھاسکیں، یا ان کے لیے قانون اسلامی میں ایسی ہو لیں پس ایک جائش جن سے وہ کروڑ ہتھی تاجر، ساہبو کار اور کار خانہ دار میں سکیں، بلکہ ان کو اسی سے ایک ظاہرہ کی ضرورت صرف اسی لیے ہے کہ وہ جدید زمانے کے معاشی حالات اور مالی و تجارتی معاملات میں اپنے طرزِ عمل کو اسلام کے صحیح اصولوں پر ڈھال سکیں، اور اپنے لیے دین میں اُن طریقوں سے بچ سکیں جو خدا کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں، اور جہاں دوسری قوموں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں ان کو حقیقی مجبوریاں پیش آئیں۔ وہاں ان شخصتوں سے فائدہ اٹھاسکیں جو اسلامی شریعت کے دائرے سے میں اسی سے حالات کے لیے بھل سکتی ہیں۔ اس غرض کے لیے قانون کی تجدید بلاشبہ ضروری ہے اور علماء اسلام کا فرض ہے کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کی سعی بیش کروں۔

اسلامی قانون میں تجدیدی کی ضرورت

اسلامی قانون کوئی ساکن اور مجدد (Static) قانون نہیں ہے کہ ایک خاص زمانہ اور خاص حالات کے لیے اس کو جس صورت پر مدن کیا گیا ہو اسی صورت پر وہ ہمیشہ قائم رہے اور زمانہ اور حالات اور مقامات کے بدلتے پر بھی اس صورت میں کوئی تغیرت نہ کیا جاسکے۔ جو لوگ اس قانون کو ایسا سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ اسلامی

قانون کی روح ہی کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اسلام میں دراصل شریعت کی بنیاد حکمت اور عمل پر رکھی گئی ہے۔ تشریع (قانونی سازی) کا اصل مقصد بندگان خدا کے معاملات اور تعلقات کی تنظیم اس طور پر کرنا ہے کہ ان کے درمیان مذاہمت اور مقابلہ (competition) کے بجائے تعاون اور ہمدردانہ اشتراک عمل ہو، ایک دوسرے کے متعلق ان کے فرائض اور حقوق شیک انصاف اور توانان کے ساتھ مقرر کر دیئے جائیں، اور اجتماعی زندگی میں ہر شخص کو نہ صرف اپنی استعداد کے مطابق ترقی کرنے کے لیے اپنے موقع میں بلکہ وہ دوسروں کی شخصیت کے نشوونما میں بھی مددگار ہو، یا کم از کم ان کی ترقی میں مانع و مزاحم ہو کر موجب فساد نہیں جائے۔ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظریت انسانی اور حقائق اشیاء کے اس علم کی بناء پر چواس کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے زندگی کے ہر شعبہ میں چند ہدایات کو عملی زندگی میں نافذ کر کے ہمارے سامنے ایک نوٹ پیش کر دیا ہے۔ یہ ہدایات اگرچہ ایک خاص زمانے اور خاص حالات میں دی گئی تھیں اور ان کو ایک خاص سوسائٹی کے اندر نافذ کرایا گیا تھا، لیکن ان کے الفاظ سے، اور ان طریقوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عملی جامہ پہنانے میں اختیار فرمائے تھے، قانون کے چند ایسے ویع اور ہمہ گیر اصول نکلتے ہیں جو ہر زمانے اور ہر حالت میں انسانی سوسائٹی کی عادلات اور تنظیم کے لیے کیساں مفید اور قابل عمل ہیں۔ اسلام میں جو چیز اٹھی اور ناقابل تغیر و تبدل ہے وہ یہی اصول ہیں۔ اب یہ ہر زمانے کے مجتہدوں کا کام ہے کہ عملی زندگی میں جیسے جیسے حالات اور ہوادشت پیش آتے جائیں، ان کے لیے شریعت کے اصولوں سے احکام نکالتے چلے جائیں، اور معاملات میں ان کو اس طور پر نافذ کریں کہ شارع کا اصل مقصود پورا ہو۔ شریعت کے اصول جس طرح غیر متبادل ہیں اُس طرح وہ قوانین غیر متبادل نہیں ہیں جن کو انسانوں نے ان اصولوں سے اندر کیا ہے، کیونکہ وہ اصول خدا نے بنائے ہیں، اور یہ قوانین انسانوں نے مرتب کیے ہیں، وہ تمام ازمنہ و امکنہ اور احوال و ہوادشت کے لیے ہیں، اور یہ خاص حالات اور خاص ہوادشت کے لیے ہیں۔

تجدد پیدا کے لیے چند ضروری شرطیں

پس اسلام میں اس امر کی پوری دسعت رکھی گئی ہے کہ تغیرات احوال اور خصوصیت
توادشت کے لحاظ سے احکام میں اصول شرع کے تحت تغیر کیا جاسکے، اور جیسی جیسی
ضرورتیں پیش آتی جائیں ان کو پورا کرنے کے لیے قوانین مرتب کیے جاسکیں۔ اس معلمے
میں ہر زمانے اور ہر ملک کے مجتہدین کو اپنے زمانی اور مکانی حالات کے لحاظ سے تنبیاط
احکام اور تحریج مسائل کے پورے اختیارات حاصل ہیں اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ
کسی خاص ذریعے اہل علم کو تمام زمانوں اور تمام قوموں کے لیے وضع قانون کا چارٹر دے
کر دیروں کے اختیارات کو سلب کر دیا گیا ہو۔ یکن اس کے معنی یہی نہیں ہیں کہ ہر شخص
کو اپنے منشاء اور اپنی اہواء کے مطابق احکام کو بدل ڈالنے اور اصول کو تو ڈھونڈ کر ان
کی اٹھی سیدھی تاویلیں کرنے، اور قوانین کو شامیع کے اصل مقصد سے پھر دینے کی آزادی
حاصل ہو۔ اس کے لیے بھی ایک ضابطہ ہے اور وہ چند شرائط پر مشتمل ہے۔

پہلی شرط

فردعی قوانین مدقن کرنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے
وہ یہ ہے کہ مزاج شریعت کو اچھی طرح سمجھ دیا جائے۔ یہ ہاتھ صرف قرآن مجید کی تعلیم
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تذکرہ کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ان دنوں

لے بہاں اشارہ یہ کہہ دینا یہے جانہ ہو گا کہ اس زمانہ میں اجتہاد کا درود اور بند ہونے کی اصل وجہ
یہی ہے کہ ہماری دینی تعلیم سے قرآن اور سیرت محدثی کا مطالعہ خارج ہو گیا ہے اور اس کی وجہ
محض فقہ کے کسی ایک سسٹم کی تعلیم نے لے لی ہے، اور یہ تعلیم بھی اس طرح دی جاتی ہے کہ
ابتداء ہی سے خدا اور رسولؐ کے منصوص احکام اور آئمہ کے اجتہاد اس کے درمیان حقیقی فرقہ
امتیاز طالب علم کے پیش نظر نہیں رہتا۔ حالانکہ کوئی شخص جب تک یکجا نہ طریق پر قرآن میں بصیرت
حاصل نہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو نہیں سمجھ سکتا۔ اجتہاد کے لیے یہ چیز
ضروری ہے اور تمام عرف قہ کا بغور مطالعہ نہ کرے۔ اسلام کے مزاج اور اسلامی قانون کے اصول
کی کتنی پڑھتے رہئے ہے جیسی یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔

چیزوں پر جس شخص کی نظر و سمع اور عقیق ہوگی وہ شریعت کا مزاج شناس ہو جائے گا، اور ہر موقع پر اس کی بصیرت اس کو بتاتا ہے جی کہ مختلف طریقوں میں سے کون ساطریقہ اس شریعت کے مزاج سے مناسب رکھتا ہے، اور کس طریقہ کو اختیار کرنے سے اس کے مزاج میں بے اعتدالی پیدا ہو جائیگی۔ اس بصیرت کے ساتھ احکام میں جو تغیر و تبدل کیا جائے گا وہ نہ صرف مناسب اور معتدل ہو گا، بلکہ اپنے محل غاص میں شارع کے اصل مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اتنا بھی بجا ہو گا جتنا خود شارع کا حکم ہوتا۔ اس کی مثال میں بہت سے واقعات پیش کیے جاسکتے ہیں۔ مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حکم کہ دوران جنگ میں کسی مسلمان پر حد نہ بجارتی کی جائے، اور جنگ قادیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا ابو محجن ثقفی کو شرب خمر پر معاف کر دینا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ کہ تحطیک کے زمانہ میں کسی ساری کاماتھہ نہ کاٹا جائے۔ یہ امور اگرچہ بظاہر شارع کے صریح احکام کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، لیکن جو شخص شریعت کا مزاج دال ہے وہ جانتا ہے کہ ایسے غاص حالات میں حکم عام کے مثال کو چھوڑ دینا مقصود شارع کے عین مطابق ہے۔ اسی قبیل سے دو واقعہ ہے جو حاطب بن ابی بلتعہ کے غلاموں کے ساتھ پیش آیا۔ قبیلہ مزبرہ کے ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ حاطب کے غلاموں نے اس کا اونٹ پڑا یا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو ان کے ہاتھ کاٹے جانے کا حکم دے دیا۔ پھر فوراً ہی آپ کو تنبیہ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے ان غریبوں سے کام یا اگران کو بھجو کا مار دیا، اور اس حال کو پہنچا یا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص حرام چیز کھائے تو اس کے لیے جائز ہو جائے۔ یہ کہہ کر آپ نے ان غلاموں کو معاف کر دیا اور ان کے مالک سے اونٹ والے کو تاو ان دلوایا۔ اسی طرح تطليقات خلاصہ کے مسئلہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو حکم صادر فرمایا وہ بھی عہد رسالت کے عمل درآمد سے مختلف تھا۔ مگر پونکہ احکام میں یہ تمام تغیرات شریعت کے مزاج کو سمجھ کر کئے گئے تھے ایسے ان کو کوئی نامناسب نہیں کہہ سکتا۔ بخلاف اس کے جو تغیر اس فہم اور بصیرت کے بغیر کیا جاتا ہے وہ مزاج شرع میں بے اعتدالی پیدا کر دیتا ہے اور باعث فساد ہو جاتا ہے۔

دوسرا شرط

مزاج شریعت کو سمجھنے کے بعد دوسرا اہم شرط یہ ہے کہ زندگی کے جس شعبہ میں قانون بنانے کی ضرورت ہو اس کے متعلق شارع کے جملہ احکام پر نظر ڈالی جائے اور ان میں خود فکر کر کے یہ معلوم کیا جائے کہ ان سے شارع کا مقصد کیا ہے، شارع کس نقشہ پر اس شعبہ کی تنظیم کرنا چاہتا ہے، اسلامی زندگی کی وسیع تر ایکم میں اس شعبہ خاص کا کیا مقام ہے، اور اس مقام کی مناسبت سے اس شعبہ میں شارع نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے۔ اس چیز کو سمجھے بغیر جو قانون بنایا جائے گا، یا پچھلے قانون میں بوجزوں و اضافہ کیا جائے گا، وہ مقصود شارع کے مطابق نہ ہو گا اور اس سے قانون کا رخ اپنے مرکز سے منحرف ہو جائے گا۔ قانون اسلامی میں ظواہر احکام کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی مقاصد احکام کی ہے۔ فقیہ کا اصل کام یہی ہے کہ شارع کے مقصود اور اس کی حکمت و مصلحت پر نظر رکھے۔ بعض خاص مواقع ابیسے آتے ہیں جن میں اگر ظواہر احکام پر اجوہام حالت کو مدد نظر رکھ کر دیجئے گئے تھے، حمل کیا جائے تو اصل مقصد فوت ہو جائے۔ ابیسے وقت میں ظواہر کو چھوڑ کر اس طریق پر عمل کرنا ضروری ہے جس سے شارع کا مقصد پورا ہوتا ہو۔ قرآن مجید میں امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کی جیسی کچھ تاکید کی گئی ہے معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر بہت زور دیا ہے۔ مگر اس کے باوجود آپ نے ظالم و جابر امراء کے مقابلہ میں خروج سے منع فرمادیا کیونکہ شارع کا اصل مقصد تو فساد کو صلاح سے بدلنا ہے۔ جب کسی فعل سے اور زیادہ فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو اور صلاح کی امید نہ ہو تو اس سے احتراز بہتر ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ فتنہ تاتاوار کے زمانہ میں ایک گروہ پر ان کا گزر ہوا جو مشراب و کباب میں مشغول تھا۔ علامہ کے ساتھیوں نے ان لوگوں کو مشراب سے منع کرنا چاہا مگر علامہ نے ان کو روک دیا اور فرمایا کہ اللہ نے مشراب کو فتنہ و فساد کا دروازہ بند کرنے کے لیے حرام کیا ہے اور یہاں یہ حال ہے کہ مشراب ان ظالموں کو ایک بڑے فتنے یعنی قتل نفوس اور نہب اموال سے روک رہے ہے۔ لہذا ایسی حالت میں ان کو

شراب سے روکنا مقصود شارع کے خلاف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہوادث کی خصوصیات کے لحاظ سے احکام میں تغیرت کیا جاسکتا ہے، مگر تغیرت ایسا ہونا چاہئے جس سے شارع کا اصل مقصد پورا ہونے کے اٹھافوت ہو جائے۔

اسی طرح بعض احکام ایسے ہیں جو عام حالت کی رعایت سے غاصن الفاظ میں دیش گئے ہیں۔ اب فقیر کا کام یہ نہیں ہے کہ تغیرات والے کے باوجود انہی الفاظ کی پابندی کرے۔ بلکہ اس کو ان الفاظ سے شارع کے اصل مقصد کو سمجھنا چاہئے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے حالات کے لحاظ سے مناسب احکام وضع کرنے چاہیں۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطرہ میں ایک صاع کجور یا ایک صاع جو، یا ایک صاع کشمکش دیتے کا حکم فرمایا تھا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس وقت مدینہ میں جو صاع رائج تھا اور یہ اجتناس جن کا حضور مسیح نے ذکر کر فرمایا۔ یہی بعینہ مخصوص ہیں۔ شارع کا اصل مقصد صرف یہ ہے کہ عید کے روز ہر مستطیع شخص اتنا صدقہ دے کر اس کا ایک غیر مستطیع بھائی اس صدقہ میں اپنے بال بھتوں کے ساتھ کم اذکم عید کا زمانہ خوشی کے ساتھ گزار سکے۔ اس مقصد کو کسی دوسری صورت سے بھی پورا کیا جاسکتا ہے جو شارع کی تجویز کردہ صورت سے اقرب ہو۔

تیسرا شرط

پھر یہ بھی ضروری ہے کہ شارع کے اصول تشریع اور طرز قانون سازی کو خوب سمجھ لیا جائے تاکہ موقع و محل کے لحاظ سے احکام وضع کرنے میں اُنہی اصولوں کی پیری وی اور اُسی طرز کی تقلید کی جاسکے۔ یہ چیز اس وقت تک ماضی نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان جموعی طور پر شریعت کی ساخت اور پھر فرد افراد اس کے احکام کی خصوصیات پر خود نہ کرے۔ شارع نے کس طرح احکام میں عدل اور تو اذن قائم کیا ہے، کس کس طرح اس نے انسانی نظرت کی رعایت کی ہے، دفع مفاسد اور جلب مصالح کے لیے اس نے کیا طریقے اختیار کیے ہیں، کس ڈھنگ پر وہ انسانی معاملات کی تنظیم اور ان میں انضباط پیدا کرتا ہے، کس طریقہ سے وہ انسان کو اپنے بلند مقاصد کی طرف لے جاتا ہے اور پھر

ساختہ ساختہ اس کی فطری کمزوریوں کو ملحوظ رکھ کر اس کے راستہ میں مناسب سہولتیں بھی پیدا کرتا ہے، یہ سب امور تفکر و تدبیر کے محتاج ہیں اور ان کے لیے نصوص قرآنی کی نظری و مسنونی دلالتوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کی حکمتوں پر غور کرنا ضروری ہے جو شخص اس علم اور تفقر سے بہرہ درہ ہو وہ موقع و محل کے لحاظ سے احکام میں جزوی تغیر و تبدل بھی کر سکتا ہے اور جن معاملات کے حق میں نصوص موجود نہیں ان کے لیے خشی احکام بھی وضع کر سکتا ہے۔ کیونکہ ایسا شخص اجتہاد میں جو طریقہ اختیار کرے گا وہ اسلام کے اصول شریعہ سے مخالف نہ ہو گا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں صرف اہل کتاب سے جزوی یعنی کام کا حکم ہے۔ مگر اجتہاد سے کام لے کر صحابہ نے اس حکم کو بعض کے جو سیوں، ہندوستان کے بڑت پرستوں اور افریقہ کے بربادی باشندوں پر بھی وضع کر دیا۔ اسی طرح خلفاء راشدین نے عہد میں جب مالک فتح ہوئے تو غیر قوموں کے ساتھ بکثرت ایسے معاملات پیش آئے جن کے متعلق کتاب و سنت میں صریح احکام موجود نہ تھے۔ صحابہ کرام نے ان سے لیے خود ہی قوانین مدنون کیے اور وہ اسلامی شریعت کی اپریٹ اور اس کے اصول سے پوری مطابقت رکھتے تھے۔

چوتھی شرط

احوال اور وادیت کے جو تغیرات، احکام میں تغیر یا جدید احکام وضع کرنے کے لیے مقتضی ہوں ان کو دو حیثیتوں سے جانچنا ضروری ہے۔ ایک یہ حیثیت کہ وہ حالات بجا شے خود کس قسم کے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں اور ان کے اندر کون سی قوتوں کام کر رہی ہیں۔ دوسری یہ حیثیت کہ اسلامی قانون کے نقطہ نظر سے ان میں کس کس نوع کے تغیرات ہوئے ہیں اور ہر نوع کا تغیر احکام میں کس طرح کا تغیر چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی سود کے مسئلہ کو لیجئے جو اس وقت زیر بحث ہے معاشی قوانین کی تبدیلیں جدید کے لیے ہم کو سب سے پہلے زمانہ حال کی معاشی دنیا کا جائز، لینا جو گا ہم گہری نظر سے معاشیات، مالیات اور لین دین کے جدید طریقوں کا مطالعہ کریں گے، معاشی زندگی کے باطن میں جو قوتیں کام کر رہی ہیں ان کو سمجھیں گے۔ ان کے نظریات

اور اصول سے واقعیت حاصل کریں گے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ زمانہ سابق کی پہنچت ان معاملات میں جو تغیرات ہوئے ہیں ان کو اسلامی قانون کے نقطہ نظر سے کن اقسام پر منقسم کیا جاسکتا ہے، اور ہر قسم پر شریعت کے مزاج اور اس کے مقاصد اور اصول تشریع کی مناسبت سے کس طرح احکام جاری ہونے چاہئیں۔

جزئیات سے قطع نظر کر کے، اصول ان تغیرات کو ہم دو قسموں پر منقسم کر سکتے ہیں۔
(۱) وہ تغیرات جو درحقیقت تبدیلی احوال کے بدل جانے سے رونما ہوئے ہیں اور جو دراصل انسان کے علمی و عقلی نشووار تقاد اور خدا عن الہی کے مزید اکتفا فاست، اور

مادی اسباب وسائل کی ترقی اور حمل و نقل اور مخابرات (Communications) کی سہولتوں اور ذرائع پیداوار کی تبدیلی، اور یہی اوقاہی تعلقات کی وسعتوں کے طبیعی نتائج ہیں۔ ایسے تغیرات اسلامی قانون کے نقطہ نظر سے طبیعی اور حقیقی تغیرات ہیں۔ ان کو نہ تو مٹایا جاسکتا ہے اور نہ مٹانا مطلوب ہے، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ انکے اثر سے معاشی احوال اور مالی معاملات اور تجارتی لین دین کی جو نئی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں، ان کے لیے اصول شریعت کے تحت نئے احکام وضع کیے جائیں تاکہ ان کے بدلے ہوئے حالات میں مسلمان اپنے عمل کو ٹھیک ٹھیک اسلامی طرز پر ڈھال سکیں۔

(۲) وہ تغیرات جو دراصل تبدیلی ترقی کے فطری نتائج نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے معاشی نظام اور مالی معاملات پر ظالم سرمایہ داروں کے حادی ہو جانے کی وجہ سے رونما ہوئے ہیں۔ وہی ظالمانہ سرمایہ داری جو عہدہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی۔ اور جس کو اسلام نے مددیوں

لے یہاں سرمایہ داری کے لفظ کو ہم اُس محدود معنی میں استعمال نہیں کر رہے ہیں جس میں وہ کچھ کل اصطلاحاً استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اس وسیع معنی میں سے رہے ہیں جو سرمایہ داری کی حقیقت میں پوشیدہ ہے۔ اصطلاحی ”سرمایہ داری“ یورپ کے صنعتی انقلاب کی پیداوار ہے، مگر حقیقت سرمایہ داری ایک قدیم چیز ہے اور اپنی مختلف شکلوں میں اس وقت سے موجود جلی اگرہی ہے جب سے انسان نے اپنے تمدن و اخلاق کی رہنمائی شیطان کے حوالہ کی۔

تک مغلوب کیے رکھا تھا، اب دوبارہ معاشی دنیا پر غالب آگئی ہے، اور تمدن کے ترقی یافتہ اسباب وسائل سے کام لے کر اُس نے اپنے اپنی پڑائے نظر پر بکھر کو نہ نہیں نہیں صورتوں سے معاشی زندگی کے مختلف معاملات میں پھیلا دیا ہے۔ سرمایہ داری کے اس غلبہ سے ہو تغیرات واقع ہوئے ہیں وہ اسلامی قانون کی نگاہ میں حقیقی اور طبعی تغیرات نہیں ہیں، بلکہ جعلی تغیرات ہیں جنہیں قوت سے مٹایا جاسکتا ہے، اور جس کا مٹا دیا جانا نوع انسانی کی ظرف و بروڈ کے لیے مزدودی ہے۔ مسلمان کا اصلی فرض یہ ہے کہ اپنی پوری قوت ان کے مٹانے میں صرف کر دے اور معاشی نظام کو اسلامی اصول پر ڈھاننے کی کوشش کرے۔ سرمایہ داری کے خلاف جنگ کرنے کا فرض کیونسٹ سے پیدا کر مسلمان پر عاید ہوتا ہے۔ کیونسٹ کے سامنے شخص روٹی کا سوال ہے، اور مسلمان کے سامنے دین و اخلاق کا سوال کیونسٹ شخص صالیک (Proletareates) کی خاطر جنگ کرنا چاہتا ہے، اور مسلمان تمام نوع بشری کے حقیقی فائدے کے لیے جنگ کرتا ہے جس میں خود سرمایہ داری میں شامل ہیں۔ کیونسٹ کی جنگ خود غرضی پر مبنی ہے اور مسلمان کی جنگ للہیت پر لہذا مسلمان تو موجودہ ظالمانہ سرمایہ داری نظام سے کبھی مصالحت کر رہی نہیں سکت۔ اگر وہ مسلم ہے اور اسلام کا پابند ہے تو اس کے خدا کی طرف سے اس پر یہ فرض عاید ہوتا ہے کہ اس ظالمانہ نظام کو مٹانے کی کوشش کرے، اور اس جنگ میں جو ممکن نقصان اس کو پہنچ سکتا ہو اسے مردانہ قارب داشت کرے۔ معاشی زندگی کے اس شعبہ میں اسلام جو قانون بھی بنائے گا اس کی غرض یہ ہرگز نہ ہوگی کہ مسلمانوں کے لیے سرمایہ داری نظام میں بذب ہونے اور اس کے ادارا استیں حصہ لینے اور اس کی کامیابی کے اسباب فراہم کرنے میں سہوتیں پیدا کی جائیں، بلکہ اس کی واحد غرض یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو اور تمام دنیا کو اس گندگی سے محفوظ رکھا جائے، اور ان تمام دروازوں کو بند کیا جائے جو ظالمانہ اور ناجائز سرمایہ داری کو فرورخ دیتے ہیں۔

تحقیقات کے عام اصول

اسلامی قانون میں حالات اور ضروریات کے لحاظ سے احکام کی سختی کو فرم کر نے

کی بھی کافی گناہش رکھی گئی ہے۔ چنانچہ فقر کے اصول میں سے ایک یہ بھی ہے الضروری راست
تَبِعِيهِ الْمُحْظُورَاتِ اور أَكْثَرَهُ تَجْبِيلُ التَّشِيْبِ یعنی قرآن مجید اور احادیث نبوی میں
بھی متعدد مواقع پر شریعت کے اس قاعدے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مثلاً۔

لَا يُبَتَّلِفْ إِنَّهُ تَقْسِيْتٌ إِلَّا وَشَعَّهَا۔ (البقرة: ۲۸۶)

اللَّهُ كَسَىْ پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا۔

وَيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔

(البقرة: ۱۸۵)

اللَّهُ تمہارے ساتھ فرمی کرنا چاہتا ہے سختی نہیں کرنا چاہتا۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيَنِ مِنْ حَرَجٍ۔ (البقرة: ۲۰)

اس نے تم پر دین میں سختی نہیں کی ہے۔

وَفِي الْخَدِيْفِ:- أَحَبَّتِ الْبِرِّيْتُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْخُنُونِيَّةَ

الشَّهْفَةُ وَلَا ضَرَرُ وَلَا ضَرَارٌ فِي الْأَمْلَامِ۔

اللَّهُ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین وہ ہے

جو سیدھا سادھا اور فرم ہو۔ اسلام میں ضرر اور ضرار نہیں ہے۔

پس یہ قاعدہ اسلام میں مسلم ہے کہ جہاں مشقت اور ضرر ہو وہاں احکام میں فرمی کر دی جائے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہر خیالی اور وہی ضرورت پر شریعت کے احکام اور خدا کی مقررات کردہ حدود کو بالائے طاقی رکھ دیا جائے۔ اس کے لیے بھی چند اصول اور ضوابط ہیں جو شریعت کی تحقیقات پر غور کرنے سے با آسانی سمجھ آ سکتے ہیں:-

اوَّلَيْهِ دِيْكَعْنَا چاہِرِیَّتِ کِرْمَشَقَتِ کِسْ درجه کی ہے۔ مطلقاً ہر مشقت پر تو تکلیف، شرعی

لہ "منورتوں کی بنابر بعض ناجائز چیزوں جائز ہو جاتی ہیں" اور "جہاں شریعت کے کسی حکم پر عمل کرنے میں مشقت ہو وہاں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے۔"

رفع نہیں کی جاسکتی، ورنہ سرے سے کوئی قانون ہی باقی نہ رہے گا۔ جاڑے میں وضو کی تخلیف، گرمی میں دودھ سے کی تخلیف، سفر حج اور جہاد کی تخلیف، یقیناً یہ سب مشقت کی تعریف میں آتی ہیں، مگر یہ ایسی مشقتیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے تخلیفات ہی کو سرے سے ساقط کر دیا جائے۔ تخفیف یا استفاظ کے لیے مشقت ایسی ہوئی چاہیئے جو وجہ پر منزد ہو، مثلاً سفر کی مشکلات، مرض کی حالت، کسی ظالم کا جبر و اکراہ، تنگ دستی، کوئی غیر معمولی مصیبت، فتنہ و عاصم، یا کوئی جسمانی نقص۔ ایسے مخصوص حالات میں شریعت نے بہت سے احکام میں تخفیف احتیاط کی ہیں اور ان پر دوسری تخفیفات کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔

عنابیاً تخفیف اسی درجہ کی ہوئی چالیس بیٹھے جس درجہ کی مشقت اور مجبوری ہے، مثلاً جو شخص بیماری میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اس کے لیے یہ کہ پڑھنا جائز نہیں جسیں بیماری کے لیے رمضان میں دس روزوں کا قضا کرنا کافی ہے اس کے لیے پورے رمضان کا افطار ناجائز ہے۔ جس شخص کی جان شراب کا ایک چلوپی کریا حرام چیز کے ایک دو لمحے کھا کر پنج سکتی ہے وہ اس حقیقی ضرورت سے بڑھ کر پینے یا کھانے کا مجاز نہیں ہے۔ اسی طرح طبیب کے لیے جسم کے پوشیدہ حصوں میں سے جتنا دیکھنے کی واقعی ضرورت ہے اس سے زیادہ دیکھنے کا اس کو حق نہیں۔ اس قاعدہ کے لحاظ سے تمام تخفیفات کی مقدار مشقت اور ضرورت کی مقدار پر مقرر کی جائے گی۔

غایباً کسی ضرر کو دفع کرنے کے کوئی ایسی تدبیر اختیار نہیں کی جاسکتی جس میں اتنا ہی یا اس سے زیادہ ضرر ہو۔ بلکہ صرف ایسی تدبیر کی اجازت دی جاسکتی ہے جس کا ضرر نسبتہ خیف ہو۔ اسی کے قریب یہ قاعدہ بھی ہے کہ کسی مفسدہ سے بچنے کے لیے اس سے بڑے یا اس کے برابر کے مفسدہ میں مبتلا ہو جانا جائز نہیں۔ البتہ یہ جائز ہے کہ جب انسان دو مفسدوں میں گھر جائے اور کسی ایک میں مبتلا ہونا بالکل ناگزیر ہو تو بڑے مفسدہ کو دفع کرنے کے لیے چھوٹے مفسدہ کو اختیار کرے۔

رابعاً جلب مصلح پر دفع مفاسد مقدم ہے، شریعت کی نگاہ میں بحالیوں کے

حصوں اور مأمورات و اجابت کے اداکرنے کی بہ نسبت بڑائیوں کو دور کرنا اور حرام سے بچنا، اور فساد کو دفع کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے وہ مشقت کے موقع پر مأمورات میں جس فیاضی کے ساتھ تخفیف کرتی ہے، اتنی فیاضی متنوعات کی اجازت دینے میں نہیں برتری۔ سفر اور مرض کی حالتوں میں، نمائندہ وزرے اور دوسرے داجبات کے معاملہ میں جتنی تخفیفیں کی گئی ہیں اتنی تخفیفیں ناپاک اور حرام چیزوں کے استعمال میں نہیں کی گئیں۔ خامش، مشقت یا ضرر کے زائل ہوتے ہی تخفیف بھی ساقط ہو جاتی ہے، مثلاً بیماری رفع ہو جانے کے بعد تکمیر کی اجازت باقی نہیں رہتی۔

مسئلہ سود میں شریعت کی تخفیفات

مذکورہ بالاقواعد کو ذہن نشین کر لینے کے بعد سو درجیے کہ موجودہ حالات میں سود کے مسئلہ میں احکام شریعت کے اندر کس حد تک تخفیف کی جاسکتی ہے۔

(۱) سود لینے اور سود دینے کی نوعیت یہاں نہیں ہے۔ سود پر قرض لینے کیلئے تو انسان بعض حالات میں مجبور ہو سکتا ہے لیکن سود کھانے کے لیے دل حقیقت کوئی مجبوری پیش نہیں آسکتی۔ سود توہی لے گا جو مال دار کو ایسی کیا مجبوری پیش آسکتی ہے جس میں اس کے لیے حرام علال ہو جائے۔

(۲) سودی قرض لینے کے نیلے بھی ہر ضرورت مجبوری کی تعریف میں نہیں آتی۔ شادی بیاہ اور خوشی و غمی کی رسماں میں فضول خرچ کرنا کوئی حقیقی ضرورت نہیں ہے۔ موڑ خریدنا یا مکان بنانا کوئی واقعی مجبوری نہیں ہے۔ عیش و عشرت کے سامان فراہم کرنا، یا کار و بار کو ترقی دینے کے لیے روپیہ فراہم کرنا کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ یہ اور ایسے ہی دوسرے امور جن کو "ضرورت" اور "مجبوری" سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جن کے لیے ہمجنوں سے ہزاروں روپے قرض لیے جاتے ہیں، شریعت کی نگاہ میں ان کی قطعاً کوئی دقت نہیں اور ان اغراض کے لیے جو لوگ سود دیتے ہیں وہ سخت گناہ کار ہیں۔ شریعت اگر کسی مجبوری پر سودی قرض لینے کی اجازت دے سکتی ہے تو وہ اس قسم کی مجبوری ہے جس میں حرام علال ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی سخت مصیبہت جس میں سود پر قرض

یہ بغیر کوئی چارہ نہ ہو، جان یا حزت پر آفت آگئی ہو، یا کسی ناقابل برداشت مشقت یا ضرر کا حقیقی اندریشہ ہو۔ ایسی صورت میں ایک مجبور مسلمان کے لیے سودی قرض لینا بائز ہو گا۔ مگر وہ تمام ذی استطاعت مسلمان گناہ کار ہوں گے جنہوں نے اس مصیبت میں اپنے اس بھائی کی مدد نہ کی اور اس کو فعل حرام کے اثر کا بہ پر مجبور کر دیا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس گناہ کا و بال پوری قوم پر ہو گا، کیونکہ اس نے ذکوٰۃ و صدقات اور اوقاف کی تنظیم سے غفلت کی جس کا نتیجہ ہوا کہ اس کے افراد بے صہارا ہو گئے اور ان کے لیے اپنی ضرورتیوں کے وقت ساہبو کاروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے سوا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہتا۔

(۳) شدید مجبوری کی حالت میں بھی صرف بقدر ضرورت قرض لیا جاسکتا ہے اور لازم ہے کہ استطاعت بہم پہنچتے ہی سب سے پہلے اس سے بکدوشی حاصل کی جائے اور کیونکہ ضرورت رفع ہو جانے کے بعد سود کا ایک پیسہ دینا بھی حرام مطلق ہے۔ یہ سوال کہ آیا ضرورت شدید ہے کہ نہیں، اور اگر شدید ہے تو کس قدر ہے اور کس وقت وہ رفع ہو گئی، اس کا تعلق اس شخص کی عقل اور احساس دین داری سے ہے جو اس حالت میں مبتلا ہوا ہو۔ وہ جتنا زیادہ دین دار اور خدا ترس ہو گا، اور اس کا ایمان جتنا زیادہ قوی ہو گا، اتنا ہی نریادہ وہ اس باب میں محتاط ہو گا۔

(۴) جو لوگ تجارتی مجبوریوں کی بنا پر یا اپنے مال کی حفاظت یا موجودہ انتشار قوی کی وجہ سے اپنے مستقبل کی طلبائیت کے لیے بیکوں میں روپیرہ جمع کرائیں، یا انشورنس کپنی میں بیمه کرائیں، یا جن کو کسی قاعدہ کے تحت پر اور ڈنٹ فنڈ میں حصہ لینا پڑے، ان کے لیے لازم ہے کہ صرف اپنے راس المال ہی کو اپنا مال سمجھیں اور اس راس المال سے بھی ذھائی قی صدی سالانہ کے حساب سے ذکوٰۃ ادا کریں۔ کیونکہ اس کے بغیر وہ جمع شدہ رقم ان کے لیے ایک نجاست ہو گی، بشرطیکہ وہ خدا پرست ہوں، اور پرست نہ ہوں۔

(۵) بینک یا انشورنس کپنی یا پر اور ڈنٹ فنڈ سے مودکی جو رقم ان کے حساب میں بخلي

مزید تقویت کی وجہ، ہوگی۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس رقم کو سے کران مفلس لوگوں پر خرچ کر دیا جائے جن کی حالت قریب وہی ہے جس میں حرام کھانا انسان کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔

(۴) مالی لین دین اور تجارتی کار و بار میں جتنے منافع سود کی تعریف میں آتے ہوں، یا جن میں سود کا اشتباہ ہو، ان سب سے حتی الامکان احتراز نہ ہو تو وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو نمبر میں بیان کیا گیا ہے۔ اس معاملہ میں ایک ایمان دار مسلمان کی نظر جذبی منفعت پر نہیں بلکہ دفع مقاصد ہونی چاہیئے۔ اگر وہ خدا سے ڈرتا ہے اور اور یوم آخر پر اعتقاد رکھتا ہے تو حرام سے پھنا اور خدا کی پکڑ سے محفوظ رہنا اس کے لیے کار و بار کی ترقی اور مالی فوائد کے حصول سے زیادہ عزیز ہو ناچاہیئے۔

یہ تخفیفات صرف افراد کے لیے ہیں۔ اور بد رجہ آخر ان کو ایک قوم تک بھی اس حالت میں وسیع کیا جاسکتا ہے جبکہ کوہ غیروں کی حکوم ہو اور اپنا نظام مالیات میں خود بنانے پر قادر نہ ہو۔ لیکن آزاد و خود مختار مسلمان قوم، جو اپنے مسائل خود حل کرنے کے اختیارات رکھتی ہو، سود کے معاملہ میں کسی تخفیف کا مطابق اس وقت تک نہیں کر سکتی جبکہ یہ ثابت ہو جائے کہ سود کے بغیر مالیات اور بینکنگ اور تجارت و صنعت وغیرہ کا کوئی معاملہ ہل ہی نہیں سکتا اور اس کا کوئی بدل ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ چیز اگر علمی اور عملی حیثیت سے غلط ہو تو اور فی الواقع ایک نظام مالیات سود کے بغیر مالیات کا میابی کے ساتھ بنایا اور چلا یا جاسکتا ہو تو پھر مغربی سرمایہ داری کے طریقوں پر اصرار کیے چلے جانا بجز اس کے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ خدا سے بغاوت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔

لہ اس تحریز کو میں اس لیے بھی صحیح سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں سود غربوں کی جیب ہی سے آتا ہے، حکومت کا خزانہ ہو یا بینک، یا ان شورنش کپنی، سب کے سود کا اصل منبع غرب کی جیب ہی ہے۔

اصلاح کی عملی صورت

اب ہمیں اس سوال پر بحث کرنی ہے کہ کیا فی الواقع سود کو ساقط کر کے ایک ایسا نظام مالیات قائم کیا جاسکتا ہے جو موجودہ زمانے میں ایک ترقی پذیر معاشرے اور ریاست کی ضروریات کے لیے کافی ہو۔

چند غلط فہمیاں

اس سوال پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ بعض ایسی غلط فہمیوں کو صاف کر دیا جائے جو نہ صرف اس معاملہ میں، بلکہ عملی اصلاح کے ہر معاملہ میں لوگوں کے ذہنوں کو انجھایا کرتی ہیں۔

سب سے پہلی غلط فہمی تو وہی ہے جس کی بناء پر مذکورہ بالا سوال پیدا ہوا ہے پچھلے صفحات میں عقلی حیثیت سے بھی یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ سود ایک غلط چیز ہے اور نقلی حیثیت سے بھی اس کا ثبوت پیش کر دیا گیا ہے کہ خدا اور اس کے رسول نے ہر قسم کے سود کو حرام کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں اگر مان لی جائیں تو اس کے بعد لوگوں کا پوچھنا کہ "کی اس کے بغیر کام چل بھی سکتا ہے؟ اور کیا یہ قابلِ حمل بھی ہے؟" دوسرے الفاظ میں یہ کہنا ہے کہ خدا کی اس خدائی میں کوئی غلطی ناگزیر بھی ہے۔ اور کوئی راستی ناقابلِ حمل بھی پائی جاتی ہے۔ یہ دراصل فطرت اور اس کے نظام کے خلاف عدم اعتماد کا وسط ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم ایک ایسے فاسد نظام کائنات میں سانس لے رہے ہیں جس میں ہماری بعض حقیقی ضرورتیں غلطیوں اور بدکاریوں سے واپسہ کر دی گئی ہیں۔ اور بعض بخلاءوں کے

رو از بے جان بوجھ کر ہم پر بند کر دیتے گئے ہیں۔ یا اس سے بھی گزر کر یہ بات ہمیں اس تجربہ پہنچاتی ہے کہ فطرت خود اس قدر ٹیڑھی واقع ہوئی ہے کہ جو کچھ خود اس کے اپنے قوانین کی رو سے غلط ہے وہی اس کے نظام میں معینہ اور ضروری اور قابل عمل ہے، اور جو کچھ اس کے قوانین کی رو سے صحیح ہے وہی اس کے نظام میں غیر معینہ اور ناقابل عمل ہے۔

کیا واقعی ہماری عقل اور ہمارے علوم اور ہمارے تاریخی تجربہ بات مراج فطرت کو اسی بدگمانی کا مستحق ثابت کرتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ فطرت بگاؤ کی حانی اور بناو کی دشمن ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو ہمیں اشیاء کی صحت اور غلطی کے متعلق اپنی ساری بحثیں پسیط کر کر دینی چاہیں اور سیدھی طرح نہ ندگی سے استغفی دے دینا چاہیئے۔ کیونکہ اس کے بعد تو ہمارے لیے امید کی ایک کرن بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہتی لیکن اگر ہماری اور کائنات کی فطرت اس سوراخ کے لائق نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ انداز فکر چھوڑ دینا چاہیئے کہ «فلان چیز سے تو بڑی مگر کام اسی سے چلتا ہے» اور «فلان چیز سے تو بڑی حق مگر چلنے والی چیز نہیں ہے»۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو طریقہ بھی رواج پا جاتا ہے، انسانی معاملات اُسی سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور اس کو بدل کر کسی دوسرا سے طریقے کو راجح کرنا مشکل نظر آنے لگتا ہے۔ ہر راجح وقت طریقے کا یہی حال ہے خواہ وہ طریقہ بجائے خود صحیح ہو یا غلط۔ دشواری جو کچھ بھی ہے تغیریں ہے۔ اور سہولت کی اصل وہ رواج کے سوا کچھ نہیں۔ مگر نادان لوگ اس سے دھوکا کھا کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو غلطی راجح ہو چکی ہے انسانی معاملات بس اسی پر چل سکتے ہیں اور اس کے سواد و سر اکوئی طریقہ قابل عمل ہی نہیں ہے۔

دوسری خلط فہمی اس معاملہ میں یہ ہے کہ لوگ تغیر کی دشواری کے اصل اسباب کو نہیں سمجھتے اور خواہ تجویز تغیر کے سرپر ناقابل عمل ہونے کا الزام تھوپنے لگتے ہیں۔ آپ انسانی سی کے امکانات کا بہت ہی غلط اندازہ لگائیں گے اگر راجح وقت نظام کے خلاف کسی تجویز کو بھی ناقابل عمل سمجھیں گے۔ جس دنیا میں انفرادی ملکیتیں کی تسبیح

اور اجتماعی ملکیت کی ترویج جیسی انتہائی انقلاب انگریز تجویز تک عمل نہیں لا کر دکھادی گئی ہو وہاں یہ کہنا کہس قدر لغو ہے کہ سود کی تسبیح اور زکوٰۃ کی تنظیم جیسی معتمد تجویز میں قابل عمل نہیں ہیں۔ البته یہ صحیح ہے کہ رائجِ وقت نظام کو ہدل کر کی دوسرے نقشہ پر زندگی کی تعمیر کرنا ہر ہمدردی کے لیس کا کام نہیں ہے۔ یہ کام صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن میں دو شرطیں پائی جاتی ہوں۔

ایک یہ کہ وہ فی الحقيقة پڑانے نظام سے مخالف ہو چکے ہوں اور سچے دل سے اُس تجویز پر ایمان رکھتے ہوں جس کے مطابق نظام زندگی میں تغیر کرنا پیش نظر ہے۔

دوسرے یہ کہ اُن میں تقليدي ذہانت پائی جاتی ہو۔ وہ محض اُس وجہ سی ذہانت کے مالک نہ ہوں جو پڑانے نظام کو اس کے اامون کی طرح پلاسے جانے کے لیے کافی ہوتی ہے، بلکہ اُس درجے کی ذہانت رکھتے ہوں جو پامال را ہوں کو چھوڑ کر نئی راہ بنانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔

یہ دو شرطیں جن لوگوں میں پائی جاتی ہوں وہ کیونزم اور نازی ازم اور فاشزم جیسے سخت انقلابی مسلکوں کی تجاویز تک عمل نہیں لاسکتے ہیں۔ اور ان مشرطوں کا جن میں فقدان ہو وہ اسلام کے تجویز کیے ہوئے انتہائی معتمد تغیرات کو بھی نافذ نہیں کر سکتے۔

ایک چھوٹی سی غلط فہمی اس معاملے میں اور بھی ہے۔ تعمیری شرید اور اصلاحی تجویز کے جواب میں جب عمل کا نقشہ مانگا جاتا ہے تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک عمل کی جگہ شاید کاغذ ہے۔ حالانکہ عمل کا نذر پر نہیں زمین پر ہوا کرتا ہے۔ کاغذ پر کرنے کا اصل کام تو صرف یہ ہے کہ دلائل اور شواہد سے نظام حاضر کی غلطیاں اور اُن کی مضراتیں واضح کر دی جائیں اور ان کی جگہ جو اصلاحی تجویز میں ہم عمل میں لانا چاہتے ہیں اُن کی معقولیت ثابت کر دی جائے۔ اس کے بعد جو سائل عمل سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں کاغذ پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ لوگوں کو ایک عام نصوّر اس امر کا دیا جائے کہ پڑانے نظام کے غلط طریقوں کو کس طرح مٹایا جا سکتا ہے۔ اور ان کی جگہ

نئی تجویزیں کیونکو عمل میں لائی جاسکتی ہیں۔ رہایہ سوال کہ اس شکست و رنجیت کی تفصیلی صورت کیا ہوگی، اور اس کے جزو دی مراحل کیا ہوں گے، اور ہر مرحلے میں پیش آئنے والے مسائل کو حل کیسے کیا جائے گا، تو ان امور کو نہ تو کوئی شخص پیشگی جان سکتا ہے اور نہ ان کا کوئی جواب دسے سکتا ہے۔ اگر آپ اس امر پر مطمئن ہو چکے ہوں کہ موجودہ نظام واقعی غلط ہے اور اصلاح کی تجویز بالکل معقول ہے تو عمل کی طرف قدم اٹھائیے اور زمام کار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیجئے جو ایمان اور اجتہادی ذہانت رکھتے ہوں۔ پھر وہ عمل مشتملہ جہاں پیدا ہو گا اسی بجھہ وہ عمل ہو جائے گا۔ زین پر کرنے کا کام آخر کاغذ پر کر کے کیسے دکھایا جاسکتا ہے؟

اس توضیح کے بعد یہ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ اس باب میں جو کچھ ہم پیش کریں گے وہ غیر سودی مالیات کا کوئی تفصیلی نقشہ نہ ہو گا بلکہ اس چیز کا صرف ایک عام تصور ہو گا کہ سود کو اجتماعی مالیات سے خارج کرنے کی عملی صورت کیا ہو سکتی ہے اور وہ بڑے بڑے مسائل جو اخراج سود کا خیال کرتے ہی بادی التظر میں آدمی کے سامنے آ جاتے ہیں، کس طرح حل کیے جاسکتے ہیں۔

اصلاح کی راہ میں پہلا قدم

پہلے اب اس سود کی خرابیوں پر تو تفصیلی بحث کی گئی ہے اس سے یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ اجتماعی معیشت اور نظام مالیات میں یہ سب خرابیاں صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ قانون نے سود کو جائز کر دکھا ہے۔ ظاہر ہاتھ ہے کہ جب ایک آدمی کے لیے سود کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہ اپنے ہمسائے کو قرض حسن دیکیوں دے سے؛ اور ایک کار و باری آدمی کے ساتھ نفع و نقصان کی شرکت کیوں اختیار کرے؟ اور کیوں اور اپنی قومی ضروریات کی تحریک کے لیے مخلصانہ اعانت کا ہاتھ کیوں بڑھائے؟ اور کیوں نہ اپنا جمع کیا ہوا سرمایہ سا ہو کار کے حوالہ کر دے جس سے اس کو گھر بیٹھے ایک لگاندھا منافع ملنے کی امید ہو؟ آپ انسانی فطرت کے بڑے میلانات کو اپھرنے اور کھل کھینچنے کھلی چھٹی دے سے دینے کے بعد یہ توقع نہیں کر سکتے کہ نرے و عظ و تلقین اور اخلاقی اپیلوں

کے ذریعہ ہی سے آپ ان کے نشوونما اور نقصانات کو روک سکیں گے۔ پھر یہاں تو معاملہ صرف اس حد تک بھی محدود نہیں ہے کہ آپ نے ایک بڑے میلان کو محض کھلی جھٹی دے رکھی ہو۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ کا قانون تو اٹھا اس کا مد و مکار بننا ہوا ہے اور حکومت خود اس بڑائی پر اجتماعی مایاںت کے نظام کو پال چلا رہی ہے۔ اس عالت میں آخری کس طرح ممکن ہے کہ کسی قسم کی جزوی ترمیمات اور فردی اصلاحات سے اس کی ڈراموں کا سید باب اگر ہو سکتا ہے تو صرف اس طرح کہ سب سے پہلے اس دروازے کو بند کیا جائے جس سے خرابی آئی ہے۔

جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کوئی غیر سودی نظام مایاںت بن کر تیار ہوئے پھر سودیا تو آپ سے آپ بند ہو جائے گا، یا اس سے قانون گا بند کر دیا جائے گا، وہ درحقیقت گھوڑے کے آگے گاڑی باندھنا چاہتے ہیں۔ جب تک سودا زر و میثاق کے قانون جاری ہے، جب تک عدالتیں سُودی معاهدات کو تسلیم کر کے ان کو بیز و نافذ کر دیں، جب تک ساہو کاروبار کے پیسے یہ دروازہ گھولتا ہے کہ سُود کا لائحہ دے کر گھر گھر سے روپیہ اکٹھا کریں اور پھر آگے اسے سُود پر چلا گئیں، اس وقت تک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ غیر سُودی نظام مایاںت وجود میں آئے اور نشوونما پاسکے۔ لہذا اگر سود کی بندش اس امر پر موقوف ہے کہ پہلے ایسا کوئی مالی نظام پیل کر جوان ہوئے جو موبو دہ سودی نظام کی جگہ لے سکتا ہو، تو یقین رکھیے کہ اس طرح قیامت تک سود کے بند ہونے کی نوبت نہیں آ سکتی۔ یہ کام توجہ کبھی کرنا ہو اسی طرح کرنا پڑے گا کہ اول قدم ہی پر سُود کو از ر و میثاق کے قانون بند کر دیا جائے۔ پھر خود غیر سُودی نظام مایاںت پیدا ہو جائے گا اور ضرورت ہو ایجاد کی مان ہے، آپ سے آپ اس کے پیسے ہر گوشے میں بڑھنے اور پھیلنے کا راستہ بناتی چلی جائیگی۔ سُود نفس انسانی کی جن بُری صفات کا نتیجہ ہے، ان کی جڑیں اس قدر گہری اور ان کے تقاضے اس قدر طاقت دیں کہ ادھوری کارروائیوں اور ٹھنڈی تدبیروں سے کسی معاشرے میں اس بلا کا استیصال نہیں کیا جاسکتا، اس غرض کے پیسے تو ضروری ہے کہ وہ ساری تدبیریں عمل میں لائیں جائیں جو اسلام تجویز کرتا ہے اور اسی سرگرمی کے ساتھ اس

کے خلاف نہ رہ آزمائی کی جائے جیسی کہ اسلام چاہتا ہے۔ اسلام سودی کار و بار کی محض اخلاقی مذمت پر اکتفا نہیں کرتا۔ بلکہ ایک طرف وہ اس کو مند ہی چیزیں سے حرام قرار دے کر اس کے خلاف شدید نفرت پیدا کرتا ہے۔ دوسری طرف جہاں جہاں اسلام کا سیاسی اقتدار اور حاکم اثر و نفوذ قائم ہو دیاں وہ ملکی قانون کے ذریعے سے اس کو منوع قرار دیتا ہے، تمام سودی معاہدوں کو کالعدم تھہرا تا ہے، سود لینے اور دینے اور اس کی دستاویز لکھنے اور اس پر گواہ بننے کو قوبداری بجرم قابل دست اندازی پولیس قرار دیتا ہے، اور اگر کہیں یہ کار و بار معمولی سزاوں سے بندہ ہو تو اس کے مترجمین کو قتل اور ضبطی جائیداد تک کی سزا میں دیتا ہے۔ تیسرا طرف وہ ذکوٰۃ کو فرض قوارد دے کر اور حکومت کے ذریعے سے اس کی تحصیل و تقیم کا انتظام کر کے ایک دوسرے نظام مالیات کی داغ بیل ڈال دیتا ہے، اور ان سب تدبیروں کے ساتھ وہ تعلیم و تربیت اور دعوت و تبلیغ کے ذریعہ سے عامۃ الناس کی اصلاح بھی کرتا ہے تاکہ ان کے نفس میں وہ صفات اور رحمانات دب جائیں جو سود خواری کے وجہ ہو ستے ہیں، اور اس کے برعکس وہ صفات اور جذبات اون کے اندر نشوونما پائیں جن سے معاشرے میں ہمدرد انزو فیاضانہ تعاون کی روح جاری و ساری ہو سکے۔

انداد سود کے نتائج

جو کوئی فی الواقع سمجھدیگی دا خلاص کے ساتھ سود کا انسداد کرنا چاہتا ہو اسے یہ سب کچھ اسی طرح کرنا ہو گا۔ سود کی یہ قانونی بذریش، جب کہ اس کے ساتھ ذکوٰۃ کی تحصیل و تقیم کا اجتماعی نظام بھی ہو، مالیات کے نقطہ نظر سے تین بڑے نتائج پر منفتح ہو گی۔

(۱) اس کا اولین اور سب سے اہم نتیجہ یہ ہو گا کہ اجتماع سرمایہ کی موجودہ فساد انگیز صورت ایک صحیح اور صحت بخش صورت سے بدل جائے گی۔

موجودہ صورت میں تو سرمایہ اس طرح جمع ہوتا ہے کہ ہمارا اجتماعی نظام بخل اور جمع مال کے اُس میلان کو جو ہر انسان کے اندر طبعاً قوڑا بہت موجود ہے، اپنی مصنوعی تدبیروں سے انتہائی مبالغے کی حد تک بڑھا دیتا ہے۔ وہ اُسے خوف اور

لارچ، دو فوں ذرائع سے اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اپنی آمدی کا کم سے کم حصہ خرچ اور زیادہ سے زیادہ حصہ جمع کرے۔ وہ اسے خوف دلاتا ہے کہ جمع کر کیونکہ پورے معاشرے میں کوئی نہیں ہے جو تیرے پرے وقت پر کام آئے۔ وہ اسے لارچ دیتا ہے کہ جمع کر کیونکہ اس کا اجر تجھے مسود کی شکل میں ملے گا۔ اس دوسری تحریک کی وجہ سے معاشرے کے وہ تمام افراد جو قدرِ کفاف سے کچھ بھی زائد آمدی رکھتے ہیں، خرچ روکنے اور جمع کرنے پر مغل جلتے ہیں۔ اس کا تجھہ یہ ہوتا ہے کہ منڈیوں میں اموال تجارت کی کمیت امکانی حد سے بہت کم ہوتی ہے۔ اور آمد نیاں جتنی کم ہوتی باقی ہیں، صنعت و تجارت کی ترقی کے امکانات بھی اس کے مطابق کم اور اجتماع سرمایہ کے موقع کم تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح چند افراد کے انداختوں کا بڑھنا اجتماعی معیشت کے گھٹنے کا وجہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایسے طریقے سے اپنی پس انداز کی ہوئی رقموں میں اضافہ کرتا ہے جس سے ہزار آدمی سرے کچھ کمانے ہی کے قابل نہیں رہتے کجا کہ کچھ پس انداز کر سکیں۔

اس کے برعکس جب مسود بند کر دیا جائے گا اور زکوٰۃ کی تنظیم کر کے ریاست کی طرف سے معاشرے کے ہر فرد کو اس امر کا اطمینان بھی دلا دیا جائے گا کہ پرے وقت پر کمی کی دست گیری کا انتظام موجود ہے تو بخشنے والے اندوزی کے بغیر فطری اسباب و حرکات ختم ہو جائیں گے۔ لوگ دل کھول کر خود بھی خرچ کریں گے اور نادار افراد کو بھی زکوٰۃ کے ذریعہ سے اتنی قوتی خریداری بہم پہنچاویں گے کہ وہ خرچ کریں۔ اس سے صنعت و تجارت بڑھے گی۔ صنعت و تجارت کے بڑھنے سے روزگار بڑھے گا۔ روزگار بڑھنے سے آمد نیاں بڑھیں گی۔ ایسے ماخول میں اقل تو صنعت و تجارت کا اپنا منافع ہی اتنا بڑھ جائے گا کہ اس کا خارجی سرمایہ کی اتنی احتیاج باقی نہ رہے گی جتنی اب ہوتی ہے۔ پھر جس حد تک بھی اسے سرمایہ کی حاجت ہوگی وہ موجودہ حالت کی بہ نسبت بہت زیادہ سہولت کے ساتھ بہم پہنچ سکے گا۔ کیونکہ اس وقت پس انداز کرنے کا سلسلہ بالکل بند نہیں ہو جائے گا، جیسا کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو اپنی پیدائشی افتاد طبع کی

بنابری اندوختہ کرتے رہیں گے، اور بیشتر لوگ آدمیوں کی کثرت اور معاشرے کی عدم آسودگی کے باعث جمیوڑا بس انداز کریں گے۔ اس وقت یہ پس اندازی کسی بخل یا خوف یا لالپچ کی بنا پر نہ ہوگی، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ کمائیں گے، اسلام کی جائزگی ہوئی مدارست خرچ میں خوب دل کھوں کر خرچ کرنے کے باوجود اُن کے پاس بہت کچھ پچھ رہے گا، اس پچی ہوئی دولت کو لینے والا کوئی محتاج آدمی بھی اُن کو نہ ملے گا، اس لیے وہ اسے ڈال رکھیں گے اور بڑی اچھی شرائط پر اپنی حکومت کو، اپنے ملک کی صنعت و تجارت کو، اور ہمسایہ ملکوں تک کو سرمایہ دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔

(۲) دوسرا تیجہ یہ ہو گا کہ جمع شدہ سرمایہ ڈکٹنے کے بجائے چلنے کی طرف مائل رہے گا اور اجتماعی معیشت کی کھیتوں کو اُن کی حاجت کے مطابق اور ضرورت کے موقع پر برابر ملتا چلا جائے گا۔ موجودہ نظام میں سرمایہ کو کار و بار کی طرف جانے کے لیے تو چیز آمادہ کرتی ہے وہ سود کا لالپچ ہے، مگر یہی چیز اُس کے ڈکٹنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ کیونکہ سرمایہ اکثر اس انتظار میں شہرار ہتا ہے کہ زیادہ شرح سود ملے تو وہ کام میں لگے۔ نیز یہی چیز سرمایہ کے مزاج کو کار و بار کے مزاج سے منحر ف بھی کر دیتی ہے۔ جب کار و بار چاہتا ہے کہ سرمایہ آئے تو سرمایہ اکڑ جاتا ہے اور اپنی شرائط سخت کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جب معاملہ بر عکس ہوتا ہے تو سرمایہ کار و بار کے پیچے دوڑتا ہے اور ہمکی شرائط پر ہر اچھے بڑے کام میں لگنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب سود کا دروازہ ازروں نے قانون بند ہو جائے گا، اور تمام جمع شدہ رقموں پر الٹی زکوٰۃ ۷۲ فی صدی سالانہ کے حساب سے لگنی شروع ہوگی، تو سرمایہ کی یہ بد مزاجی ختم ہو جائے گی۔ وہ خود اس بات کا خواہش مند ہو گا کہ معقول شرائط پر جلدی سے جلدی کسی کار و بار میں لگ جائے اور شہر نے کے بجائے ہمیشہ کار و بار ہی میں لگا رہے۔

(۳) تیسرا تیجہ یہ ہو گا کہ کار و باری مالیات اور مالیات قرض کی میں بالکل الگ ہو جائیں گی۔ موجودہ نظام میں تو سرمایہ کی بہم رسائی زیادہ تر، بلکہ قریب قریب تمام قدر ہوتی ہی صرف

قرض کی صورت میں ہے۔ خواہ روپرے یعنے والا شخص یا ادارہ کسی نفع اور کام کے لیے بیا
غیر نفع اور کے لیے، اور خواہ کسی عارضی ضرورت کے لیے یا کسی طویل المدت تجویز کے
لیے، ہر صورت میں سرمایہ صرف ایک ہی شرط پر ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک مقرر شرح
مودود پر اسے قرض حاصل کیا جائے۔ لیکن جب مودود منوع ہو جائے گا تو قرض کی مصرف
غیر نفع اور اغراض کے لیے، یا جہاں تک کاروبار کا تعلق ہے، عارضی ضروریات کے
لیے مخصوص ہو جائے گی، اور اس کا انتظام قرضِ حسن کے اصول پر کرنا ہو گا۔ زیاد دوسری
اغراض، خواہ وہ صنعت و تجارت وغیرہ سے متعلق ہوں یا حکومتوں اور پبلک اداروں
کی نفع بخش تجویزوں سے متعلق، ان سب کے لیے سرمایہ کی فراہمی قرض کے لیے جائے
محفارہت (حقہ داری) (Profit sharing) کے اصول پر ہو گی۔

اب، ہم اختصار کے ساتھ بتائیں گے کہ غیر مودودی نظام مالیات میں یہ دونوں شعبے
کس طرح کام کر سکتے ہیں۔

غیر مودودی مالیات میں فراہمی قرض کی صورتیں

پہلے قرض کے شعبے کو لیجئے، کیونکہ لوگ سب سے بڑا کہ جس شکر میں مبتلا ہیں
وہ ہی ہے کہ مودود کے بند ہو جانے سے قرض ملنا بھی بند ہو جائے گا۔ لہذا پہلے ہم یہی
دکھائیں گے کہ اس ناپاک رُکاوٹ کے ذریعہ ہو جانے سے قرض کی فراہمی صرف یہی نہیں
کہ بند نہ ہو گی، بلکہ موجودہ حالت سے زیادہ آسان ہو گی اور بد رہنمائی زیادہ بہتر صورت
اختیار کر لے گی۔

شخصی حاجات کے لیے

موجودہ نظام میں شخصی حاجات کے لیے فراہمی قرض کی صرف ایک ہی صورت ہے،
اور وہ یہ ہے کہ غریب آدمی چاہیں سے، اور صاحب بجائیداد آدمی بینک سے مودودی قرض
حاصل کرے۔ دونوں صورتوں میں ہر طالب قرض کو ہر غرض کے لیے ہر مقدار میں روپرے
مل سکتا ہے اگر وہ چاہیں یا بینک کو اصل مودود کے ملتے رہنے کا اطمینان دلا سکتا ہو، قطع
نظر اس سے کہ وہ گناہ گاریوں کے لیے لینا پاہتا ہو یا فضول نزیقوں کے لیے یا حقیقی

ضرورتوں کے لیے۔ بخلاف اس کے کوئی طالب قرض کہیں سے ایک پیسہ نہیں پاسکت اگر وہ اصل دسود کے ملنے کا امینان نہ دلا سکتا ہو، چاہے اس کے گھر ایک مردہ لاش بھی بے گور و کفن کیوں نہ پڑی ہو۔ پھر موجودہ نظام میں کسی غریب کی مصیبت اور کسی امیرزادے کی آوارگی، دنوں ہی سا ہو کار کے لیے کمائی کے بہترن موقع ہیں۔ اور اس خود غریب کے ساتھ نگدلی کا یہ حال ہے کہ جو شخص سودی قرض کے جال میں پھنس چکا ہے اس کے ساتھ نہ سود کی تحصیل میں کوئی رعایت ہے نہ اصل کی بازیافت میں۔ کوئی یہ دیکھنے کے لیے دل ہی نہیں رکھتا کہ جس شخص سے ہم اصل دسود کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کہنے کے لیے مبتلا ہے۔ یہ ہی وہ آسانیاں جو موجودہ نظام شخصی حاجات میں فراہمی قرض کے لیے ہم پہنچاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اسلام غیر سودی صدقائی نظام اس چیز کا استظام کس طرح کرے گا۔

اول تو اس نظام میں فضول خرچیوں اور گناہ گاریوں کے لیے قرض کا دذوازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ وہاں سود کے لापچ میں بے جا قرض دینے والا کوئی نہ ہو گا۔ اس حالت میں قرض کا سارا لین دین آپ سے آپ صرف معقول ضروریات تک محدود ہو جائے گا اور اتنی ہی رقمیں لی اور دی جائیں گی جو مختلف انفرادی حالات میں صریح طور پر مناسب نظر آئیں گی۔

پھر وہی اس نظام میں قرض لینے والے سے کسی نوعیت کا فائدہ اٹھانا قرض دینے والے کے لیے جائز نہ ہو گا اس لیے قرضوں کی واپسی زیادہ سے زیادہ آسان ہو جائے گی کہ سامنے کم آمدی رکھنے والا بھی تھوڑی قسطیں دے کر بار قرض سے جلدی اور آسانی سے سبد و شہر سکے گا۔ جو شخص کوئی زمین یا مکان یا اور کسی قسم کی جانداری ہے، رکھنے کا اس سے کم آمدی سود میں کچھنے کے بجائے اصل میں واضح ہوگی اور اس طرح جلدی سے جلدی رقم کی آمدی سود میں کچھنے کے بجائے اصل میں واضح ہوگی اور اس طرح جلدی سے جلدی رقم قرض کی بازیافت ہو جائے گی۔ اتنی آسانیوں کے باوجود اگر شاذ و نادر کسی معاملہ میں کوئی قرض ادا ہونے سے رہ جائے گا تو بیت المال ہر آدمی کی پشت پر موجود ہو گا جو ادائیگی قرض میں اس کی مدد کرے گا۔ اور بالفرض اگر مدیوں کچھ چھوڑے بغیر مراجعت کا

تب بھی بیت المال اس کا قرض ادا کرنے کا ذمہ دار ہو گا۔ ان دعوہ سے خوش حال و ذی استطاعت لوگوں کے لیے اپنے کسی حاجت مند ہمسائے کی ضرورت کے موقع پر اسے قرض دینا اتنا مشکل اور ناگوار کام نہ رہے گا جتنا اب موجودہ نظام میں ہے۔

اس پر بھی اگر کسی بندہ خدا کو اس کے محلے یا بستی سے قرض نہ لے گا تو بیت المال کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہو گا۔ وہ جائے گا اور وہاں سے بآسانی قرض حاصل کر سکے گا۔ لیکن یہ واضح رہنا چاہیے کہ بیت المال سے استفادہ ان اغراض کے لیے آخوندی چارڈ کا رہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے شخصی حاجت میں ایک دوسرے کو قرض دینا معاشرے کے افراد کا اپنا فرض ہے اور ایک معاشرے کی صحت مندی کا معیار یہی ہے کہ اس کے افراد اپنی اس طرح کی اخلاقی فرماداری کو خود ہی محسوس اور ادا کرتے رہیں۔ اگر کسی بستی کا کوئی باشندہ اپنے ہمایوں سے قرض نہیں پاتا اور مجبور ہو کر بیت المال کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ صریحًا اس بات کی علامت ہے کہ اس بستی کی اخلاقی آب و ہوا بگڑی ہوئی ہے۔ اس لیے جس وقت اس قسم کا کوئی معاملہ بیت المال میں پہنچے گا تو وہاں صرف اُس طالب قرض کی حاجت پوری کرنے ہی پر اکتفا کیا جائے گا، بلکہ فوراً اخلاقی حفظاً صحت کے لحکے کو اس "واردات" کی اطلاع دی جائے گی اور وہ اسی وقت اُس بیانہ بستی کی طرف توجہ کرے گا جس کے باشندے اپنے ایک ہمسائے کی ضرورت کے وقت اس کے کام میں آئے۔ اس طرح کے کسی واقعہ کی اطلاع ایک صالح اخلاقی نظام میں وہی اضطراب پیدا کرے گی جو ہیچے یا طاعون کے کسی واقعہ کی اطلاع ایک ماذہ پرست نظام میں پیدا کیا کرتی ہے۔

شخصی حاجات کے لیے قرض فراہم کرنے کی ایک اور صورت بھی اسلامی نظام میں اختیار کی جاسکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تمام تجارتی کمپنیوں اور کاروباری اداروں پر اُن کے ملازموں اور مردوروں کے حکم سے کم حقوق ازدواجی قانون مقرر کیے جائیں اُن میں ایک حقیر بھی ہو کر وہ اُن کی غیر معمولی ضرورت کے واقع پر اُن کو قرض دیا کریں۔

نیز حکومت خود بھی اپنے اور پر اپنے ملازموں کا یہ حق تسلیم کرے اور اس کو قیاضی کے ساتھ ادا کرے۔ یہ معاملہ حقیقت میں صرف اخلاقی نوعیت ہی نہیں رکھتا بلکہ اس کی معاشی سیاسی اہمیت ہے۔ آپ اپنے ملازموں اور مزدوروں کے لیے غیر سودی قرض کی سہولت بہم پہنچائیں گے تو صرف ایک نیکی ہی نہیں کروں گے بلکہ ان اسباب میں سے ایک بڑے سبب کو دور کر دیں گے جو آپ کے کارکنوں کو فکر، پریشانی، خستہ حالی، جسمانی آزار اور مادی بر بادی میں مبتلا کرتے ہیں۔ ان بلااؤں سے ان کی حفاظت کیجیے۔ ان کی سہ سودگی ان کی قوتیت کا بڑھائے گی اور ان کا طینان انہیں فساد انگیز فلسفوں سے بچائے گا۔ اس کا نفع بھی کھاتے کی رو سے چاہیے کچھ نہ ہو۔ لیکن کسی کو عقل کی بنیانی میسر ہو تو وہ آسانی دیکھ سکتا ہے کہ جمیع طور پر پورے معاملے کے کے لیے نہیں بلکہ فرد ایک ایک سرمایہ دار کارخانہ دار کے لیے اور ایک ایک معاشی و سیاسی ادارے کے لیے اس کا نفع اس سودے سے بہت زیادہ قیمتی ہو گا جو آج مادہ پرست نظام میں محض احتمال نگ نظری کی بنیاد پر وصول کیا جا رہا ہے۔

کاروباری اغراض کے لیے

اس کے بعد ان قرضوں کا معاملہ لیجیے جو کاروباری لوگوں کو اپنی آئئے دن کی ضروریات کے لیے در کار رہتے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں ان مقاصد کے لیے یا تو بینکوں سے براہ راست قلیل المدت قرض ہے — (Short term loan) — حاصل کیے جاتے ہیں یا پھر ہندہ بیان — (Exchange) — بہنائی جاتی ہیں، اور

لہ یہ دہی چیز ہے جس کے لیے ہماری اسلامی فقیہین "سفاچ" کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ ہے کہ جن تاجریوں کا آپس میں بھی ایک دوسرے سے لین دین دین ہو اور بینک کے ساتھ بھی معاملہ ہو وہ نقد رقم ادا کیجیے بغیر بڑی مقدار میں ایک دوسرے سے مال قرض لے لیتے ہیں اور جہینہ، دو جہینہ، چار جہینے کے لیے فربیق ثانی کو ہندہ بیان کر دے دیتے ہیں۔ اگر فربیق ثانی اس پر مقدمت مقررہ تک انتظار کر سکتا ہو تو انتظار کرتا ہے اور وقت ربانی حاصل ہے تو پر

دونوں صورتوں میں بینک ایک ہلکی سی شرح مسودہ اس پر لگاتے ہیں۔ یہ تجارت کی ایک ایسی اہم ضرورت ہے جس کے بغیر کوئی کام آج نہیں چل سکتا۔ اس لیے جب کار و باری لوگ بندش مسودہ کا نام سنتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے جو فکر لاحق ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر روزمرہ کی ان ضروریات کے لیے قرض کیسے ملتے گا؟ اگر بینک کو مسودہ کا لالج نہ ہو تو آخر دیکھوں ہمیں قرض دے گا اور کیوں ہماری ہندیاں بھنا شے گا؟

لیکن سوال یہ ہے کہ جس بینک کے پاس تمام رقم اماشت (Deposits)

بلا سود جمع ہوں، اور جس کے پاس خود ان تاجر وں کا بھی لاکھوں روپیہ بلا سود رکھا رہتا ہو، وہ آخر کیوں نہ ان کو بلا سود قرض دے اور کیوں نہ ان کی ہندیاں بھنا شے؟ وہ اگر سیدھی طرح اس پر راضی نہ ہو گا تو تجارتی قانون کے ذریعہ سے اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنے کھاتہ داروں (Customers) کو یہ سہولت بخوبی پہنچائے۔ اُس کے فرائض میں یہ بھی شامل ہونا چاہیئے۔

درحقیقت اس کام کے لیے خود تاجر وں کی اپنی رکھواٹی کوئی رقمیں ہی کافی ہو سکتی ہیں۔ لیکن ضرورت پڑ جانے پر کوئی مضافعہ نہیں اگر بینک اپنے دوسرے سرمایہ میں سے بھی تھوڑا بہت اس غرض کے لیے استعمال کرے۔

بھر حال اصولیہ بات بالکل وجہی بھی ہے کہ جو سود لے نہیں رہا ہے وہ مسودے کیوں، اور اجتماعی معیشت کے نقطہ نظر سے یہ مفید بھی ہے کہ تاجر وں کو اپنی روزمرہ کی ضروریات کے لیے بلا سود قرض ملتا رہے۔

رہایہ سوال کہ اگر اس لین دین میں بینک کو سود نہ ملتے تو وہ اپنے مصارف کیے پورے کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب چالو کھاتوں (Current account)

(لبقہ حاشیہ صفحہ ۱۵۹ کا) آنے پر قرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دو ران مدت میں اسی کو رد پے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ اس ہندی کو اُس بینک میں داخل کر دیتا ہے جس سے دونوں فریقوں کا لین دین ہو اور اس سے رقم عاصل کر کے اپنا کام پلاٹتا ہے۔ اسی بھیز کا نام ہندی بھنا نا ہے۔

کی ساری رقمیں بینک کے پاس بلا سودہ ہیں گی تو اس کے لیے اُنہی رقموں میں سے دست گردان قرضہ بلا سودہ دینا کوئی نفعناہ دو معاملہ نہ رہے گا۔ کیوں کہ اس صورت میں حساب کتاب اور دفترداری کے جو تھوڑے بہت مصادرت بینک کو برداشت کرتے ہوں گے اُن سے کچھ زیادہ ہی فوائد وہ ان رقموں سے حاصل کر لے گا جو اس کے پاس جمع ہوں گی۔ تاہم بالفرض یہ طریقہ قابل عمل نہ ہو، تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں کہ بینک اپنی اس طرح کی خدمات کے لیے ایک ماہوار یا ششماہی فیس اپنے تمام تجارت پیشہ کھاترداروں پر عائد کر دے جو اس مد کے مصادرت پورے کرنے کے لیے کافی ہو۔ سود کی بنیت یہ فیس ان لوگوں کو زیادہ مستحکم پڑے گی اس لیے وہ بخوبی اسے گواہ کر لیں گے۔

حکومتوں کی غیر نفع آور ضروریات کے لیے

تیسرا اہم مد اُن قرضوں کی ہے جو حکومتوں کو بھی وقتنی حوالہ کے لیے، اور کبھی غیر نفع آور ملکی ضروریات کے لیے، اور کبھی جنگ کے لیے لینے ہوتے ہیں۔ فوجوں نے نظامیات میں ان سب مقاصد کے لیے روپیہ تمام تر قرض، اور وہ بھی سودی قرض کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی نظام مالیات میں یہ عین ممکن ہو گا کہ اُن حکومتوں کی طرف سے ضرورت کا اظہار ہو اور اُدھر قوم کے افراد اور ادارے خود لا کر چندوں نے کے ذمہ پر اس کے سامنے لگا دیں۔ اس لیے کہ سود کی بندش اور زکوٰۃ کی تنظیم لوگوں کو اس قدر آسودہ اور مطمئن کر دے گی کہ اپنے اندوختے (Saving) اپنی حکومت کو یوں ہی دیدیں گے میں کوئی تاثل نہ ہو گا۔ اس پر بھی اگر بقدر ضرورت روپیہ نہ ملے تو حکومت قرض مانگے گی اور لوگ دل کھول کر اسے قرض خسّ دیں گے۔ لیکن اگر اس سے بھی ضروریات پوری نہ ہو سکیں، تو اسلامی حکومت اپنا کام چلانے کے لیے حبیب ذیل طریقے اختیار کر سکتی ہے:-

(۱) زکوٰۃ و خس کی رقمیں استعمال کرے۔

(۲) تمام بینکوں سے اُن کی رقم اماشت کا ایک مخصوص حصہ جداً بطور قرض طلب کر لے جس کا اسے اتنا ہی حق پہنچتا ہے جتنا وہ افراد قوم سے لازمی فوجی خدمت۔

(Conscriptions) طلب کرنے اور لوگوں سے ان کی حمارتیں اور موڑیں اور دوسرا جیزین بزرگ حاصل کرنے (Requisition) کا حق رکھتی ہے۔

(۳) بد رجہ آخر وہ اپنی ضرورت کے مطابق نوٹ چھاپ کر بھی کام چلا سکتی ہے جو دراصل قوم ہی سے قرض لینے کی ایک دوسری صورت ہے۔ لیکن یہ مخفی ایک آخری چارہ کا رہ ہے جو بالکل تاگزیر حالات ہی میں اختیار کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس کی قباحتیں بہت زیادہ ہیں۔

بین الاقوامی ضروریات کے لیے

اپنے ہے بین الاقوامی قرضے، تو اس معاملہ میں یہ تو بالکل ظاہر ہی ہے کہ موجودہ سود خوار دنیا میں ہم قومی ضرورت کے موقع پر کہیں سے ایک پیسہ بلا سود قرض پانے کی توقع نہیں کر سکتے۔ اس پہلو میں تو ہم کو تمام تر کوشش ہی کرنی ہوگی کہ ہم بیرونی قوموں سے کوئی قرض نہ لیں، کم اذکم اس وقت تک تو ہرگز نہ لیں جب تک کہ ہم خود دوسروں کو اس امر کا نمونہ دکھانی کو ایک قوم اپنے ہمایوں کو کس طرح بلا سود قرض دے سکتی ہے۔ رہا قرض دینے کا معاملہ تو جو بحث اس سے پہلے ہم کرچکے ہیں، اس کے بعد شامگھی صاحب نظر آدمی کو بھی یہ تسلیم کرنے میں تاثل نہ ہو گا کہ اگر ایک دفعہ ہم نے ہفت کر کے اپنے ملک میں ایک صالح مالی نظام بندشی مسود اور تنظیم نہ کوئی کی بنیاد پر قائم کر دیا تو یقیناً بہت جلد ہماری مالی حالت اتنی اچھی ہو جائے گی کہ ہمیں دصرف خود باہر سے قرض لینے کی حاجت نہ ہوگی بلکہ ہم اپنے گرد پیش کی حاجت مند قوموں کو بلا سود قرض دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور جس روز ہم یہ نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے وہ دن دو یہ جدید کی تاریخ میں صرف مالی اور معاشی جیشیت ہی سے نہیں بلکہ سیاسی اور تمدنی اور اخلاقی جیشیت سے بھی انقلاب انگلیزیوں ہو گا۔ اسی وقت یہ امکان پیدا ہو جائے گا کہ ہمارا اور دوسری قوموں کا تسامم یعنی دین غیر سودی بنیاد پر ہو۔ یہ بھی ممکن ہو گا کہ دنیا کی قومیں یکے بعد دیگرے باہم اپنے معابر اس طے کرنے شروع کر دیں کہ وہ ایک دوسرے سے سود نہیں

لیں گی۔ اور بعد نہیں کہ وہ دن بھی ہم دیکھ سکیں جب میں الاقوامی رائے عام سود خوری کے خلاف بالاتفاق اسی نفرت کا اظہار کرنے لگے جس کا انہار ۱۹۵۶ء میں برٹین و دوسرے کے معاملہ پر انگلستان میں کیا گیا تھا۔ یہ محض ایک خیالی پلاٹ نہیں ہے، بلکہ فی الواقع آج ایک خیالی پلاٹ نہیں ہے، بلکہ فی الواقع آج بھی دنیا کے سوچنے والے دلخیل یہ سوچ رہے ہیں کہ میں الاقوامی قرضوں پر سود لگنے سے دنیا کی سیاست اور ریاست، دونوں پڑھائیت بُرے اثرات مترب ہوتے ہیں۔ اس طریقہ کو چھوڑ کر اگر خوش حال مالک اپنی فاضل دولت کے ذریعہ سے خستہ حال اور آفت رسیدہ مالک کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنانے کی مخلصانہ و ہمدردانہ کوشش کریں تو اس کا دوہرا فائدہ ہو گا۔ سیاسی تندی یعنی حیثیت سے میں الاقوامی بذریعہ بڑھنے کے بجائے محنت اور دوستی بڑھے گی۔ اور معاشی حیثیت ایک خستہ حال دیوالیہ مالک کا ثوں چوٹنے کی بُری بُری سبب ایک خوش حال اور مال دار مالک کے ساتھ کار و بار کرنا بدر جہازیادہ نافع ثابت ہو گا۔ یہ حکمت کی بائیں سوچنے والے سوچ رہے ہیں اور کہنے والے کہہ رہے ہیں، لیکن سادی کسر بس اس بات کی ہے کہ دنیا میں کوئی حکوم قوم ایسی ہو جو پہلے اپنے گھر سے سود خوری کو مٹا شے اور آگے بڑھ کر میں الاقوامی لیں دین سے اس لعنت کو خارج کرنے کی عملی ابتداء کر دے۔

نفع اور اغراض کے لیے سرمایہ کی بہم درستی

مالیات قرض کے بعد اب ایک نظر یہ بھی دیکھ لیجیے کہ ہمارے پیش نظر نظام میں کار و باری مالیات کیا شکل اختیار کریں گے۔ اس سلسلہ میں جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں، سود کا انسداد لوگوں کے لیے یہ دروازہ تو قطعی بند کر دے گا کہ وہ محنت اور خطرہ (Risk) دونوں چیزوں سے بچ کر اپنے سرمائے کو تحفظ اور متعین منافع کی ضمانت کے ساتھ کسی کام میں لگا سکیں۔ اور اسی طرح زکوٰۃ ان کے لیے اس دروازے کو بھی بند کر دے گی کہ وہ اپنا سرمایہ روک رکھیں اور اس پر ماہر زبان کو بیٹھ جائیں۔ مزید بڑا ایک حقیقی اسلامی حکومت کی موجودگی میں لوگوں کے لیے عیاشیوں اور

فضول خرچیوں کا دروازہ بھی کھلانہ رہے گا کہ ان کی فاضل آمد نیاں ادھر پہنچیں۔ اس کے بعد لا جمال اُن تمام لوگوں کو جو ضرورت سے زائد آمدی رکھتے ہوں تین راستوں میں سے کوئی ایک راستہ ہی اختیار کرنا پڑے گا۔

(۱) اگر وہ مزید آمدی کے طالب نہ ہوں تو اپنی بچت کو رفاقت عام کے کاموں میں صرف کریں، تو اس کی صورت یہ ہو کہ وہ خود کسی کا پیغام بردا سے وقف کریں، یا یہ ہو کہ قومی اداروں کو چند سے اور عظیم سے دیں، یا پھر یہ ہو کہ بے غرضانہ و مخلصانہ طریقہ سے اسلامی حکومت کے حوالہ کر دیں تاکہ وہ اسے امور نافعہ اور ترقیاتی عاملہ اور اصلاحِ خلق کے کاموں پر صرف کرے۔ خصوصیت کے ساتھ آخری صورت کو لازماً ترجیح دی جائے گی اگر حکومت کا نظم و نسق ایسے کارکنوں کے ہاتھوں میں ہو جی کی دیانت اور فرمادہ پر جو مالوگوں کو بھروسہ ہو۔ اس طرح اجتماعی مصالح اور ترقی و بہبود کے کاموں کے لیے حکومت کو اور دوسرے اجتماعی اداروں کو سرمائش کی یہ کثیر مقدار ہمیشہ صفت ملتی رہے گی جس کا سود یا منافع تو درکار، اصل ادارے کے لیے بھی عوامِ الناس پر سیکسوں کا کوئی باد نہ پڑے گا۔

(۲) اگر وہ مزید آمدی کے طالب تونہ ہوں، لیکن اپنی زائد از ضرورت دولت کو اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتے ہوں تو اسے بنک میں جمع کر دیں، اور بنک اس کو امانت میں رکھنے کے بجائے اپنے ذمہ قرض قرار دے۔ اس صورت میں بنک اس بات کا خاصی ہو گا کہ ان کی جمع کردہ رقم عند الطلب، یا طے شدہ وقت پر انہیں واپس کر دے۔ اور اس کے ساتھ بنک کو یہ حق ہو گا کہ قرض کی اس رقم کو کاروباریں لگائے اور اس کا منافع حاصل کرے۔ اس منافع میں سے کوئی حصہ اسے کھاتہ نہ رہ کو دینا نہ ہو گا، بلکہ وہ کلیٹری بنک کا اپنا منافع ہو گا۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی تجارت بہت بڑی حد تک اسی اسلامی اصول کی روشنی منت بھی۔ ان کی دیانت اور غیر معمولی ساکھ کی وجہ سے لوگ اپناروپی ان کے پاس حفاظت کے لیے رکھواتے تھے۔ امام صاحب اس روپے کو امانت میں رکھنے کے بجائے قرض کے طور پر لیتے اور اسے

اپنے تجارتی کاروبار میں استعمال کرتے تھے۔ ان کے سوانح نگاروں کا بیان ہے کہ ان کی وفات کے وقت جب حساب کیا گیا تو ان کی فرم میں ہر کوڑ درہ ہم کا سرمایہ اسی قاعدے کے مطابق لوگوں کی رکھواں ای، ہم کا لگا ہوا تھا۔ اسلامی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس امانت رکھوا ٹھے تو اسی اسے استعمال نہیں کر سکتا، مگر امانت صائع ہو جائے تو اس پر کوئی ضمان عائد نہیں ہوتا۔ اس کے پر عکس اگر وہی مال قرض کے طور پر دیا جائے تو مدیون اسے استعمال کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا حق دار ہے اور وقت پر قرض ادا کرنے کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ اسی قاعدے پر اب بھی بینک عمل کر سکتے ہیں۔

(۲) اور اگر وہ اپنی پس انداز رقموں کو کسی نفع اور کام لگانے کے خواہشمند ہوں تو ان کے لیے اس چیز کے حصول کا صرف ایک راستہ کھلا ہو گا۔ یہ کہ اپنی بچاؤ ہوئی رقموں کو مضاربہت یا نفع و نقصان میں متناسب شرکت کے اصول پر نفع بخش کاموں میں لگائیں، خواہ حکومت کے توسط سے، یا بینکوں کے توسط سے۔

خود لگانا چاہیں گے تو ان کو کسی کاروبار میں شرکت کی شرائط آپ طے کرنی ہوں گی جن میں از روئے قانون اس امر کا تعین ضروری ہو گا کہ فریقین کے درمیان نفع و نقصان کی تقسیم کس تناسب سے ہو گی علی ہذا القياس مشترک سرمائی کی کمپنیوں میں بھی شرکت کی صورت یہی ایک ہو گی کہ سیدھے سادھے حصے خرید لیئے جائیں۔ باذ اور ڈبنچر اور اس طرح کی دوسری چیزوں، جن کے خریدار کو کمپنی سے ایک لگی بندھی آمد فی ملتی ہے، سر سے سے موجود ہی نہ ہوں گی۔

حکومت کے توسط سے لگانا چاہیں گے تو انہیں امور نافعہ سے متعلق حکومت کی کسی ایکم میں حصہ دار بننا ہو گا۔ مثال کے طور پر فرض کیجیے کہ حکومت بر ق آبی کی کوئی تجویز عمل میں لانا چاہتی ہے۔ وہ اس کا اعلان کر کے پہاڑ کو اس میں شرکت کی دھو دے گی۔ جو اشخاص، یا ادارے یا بینک اس میں سرمایہ دیں گے وہ حکومت کے ساتھ اسکے حصہ دار بن جائیں گے اور اس کے کاروباری منافع میں سے ایک طے شدہ تناسب

کے مطابق حصہ پاس تھے رہیں گے۔ نقصان ہو گا تو اس کا بھی متناسب حصہ ان سب پر اور حکومت پر تقسیم ہو جائے گا۔ اور حکومت اس امر کی بھی حق دار ہو گی کہ ایک ترتیب کے ساتھ بتدریج لوگوں کے حصے خود خریدتی چلی جائے یہاں تک کہ چالیس ہجھا سال میں برق آئی کا وہ پورا کام خالص صرکاری بیکاری بن جائے۔

مگر موجودہ نظام کی طرح اس نظام میں بھی سب سے زیادہ قابل عمل اور مفید تیسری صورت ہی ہو گی، یعنی یہ کہ لوگ بینکوں کے توسط سے اپنا سرمایہ نفع بخش کاموں میں لگائیں۔ اس لیے ہم اس کو ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے اس امر کی صاف تصور آجائے کہ سود کو ساقط کرنے کے بعد بینکنگ کا کاروبار کس طرح پہل سکتا ہے اور نفع کے طالب لوگ اس سے کس طرح متعین ہو سکتے ہیں۔

بینکنگ کی اسلامی صورت

بینکنگ کے متعلق اس سے پہلے ہم نے ہو بحث کی ہے اس کا یہ مطلب نہ تھا اور ہو سکتا ہے کہ یہ کام سرے سے ہی غلط اور ناجائز ہے۔ دراصل بینکنگ بھی ہو جو دشہ سب کی پروپرٹی کی بہت سی چیزوں کی طرح ایک ایسی اہم مفید چیز ہے جس کو صرف ایک شیطانی عصر کی شمولیت نے گندکر کھلپے۔ اقل تر وہ بہت سی ایسی جائز خدمات انجام دیتا ہے جو موجودہ نرملنے کی تمنی زندگی اور کاروباری صنوریات کے لیے مفید بھی ہیں اور ناجائز بھی۔ خلاصہ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجننا اور ادا ایسی کا انتظام کرنا وہ بیرودی مالک سے یعنی دین کی سہولتیں ہمچنان قیمتی اشیاء کی حفاظت کرنا، اعتماد نامہ (Letter of Credit) سفری چک اور گشتوں کو ثبوت جاری کرنا، کمپنیوں کے حصوں کی فروخت کا انتظام کرنا، اور بہت سی وکیل اور خدمات (Agency services)

جنہیں تھوڑے سے کمیشن پر بینک کے پرداز کے آج ایک صورت آدمی بہت سے جمیع بھائیوں سے خلاصی پا لیتا ہے۔ یہ وہ کام ہیں جنہیں بہر حال جاری رہنا چاہئے اور ان کے لیے ایک مستقل ادارے کا ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ بات بھی بھائیوں کے خود تجارت

صنعت، اور راعیت اور ہر شعبہ تمدن و محدثت کے لیے نہایت مفید اور آج کے عالات کے لحاظ سے نہایت ضروری ہے کہ معاشرے کا فاضل سرمایہ بکھرا ہو اور ہنس کے بجائے ایک مرکزی ذخیرہ (Reservoir) میں مجتمع ہو اور وہاں سے دہ زندگی کے ہر شے کو آسانی کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ ہم پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ عام افراد کے لیے بھی اس میں بڑی سہولت ہے کہ جو تھوڑا بہت سرمایہ ان کی ضرورت سے پہنچ رہتا ہے اسے وہ کسی نفع بخش کام میں لگانے کے موقع الگ الگ بطور خود ڈھونڈتے پھر نے کے بجائے سب اس کو ایک مرکزی ذخیرے سے جمع کر دیا کریں اور وہاں ایک قابلِ اطمینان طریقے سے اجتماعی طور پر ان سب کے سرمائیے کو کام پر لگانے اور حاصل شدہ منافع کو ان پر تقسیم کرنے کا انتظام ہوتا رہے۔ ان سب پر مزید یہ کہ مستقل طور پر حالیات شعبہ فن میں ایک ایسی ہمارت اور بصیرت حاصل ہو جاتی ہے جو تاجریں، صناعوں اور اور دوسرے معاشی کارکنوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ماہرا نہ بصیرت بجائے تو دیکھنے کی ہی نہایت قیمتی چیز ہے اور بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ یہ شخص ساہو کارکی خود غرضی کا ہتھیار بن کر رہے بلکہ کارکی لوگوں کے ساتھ تعاون میں استعمال ہو۔ لیکن بینکنگ کی ان ساری خوبیوں اور منفعتوں کو جس چیز نے اُنٹ کر پورے تمدن کے لیے برائیوں اور مضرتوں سے بدل دیا ہے وہ شود نہ ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری بناۓ فاسدیہ بھی شامل ہو گئی ہے کہ شود کشش سے جو سرمایہ کچھ پہنچ کر بینکوں میں مرکب ہوتا ہے وہ عملہ چند خود غرضی سرمایہ داروں کی دولت بیکر دے جاتا ہے جسے وہ نہایت دشمنِ اجتماع طبقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ ان دو خرابیوں کو اگر دُر کر دیا جائے تو بینکنگ ایک پاکیزہ کام بھی ہو جائے گا، تمدن کے لیے موجودہ حالت کی بُنیت بعد چنان یادہ نافع بھی ہو گا، اور جب تک نہیں کہ خود ساہو کاروں کے لیے بھی شود خواری کی بُنیت یہ دو سراپا کیزہ طریقے کا رہائیہ سے تریادہ فائدہ مند ثابت ہو۔

جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انسدادِ شود کے بعد بینکوں میں سرمایہ اکٹھا ہونا ہی بند ہو

ہو جائے گا وہ غلطی پر ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب سود ملنے کی توقع ہی نہ ہوگی تو لوگ کیوں اپنی فاضل آمدیاں بینک میں رکھوائیں گے۔ حالانکہ اس وقت سود کی نہ سہی، نفع ملنے کی توقع ضرور ہوگی اور پونکہ نفع کا امکان غیر متعین اور غیر محدود ہو گا اس لیے عام شرح سود کی بُر نسبت کم نفع حاصل ہونے کا جس قدر امکان ہو گا اُسی قدر اچھا خاصازیا در نفع ملنے کا امکان بھی ہو گا۔ اس کے ساتھ بینک وہ تمام خدمات بدستور انجام دیتے رہیں گے جن کی خاطر اب لوگ بینکوں کی طرف رجوع کیا کرتے ہیں۔ لہذا یہ بالکل ایک یقینی بات ہے کہ جس مقدار میں اب سرمایہ بینکوں کے پاس آتا ہے اسی مقدار میں انسداد سود کے بعد بھی آثار ہے گا، بلکہ اس وقت پونکہ ہر طرح کے کاروبار کو زیادہ فروع حاصل ہو گا، روزگار بڑھ جائے گا اور آمدیاں بھی بڑھ جائیں گی، اس لیے ہو جو رہ مالت کی بُر نسبت کہیں بڑھ پڑھ کر فاضل آمدیاں بینکوں میں جمع ہوں گی۔

اس جمع شدہ سرمایہ کا جس قدر حصہ چالو کھاتے یا عند الطلب کھاتے ہیں ہو گا اس کو بینک کسی نفع بخش کام میں نہ لگا سکیں گے، جس طرح اب بھی نہیں سکتے ہیں، اس لیے وہ زیادہ تر دبڑے کاموں میں استعمال ہو گا۔ ایک روز مرہ کالین دین۔ دوسرے کاروباری لوگوں کو قلیل المدت قرضے بلا سود دینا، اور ہندیاں بلا سود بخانا۔

رہا سرمایا جو لمبی مدت کے لیے بینکوں میں رکھا جائے گا تو وہ لازماً دوہی قسم کا ہو گا ایک وہ جس کے مالک صرف اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے مال کو بینک قرض کے طور پر لے کر خود کاروبار میں استعمال کر سکیں گے، جیسا کہ ہم اور بیان کرچکے ہیں۔ دوسرادہ جس کے مالک اپنے مال کو بینکوں کے توسط سے کاروبار میں لگانا چاہتے ہوں۔ ان کے مال کو اماشٹ میں رکھنے کے بجائے ہر بینک کو ان کے ساتھ ایک شرکت نامہ عام طے کرتا ہو گا۔ پھر بینک سرمایہ کو اپنے دوسرے سرمایوں سمیت مختار ہتھ کے اصول پر تجارتی کاروبار میں صنعتی اسکیوں میں، زراعتی کاموں میں، اور پلک اداروں اور حکومتوں کے نفع آور کاموں میں لگا سکیں گے، اور اس سے بحیثیت مجموعی دعظیم الشان فائدے ہوں گے۔ ایک یہ کہ ساہو کار کا مفاد کاروبار کے مفاد کے ساتھ

مخدہ ہو جائے گا اس لیے کاروبار کی ضرورت کے مطابق سرمایہ اس کی پشتیبانی کرتا رہے گا اور وہ اسباب قریب ختم ہو جائیں گے جن کی بنابر موجودہ سودا فروختیا میں کساد بازاری کے ذریعے پڑا کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ساہو کار کی مالیاتی بیشتر اور کاروباری لوگوں کی تجارتی و صنعتی بصیرت بوجہ باہم نبرد آذماںی کرنی رہتی، اُس وقت ایک دوسرے کے ساتھ دستیاری اور تعاون کر سکی اور یہ سب ہی کے لیے مفید ہو گا۔ پھر جو منافع ان ذرائع سے بینکوں کو حاصل ہوں گے اُن کو وہ اپنے انتظامی مصارف نکالنے کے بعد، ایک مقرر تناسب کے مطابق اپنے حصہ داروں اور کھاتہ داروں میں تقسیم کر دیں گے۔ اس معاملہ میں فرق صرف یہ ہو گا کہ بحالت موجودہ منافع (Dividends) حصہ داروں میں تقسیم ہوتے ہیں اور کھاتہ داروں کو سمجھ دے دیا جاتا ہے۔ اُس وقت دونوں میں منافع ہی تقسیم ہوں گے۔ اب کھاتہ داروں کو ایک متعین شرح کے مطابق سمجھ دلائے گا کہ تابع ہے۔ اس وقت شرح کا تعین نہ ہو سکا بلکہ جتنے بھی منافع ہوں گے، خواہ کم ہوں یا زیاد، وہ سب ایک تناسب کے ساتھ تقسیم ہو جائیں گے۔ نقصان اور دیوالہ کا جتنا خطرہ اب ہے اُتنا ہی اُس وقت بھی ہو گا۔ اب خطرہ، اور اس کے بالمقابل غیر محدود نفع کا امکان دونوں صرف بینک کے حصہ داروں کے لیے مخصوص ہیں۔ اُس وقت یہ دونوں چیزیں کھاتہ داروں اور حصہ داروں میں مشترک ہو جائیں گی۔

روگی بینکنگ کا یہ نقصان کہ نفع کی کشش سے جو سرمایہ ان کے پاس اکٹھا ہوتا ہے اس کی مجتمع طاقت پر عملاء صرف چند ساہو کار قابض و متصرف ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کو یہ کرنا ہو گا کہ مرکزی ساہو کاری (Central Banking) کا سارا کام بیت المال یا اسٹیٹ بینک خود اپنے ہاتھ میں رکھے اور قوانین کے ذمہ دھرے تمام پرائیویٹ بینکوں پر حکومت کا اقتدار اور دخل و ضبط اس حد تک قائم کر دیا جائے کہ ساہو کار اپنی مالیاتی طاقت کا بے جا استعمال نہ کر سکیں۔

غیر سودی مالیات کا یہ بھل نقشہ جو ہم نے پیش کیا ہے، کیا اسے

دیکھنے کے بعد بھی اس شبہ کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ سود کا انسداد قابل عمل نہیں ہے؟

ضیغمہ نمبر (۱)

کیا تجارتی قرضوں پر سود جائز ہے؟

دیہ وہ مراحلت ہے جو اس مسئلے پر جواب میدیں۔ (Jacob شاہ صاحب سابق آڈیٹر جنرل حکومت پاکستان اور مصنف کے درمیان ہوتی تھی۔)

سوال ہے۔ خاکسار نے جناب کی تصنیف "سود" کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں چند سوالات پیدا ہوئے ہیں اور گویند نے کافی کاوش کی ہے تاہم ان کا تسلی بخشن جواب کہیں سے نہیں مل سکا۔ اس پے اب آپ کو تکلینہ دینے کی جرأت کرتا ہوں اور امید ہے کہ آپ اذرا و کرم میری راہنمائی فرمائیں گے۔

(۱) جناب نے اپنی کتاب کے حصہ اول (طبع سوم) کے صفحہ ۲۵ پر زمانہ جاہلیت کے "ربو" کی جو مثالیں دی ہیں ان سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ آیا اس وقت کے لوگ تجارت کے لیے قرض میلتے تھے یا نہیں۔ جہاں تک میں معلوم کر سکا ہوں، کم از کم یورپ میں قرض لئے کہ تجارت کرنا بہت بعد میں روایج میں آیا۔ اس سے پہلے تجارت بخی سرمایہ سے یا مختار کے ذریعہ ہوتی تھی۔ کیا جناب کسی ایسی مستند کتاب کا جو المعنیت فرمائیں گے جس سے معلوم ہو سکے کہ عرب میں تجارتی سود کا اس وقت روایج تھا کہ نہیں؟

(۶) اسی حصہ کے صفحہ ۱۴۹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ربُّ الفضل کی احادیث، تحریم سود کی آیت قرآن دسویں سورہ بقرہ کے نزول سے پہلے کی ہیں۔ کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا درست ہو گا کہ ربُّ الفضل قرآنی حرمت اور قرآنی وعید کا حامل نہیں؟ یا بالفاظ سر سید احمد خاں صاحب "درو حقیقت یہ معاملہ بیع فاسد کا ہے اور اسی ربُّ کی تفسیر میں داخل نہیں جس کا ذکر اس آیت میں ہے؟" امید ہے جناب والامیرؑ سے سوالات کا جواب عنایت فرمائے
منون و مشکور فرمائیں گے۔

جواب:- یہ بات کسی کتاب میں اس صراحت کے ساتھ تو نہیں لکھی گئی ہے کہ عرب جاہیت میں "تجارتی سود" راجح تھا، لیکن اس امر کا ذکر ضرور ملتا ہے کہ مدینہ کے زراعت پیشہ لوگ یہودی سرمایہ داروں سے سود پر قرض یا کرتے تھے، اور خود یہودیوں میں باہم بھی سودی لین دین ہوتا تھا۔ نیز قریش کے لوگ، بوزیادہ تر تجارت پیشہ کرتے، سود پر قرض لیتے دیتے تھے۔ قرض کی ضرورت لازماً صرف نادر اکدیوں ہی کو اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیش نہیں آتی، بلکہ زراعت پیشہ افراد کو اپنے ترعی کاموں کے لیے اور سوداگر لوگوں کو اپنے کاروبار کے لیے بھی پیش آتی ہے، اور یہ آج کوئی نئی صورت نہیں ہے بلکہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اسی چیز نے رفتہ رفتہ ترقی کر کے وہ شکل اختیار کی ہے جو زمانہ جدید میں پائی جاتی ہے۔ قدیم صورت زیادہ تر انفرادی لین دین تک محدود تھی، جدید صورت میں فرق صرف یہ ہو گیا کہ بڑے چیزوں پر قرض سے سرمایہ اکٹھا کرنے اور اسے کاروبار میں لگانے کا طریقہ راجح ہو گیا۔

ربُّ الفضل کی احادیث سورہ بقرہ والی آیت حرمت سود سے تو پہلے کی ہیں، مگر سورہ آل عمران والی آیت کے بعد کی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نے قرآن کا یہ منشاء واضح کر دیا تھا کہ سود ایک بڑائی ہے جس کو بالآخر مٹانا پیش نظر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے لیے ماخول تیار کرنے کی خاطر معاشی معاملات میں

وہ اصلاحات فرمائی تھیں جن کے لیے ربُّ الفضل کا عنوان تجویز کیا گیا ہے۔ ان احادیث میں صاف طور پر لفظ ربُّ استعمال ہوا ہے۔ اور مانعوت کے الفاظ خود اس کی حرمت پر دلالت کرتے ہیں۔ البتری صحیح ہے کہ قرآن میں جس سوود کی حرمت کا حکم دیا گیا ہے وہ قرض و الامسود ہے نہ کو دست پرست لین دین والا سود۔ اور فقہاء نے یہ تصریح بھی کی ہے کہ ربُّ الفضل بعینہ وہ ربُّ نہیں ہے جو قرآن میں حرام کیا گیا ہے، بلکہ یہ دراصل سوود کا سد باب کرنے کے لیے ایک پیش بندی ہے جسے فقہی اصطلاح میں "سد باب ذریعہ کہا جاتا ہے۔"

سوال: (۲) جناب نے جس تفصیل سے میرے سوالات کا جواب
خایت فرمایا ہے اس سے میری اس قدر حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ میں جناب
کو دوبارہ تکلیف دیتے کی جرأت کر رہا ہوں۔

قرآن کریم میں جس قدر سخت و حیدر بوس کے متعلق آئے ہیں شاید کسی اور گناہ کے لیے نہیں آئے۔ اس لیے میرے خیال ناقص میں علمائے کرام کو چاہیے کہ اس مسئلے میں قیاس سے کام نہیں اور جب تک سود کی کسی قسم کے متعلق ان کو یقین نہ ہو جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامے میں اُس قسم کا سود عام طور پر لوگوں میں منتادل تھا اس کو "الربو"
کی تعریف میں شامل نہ کریں۔ جناب کے خط سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب والانے تجارتی سوود کے روایت کی موجودگی کا قیاس مندرجہ ذیل وجوہات کی بنابر فرمایا ہے:-

(۱) مدینہ کے زراعت پیشہ لوگ یہودی سرمایہ داروں سے سود پر قرض لیا کرتے تھے۔ میں با ادب عرض کروں گا کہ اسی سے قرض "تجارتی قرض" نہ کہلاتے چاہئیں۔ اس قسم کے قرض نادار اور حاجت مندوگ لیا کرتے ہیں۔ نہ راعیت کے لیے "تجارتی قرض" نہ مانو جدید کی ایجاد ہے۔ جب سے بڑے پیمانے پر زراعت اور اس کے لیے مشیری کا استعمال شروع ہوا

زمینداروں کو "تجارتی قرض" لینے کی ضرورت ہوتی۔ زمانہ قدیم کے زراعت پیشہ وگوں کے قرض مجبوری کے قرض ہوا کرتے تھے۔ اور ضروریات زندگی پورا کرنے کی غرض سے لیے جاتے تھے

(ii) خود یہودیوں میں باہم بھی سودی لین دین ہوتا تھا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے قرض تجارتی کاموں کے لیے ہوتے تھے۔ عرب کے یہود اکثر زراعت پیشہ تھے یا ساہو کار۔ جیسا کہ یورپ میں عرصہ تک ہوتا رہا مکن ہے کہ عرب کے یہودی ساہو کار بھی غریب اور امیر دونوں قسم کے حاجت مندوں کو ان کی نجی ضروریات کے لیے روپیہ قرض دے کر اپنا چلاتے رہے ہوں۔

(iii) قریش کے لوگ یوزیادہ تر تجارت پیشہ تھے باہم سود پر قرض لیتے دیتے تھے۔ اس کے متعلق عرض ہے کہ قریش میں سود کی جو مثالیں میری نظر سے گزدی ہیں ان سے اس بات کی وضاحت نہیں ہوتی کہ متعدد روپیہ تجارت کے لیے قرض لیا گیا تھا۔ اگر جناب کے مطالعہ میں کوئی ایسی مثال آئی ہو تو ہر بانی فرمائے مطلع فرمادیں۔ تجارت ان دنوں یا نجی سرمایہ سے یا مضاربہ سے ہوتی تھی۔ جو تجارتی "کار و ان" قریش بھیجتے تھے ان میں سب لوگ حصہ لے سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دینار اور نصف دینار تک بھی حصہ لیا جاسکتا تھا۔ بظاہر اس طریقے کی تجارت کے لیے روپیہ قرض لینے کی حاجت نہ ہوئی پاہیئے۔

جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں تجارتی سود یورپ میں بہت بعد میں آیا اور پانچویں اور دسویں صدی عیسوی کے درمیان اس کا درج رواج نہ تھا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عرب کی بھی بھی حالت ہو۔ لیکن یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عرب میں تجارتی سود کے رواج کی موجودگی کو مانند سے پہلے اس کے متعلق تحقیق کر لی جائے۔ عرب اور دیگر

مورخوں نے رسول کو سہم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات کا فی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ تجارتی مسود کے متعلق ان کی خاموشی سے کیا یہ گمان نہ ہو گا کہ ایسے مسود کا ان دنوں رواج ہی نہ تھا؟ خاص طور پر جبکہ تجارت کا طریقہ کام ہی ایسا تھا کہ اس میں ہر پیسے والا شامل ہو سکتا تھا۔

جناب کی نظر سے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا سورہ بقر کی آیات ۴۷، ۴۸، ۴۹ کا ترجمہ گزد چکا ہو گا۔ انہوں نے "الرب" سے وہ مسود مراد لیا ہے جو کسی حاجت مند سے یا جاؤ سے کیا علمائے کرام اور مفسرین عظام میں سے کسی اور نے بھی یہ متنے نکلے ہیں؟ اگر ان معنوں سے اور بزرگان دین کو اتفاق ہو تو ایک بہت بڑے اور اہم مسئلے کا حل مل جائے گا۔

جواب:- مجھے آپ کے اس خیال سے اتفاق ہے کہ جس چیز کی حرمت کی تصریح قرآن میں نہ کی گئی ہو اس کو بعینہ اس چیز کے درجے میں نہ رکھنا چاہیے جس کے حرام ہونے کی صراحت قرآن میں کی گئی ہے۔ لیکن ربُّکے معاملہ پر اس قاعدے کا انطباق آپ جس طرح کر رہے ہیں وہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ آپ کے استدلال کی بنیاد دو باتوں پر ہے۔ ایک یہ کہ ربُّکے مراد لازماً معاملہ قرض کی وہی صورت لی جانی چاہیئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھی۔ دوسرے یہ کہ تجارتی مسود کا رواج پونکہ اس زمانے میں نہ تھا اور صرف نادر احوال تھا تو گہرے میں کیا کرتے تھے اس صرف دوسری چیز ہی قرآنی حکم تحریم کی نہیں آتی ہے اور پہلی چیز اس سے خارج رہتی ہے۔ یہ دونوں پانچ درست نہیں ہیں۔

پہلی بات اس یہے غلط ہے کہ قرآن صرف اُن معاملات کا حکم بیان کرنے نہیں آیا تھا جو نزول قرآن کے وقت عرب یاد نیا میں رائج تھے، بلکہ وہ اصول بیان کرنے آیا تھا جو قیامت تک پیش آنے والے معاملات میں جائز و ناجائز اور صحیح و غلط کا

کافر ق طاہر کرتیں۔ اگر یہ بات نہ مانی جائے تو پھر قرآن کی ابدی اور عالم گیر راہ نما ہونے کے کوئی معنی نہیں ہیں نیز اس صورت میں معاملہ صرف ایک ربوہ کا نہیں رہتا۔ ایک شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ قرآن جس شراب کو حرام قرار دیتا ہے اس سے مراد صرف اُس قسم کی شرابیں ہیں جو اُس وقت عرب دنیا میں بناتی تھیں۔ قرآن جس سرقے کو حرام ٹھہرا رہا ہے اس سے مراد صرف اُس طریقے یا اُن طریقوں سے سرقة کرنا ہے جو اُس وقت استعمال ہوتے تھے۔ حالانکہ اصل چیز شراب اور سرقے کی حقیقت ہے جو مختلف کی گئی ہے نہ کہ اس کی راجح الوقت قسمیں اور صورتیں۔ اسی طرح اصل چیز ربوہ کی حقیقت ہے جو حرام کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاملہ قرض میں داٹن ملیوں سے اصل پر کچھ زائد وصول کرنے کی شرط کرے۔ یہ حقیقت جس معاملہ قرض میں بھی پائی جائے گی اُس پر قرآن کے حکم تحريم کا اطلاق ہو جائے گا۔ قرآن نے مطلق ربوہ کو حرام کیا ہے اور کہیں یہ نہیں کہا کہ جو شخص ناداری و حاجمت مندی کی حالت میں یعنی ضروریات شخصی کی خاطر قرض لے صرف اس سے سود لینا حرام ہے۔

دوسری بات اس لیے غلط ہے کہ اول تو تجارتی سود کی صرف یہ شکل جدید ہے کہ تجارت کے لیے ابتدائی سرمایہ ہی قرض کے ذریعہ اکٹھا کیا جائے، ورنہ تجارتی کاروبار کے دوران میں تاجر و کاروبار کا ایک دوسرے سے قرض لینا یا ساہو کاروں سے قرض لے کر کسی کاروباری ضرورت کو پورا کرنا تو قدیم ترین زمانے سے دنیا بھر میں راجح ہے اور اس کے جدید ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ دوسرے شخصی حاجتوں کے لیے غیر تجارتی قرض لینے کی بھی صرف یہی ایک صورت نہیں ہے کہ آدمی بیماری میں دوا کا محتاج ہو یا امراضی کی حالت میں گھر کے لیے آہماداں فراہم کرنا چاہتا ہو اور اس کے لیے کسی مال دار سے قرض لے اس کے علاوہ بہت سی صورتیں ایسی بھی ہیں جو میں بالکل نادار نہ ہونے کے باوجود آدمی قرض لے کر اپنی کوئی ذاتی ضرورت پوری کرتا ہے۔ مثلاً پھر کی شادیاں کرنا یا گھر بنانا ایسے قرض بھی ہر زمانے میں لیے جلتے رہے ہیں۔ آپ قرض کی ان بہت سی مختلف صورتوں میں سے کس کس کو تحريم رکھ کے حکم سے

خارج اور کس کو داخل کریں گے؟ اس کے لیے کیا اصول مقرر کریں گے؟ اور قرآن کے کن الفاظ سے یہ اصول نکالیں گے؟

زمانہ چاہیت یا ابتدائی زمانہ اسلام کے کار و باری روایج میں تجھے تی سو دا اور غیر تجارتی سو د کی تفصیل نہ ملتے کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اس تفریق و امتیاز کا تصور پیدا نہ ہوا تھا اور یہ اصطلاح جیس نہیں بنتی تھیں۔ اس زمانے کے لوگوں کی نگاہ میں قرض، ہر طرح کا قرض ہی تھا خواہ نادار لے یا مال دار، خواہ ذاتی ضروریات کے لیے لے یا کار و باری ضروریات کے لیے۔ اس لیے وہ صرف معاملہ قرض اور اس پر سو د کے لین دین کا ذکر کرتے اور اس کی ان تفصیلات میں جاتے تھے۔

مولانا آزاد کا صحیح منشاء نہیں ہے وہ آپ نے سمجھا ہے وہ اپنی تشریح بجارتھی میں صرف یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سو د میں اخلاقی حیثیت سے کیا قباحت ہے۔ لیکن ان کا منشاء یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ سو د سے مراد ہی صرف وہ سو د ہے جو کسی حاجت مند کو ذاتی ضروریات کے لیے قرض دے کر دھول کیا جائے۔

مولانا موصوف کی تشریح سے جو مفہوم آپ اخذ کر رہے ہیں وہ قرآن کے الفاظ سے بھی زائد ہے اور مفسرین و فقہاء میں سے بھی کسی نے تحریم رپڑتے اس قرآنی حکم کو حاجت مندی سے مقید نہیں کیا ہے۔

اس سلسلے میں بہتر ہو کر آپ میری تفسیر "تفسیر القرآن" جلد اول صفحہ ۲۱۰ سے ۲۱۸ تک ملاحظہ فرمائیں۔
دیگری الائچی (تالیمہ مارچ ۱۹۵۶ء)

سوال:- جیسا جناب نے فرمایا تھا، میرے استدلال کی بنیاد دو

باتوں پر ہے۔ ایک یہ کہ ربوب سے مراد لاذماً قرض کی وہی صورت می جانی چاہیئے جو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رائج تھی۔ اور دوسرے یہ کہ تجارتی سو د کار و ارج چونکہ اس زمانے میں نہ تھا اس لیے سو د کی یہ صورت قرآنی حکم تحریم میں نہیں آتی۔ جناب ران دونوں باتوں کو درست نہیں سمجھتے۔ مگر یہ دونوں جناب کی تصنیف "سو د" حصہ اول کے صفات

۳۲، ۳۵ میں کہا ہے پر مبنی ہیں۔ جناب نے فرمایا: "قرآن جس زیادتی کو حرام قرار دیتا ہے وہ ایک خاص قسم کی زیادتی ہے۔ اس لیے وہ اسے "الربو" کے نام سے نہ یاد کرتا ہے۔ اہل عرب کی زبان میں اسلام سے پہلے بھی معاملہ کی ایک خاص نوعیت کو اس اصطلاحی نام سے یاد کیا جاتا تھا..... اور چونکہ ملہ "الربو" ایک خاص قسم کی زیادتی کا نام ہے اور وہ معلوم و مشہور تھی۔ اس لیے قرآن مجید میں اس کی کوئی تشریح نہیں کی گئی۔....."

۳۳ سے بعد وہ روایات ہیں جن میں زمانہ، جاہلیت کے ربوب کی مثالیں دی لئی ہیں اور ان کے بعد مرقوم ہے کہ "کار دربار کی یہ صورتیں عرب میں راجح تھیں، انہیں کو اہل عرب اپنی زبان میں "الربو" کہتے تھے اور یہی وہ چیز تھی جس کی تحریم کا حکم قرآن مجید میں نازل ہوا۔" میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جناب کہ جناب کی کتاب میں اور دوسری کتابوں میں "الربو" کی یہ مثالیں دی ہوئیں

یہاں سے یہ ظاہر ہے کہ عرب تجارت کے لیے بھی قرض لیتے تھے اور اگر عرب میں تجارتی سود رائج نہیں تھا تو جناب کے اپنے استدلال کے مطابق "الربو" کی زردیں نہیں آنا چاہیئے۔ اگر یہ فیصلہ نکالنے میں مجھے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو مہربانی فرمائے جسے اس سے مطلع فرمائیے۔ اور علمائے کرام نے بھی انا ہے کہ "الربو" سے وہی براحتی قدری مقصود ہے جو ان دونوں عربوں میں متبادل تھی اور ربوب کے نام سے یاد کی جاتی تھی۔

اب رہی یہ بات کہ آیا ذر ما نہ جاہلیت کے عربوں میں تجارتی سود

لہاڑہ بجٹھ جو بودہ ایڈیشن میں صفحہ ۱۵، ۱۵ اپر دیکھی جاسکتی ہے میری مراد وہ اصل یہ تھی کہ اصل لگئے ہوئے سرمایہ پر ہر زیادتی قرآن میں حرام نہیں کی گئی ہے۔ یہ زیادتی تو تجارت میں بھی ہوتی ہے جسے قرآن نے ملال کیا ہے۔ قرآن جس زیادتی کو حرام کرتا ہے وہ "الربو" ہے جس کا ایک خاص مفہوم تھا اور وہ سب کو معلوم تھا۔

واقعی راجح تھا کہ نہیں۔ اس کے متعلق جناب فرمائچے ہیں کہ یہ بات
مراحت کے ساتھ کسی کتاب میں نہیں لکھی گئی۔ اس لیے میں نے عرض کیا
تھا کہ اسی سلسلے میں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت
مزامنہ کی ہے قیاس پر عمل نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے
اصل حالات معلوم کرنے چاہیں۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ تمام بھی امر
سچے کہ یورپ میں پانچوں اور دسویں صدی عیسوی کے درمیان
تجارتی سود کار واج نہ تھا۔ اس کے لیے میں جناب کی خدمت میں
مختلف کتابوں کے حوالے پیش کر سکتا ہوں۔ نیز جن کتابوں تک میری
رسائی ہو سکی ان سے یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں عرب میں تجارتی بھی سریعہ
سے یا مضاربہ سے ہوتی تھی۔ تجارت کے جتنے تذکرے میری نظر
سے گزرے ہیں ان میں کہیں تجارتی قرض کا ذکر نہیں۔ جناب کی علمیت
اور وسعت مطالعہ سے مجھے امید تھی کہ جناب میری رہنمائی کسی ایسی
کتاب کی طرف فرمائیں گے جس سے اس بات کے متعلق قابلِ وثوق
حالات معلوم ہو سکیں۔ لیکن یہ امید بردا آئی۔ جیسا پہلے عرض کر چکا ہوں
مصنفین نے رسول کو حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات
بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ لیکن اس کا کہیں ذکر نہیں آتا کہ لوگ
قرض لے کر تجارت کیا کرتے تھے۔ قریش تاجر تھے۔ حضرت جہاں رضی اللہ
 عنہ سود پر دیتے دیتے تھے۔ مگر کون کو؟ کبھوڑ کے کاشت کاروں کو۔
طبقہ تجارت کا ایک فرد بھی اپنا سرمایہ سود پر دیتا ہے تو کاشت کاروں
کو کیا اس سے یہ گمان نہ ہو گا کہ تجارتی سود ناپید رکھا؟

جناب نے دریافت فرمایا ہے کہ قرض کی بہت سی مختلف
صورتوں میں سے کس کس کو تحریم بڑو کے حکم سے خارج اور کس کو داخل
کریں گے۔ سود کی وہ صورتیں تو زمانہ جاہلیت میں راجح تھیں سب

منوع ہوئی گی۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اس وقت ذاتی ضروریات کے لیے اور اضطراری قسم کے قرض ہی لیے جاتے رہتے اور اسیے قرض لینے والے لوگوں کو جہاں جن اکثر لوٹنے رہتے اور ان کو بچانا ضروری تھا اس لیے "الرُّبُو" حرام ہوا۔ ایسے سود کی جتنی بھی مدت کی جائے میں درست ہے اور اس کے مجموع کے لیے جس قدر سخت سزا تجویز کی جائے رہے۔ اس کے برخلاف ایسے قرض جن کے لینے والے نفع اور کاموں میں لگاتے ہیں ان پر سود جائز ہونا چاہیئے۔ ایسے سود دینے والے اور لینے والے دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کئی دفعہ مدیون ان کو مغاربہ پر ترجیح دیتا ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں بڑی مشکل پڑیں آتی ہے کہ علمائے کرام ایسے سود کو "خَرْبٌ مِنْ رَسُولِهِ" جیسی سخت سزا کا مستوجب کیوں قرار دیتے ہیں کیا اسلامی فقہ کے مطابق جرم اور اس کی سزا میں مطابقت میں نہیں ہونی چاہیئے۔ ایسے سود پر بڑا اعتراض کیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں:- ایک یہ کہ اس سے ایسا طبقہ پیدا ہوتا ہے جو بغیر سخت و مشقت کے آمدی وصول کرتا ہے یہ اعتراض ان لوگوں پر بھی ہونے چاہئیں۔ جن کے پاس بڑا بڑا زمیندار یا ان افراد کئی مکان ہیں اور وہ بین محنت گزرا وقایت ہی نہیں بلکہ عیش کی زندگی بس کرتے ہیں۔ اگر اسلام ان مکھٹوں کو نہیں روکتا تو تجارتی سود لینے والے ہی کیوں مورد عتاب ہو؟ دوسرا یہ کہ سودے کو تجارت کرنے والے کو چاہے نقصان ہو مگر سود لینے والے کو منافع ہی ملے گا۔ یہ اعتراض کچھ حد تک درست ہے۔ لیکن اس بات کو نظر اندازنا کرنا چاہیئے کہ سود پر روپیہ تجارت کے لیے بیاجاتا ہے کہ مدیون کو اس شرح سود سے کئی گناہ بیادہ منافع کی امید ہوتی ہے اور بیشتر وقایت یہ امید پوری ہوتی ہے۔ درہ تجارتی قرض کو اس قدر فروع نہ ہوتا۔ ایسے قرض دینے والے

کو سالانہ ایک چھوٹی سی رقم ملتی رہتی ہے اور اس کے بدلتے روپیہ بیٹھنے والا کبھی اس رقم سے کئی گناز یاد و نفع کمایتا ہے اور کبھی اس کو نقصان ہوتا ہے اس قسم کے خطرے (Risk) کو قبول کرنا تجارت کا عام مسلک ہے۔ اور یہ ایسی چیز نہیں اور اس سے ایسی خرابیاں پیدا نہیں ہوتیں کہ اس پر "الربو" والی سزا لاندی آتے۔ میرے خیال ناقص میں ہمیں ہر جگہ کی نفع آور اور غیر نفع آور صورتوں میں تفریق کرنی چاہیئے اور پہلی جائز اور دوسری منوع ہونی چاہیئے۔

جناب نے اپنے خط میں یہ بھی فرمایا ہے "اُس زمانے کے لوگوں کی نگاہ میں تعرض ہر طرح کا قرض ہی تھا، خواہ نادار سے یا مال دار خواہ ذاتی ضروریات کے لیے یا کار و باری ضروریات کے لیے۔ کیا جناب موخر الذکر حضرت کی حمایت میں کوئی حوالہ دے سکتے ہیں؟ کہیں سو سال سے تجارتی سود تمام دنیا میں رائج ہے اور لوگوں کو اس کی عادست سی ہو گئی ہے۔ اس لیے ان کے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے کہ اس بابت کا تصویر کر سکیں کہ ایک ایسا زمانہ بھی تھا جب تک کہ تجارتی سود ناپید تھا۔ حالانکہ تاریخی شواہد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تجارت کی اغراض سے سود کا لین دین کم از کم مغربی ملکوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت رائج نہیں تھا۔

یہ جناب کو بار بار تکلیف دے رہا ہو۔ اس کی تین وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ علاً لاکھوں مسلمان تجارتی سود لیتے یاد دیتے ہیں۔ کیونکہ اگر ان کو

لہان سب باتوں کا بواب اسی کتاب کے ابواب میں جو سود، سلبی پہلو اور ایجادی پہلو میں ملکو دہے۔

لہان اس کا بواب نمبر ۲ میں ملاحظہ فرمایا جائے۔

تجارت قائم رکھنی ہے، جس میں روز رو ز مقابلہ تیز تر ہو سا جاتا ہے، تو ان کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ جناب نے اس بات کو نہیں مانا اور متبادل طریقے تجویز بھی فرمائے ہیں۔ لیکن میں بصد ادب عرض کر دیں گا کہ ہم لوگوں کی موجودہ ذہنی اور اخلاقی معیار جس کی آپ کو اپنے ہم مذہبوں سے توقع ہے ایک نبی چاہتا ہے۔ اور ہمارے مذہب میں دوسرے نبی کی گنجائش ہی نہیں۔ اس لیے مجھ ناچیر کے خیال میں ہمارے علمائے کرام کو چاہیے کہ مذہب کے تدقیق و معاشرتی معاملات میں ضرورت سے زیادہ سختی نہ بر تھیں اور اللہ تعالیٰ کے فرمان **يُرِيدُ اللَّهُ كُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ لَكُمُ الْعُسْرَ كُو ياد رکھیں۔** مزید پر آں یہ ایک مسلم اصول ہے کہ جس چیز کو قانون منع کرے اس کا نقصان اس کے فائدہ سے زیادہ ہونا چاہیئے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا ہے **وَرَأَمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا تِجَارَةُ سُود** بعض حالات میں بعض لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے لیکن اس سے انکار نہیں کیا سکتا کہ وہ اکثر اوقات فائدہ مند ہی ہے۔ اور اس کا نفع اس کے نقصان سے بہت زیاد ہے۔ اس لیے اس کی مناسی بہوں چاہیئے۔

دوسرے آج کل فوجی ضروریات کے لیے اس قدر روپیری کی ضرورت پڑتی ہے کہ بوقت جنگ قرض کے بغیر چارہ نہیں یہ ایک مٹھوس حقیقت ہے جسے نظر انداز نہ کرنا چاہیئے۔

تمیری وجہ ذاتی ہے۔ میں سرکاری توکری کے دوران میں جنرل پر اوپرڈنٹ کے لیے روپیری اپنی مرمنی سے کٹوا تا رہا۔ اس پر مجھے ایک کافی رقم سود کی ملی ہے جو میں نے نکال کر علیحدہ رکھ لی ہے۔ میں یہ معلوم کرتا چاہتا ہوں کہ آیا یہ سود مختلف ہے یا جائز۔ کیا جناب میری رہنمائی

فرمائیں گے؟ اگر منوع ہے تو اس رقم کو اب کس کام میں خرچ کیا جاسکتا ہے؟ کیا حاجتِ متداول کی امداد پر اسے خرچ کرنا جائز ہو گا؟ اس رقم کی حرمت و حلت معلوم کرنے کے لیے مجھے جو سعی کرنی پڑی اس میں شیخ نے سود پر چنی کتیں میں پڑھ ڈالیں۔ لیکن چند نکتے صاف نہ ہو سکے۔ اور ان کو آپ کے سامنے حل کے لیے پیش کرنے کی جرأت کر چکا ہوں۔ امید ہے آپ مجھے اس تخلیفِ دری کے لیے معاف فرماؤں گے۔ اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ لیکن اس خط کے جواب کے بعد جناب کو مزید تخلیف نہ دوں گا۔

جواب:- بے شک میں نے یہ لکھا تھا، اور اب بھی یہی کہتا ہوں کہ قرض پر جس نوعیت کی زیادتی کو عرب میں اربو کہا جاتا تھا، قرآن میں اسی کو حرام کیا گیا ہے۔ لیکن آپ اس بات کو جس معنی میں لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرض کی جو قسمیں عرب میں اُس وقت ملکیت صرف اپنی میں قرآن نے اصل سے زیادہ لینے کو حرام کیا ہے۔ حالانکہ میں نے، اور تمام فقہاء میں اسلام نے بالاتفاق قرض کی نوعیت کا نہیں بلکہ زیادتی کی نوعیت کا استنباط کیا ہے۔

اس کو میں ایک مثال سے واضح کروں گا۔ عرب میں زمانہ نزول قرآن کے وقت اصطلاحاً الفاظ خمر صرف انگور کی شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ دوسرا قسم کی شرابیں جو اس زمانے میں فتنی تھیں، ان پر بھی مجازاً یہ لفظ بول دیا جاتا تھا۔ پھر حال جب قرآن میں اس کی حرمت کا حکم آیا تو کسی نے بھی اس کا یہ مطلب نہیں لیا کہ یہ حکم حسریم صرف اس قسم کی شرابوں کے لیے ہے جو عرب میں اس وقت ملکیت تھیں، مخصوص ہے، بلکہ یہ سمجھا گیا کہ ان سب میں لخواہیک صفت مشترک، یعنی نشرہ اور ہونے کی صفت، پائی جاتی ہے، اصل حرمت اسی کی ہے اور وہ جس قسم کی نوشیدنی یا خوردگی چیزوں میں پائی جائے وہ اس حکم کے تحت آتی ہے۔

اسی طرح عرب میں قرض کے معاملات کی بھی چند صورتیں ملکیت تھیں۔ ان سب

میں یہ بات مشترک تھی کہ لین دین کی تقاریر داد میں اصل سے زائد ایک رقم ادا کرنا بطور شرط کے شامل ہوتا تھا اور اسی کا نام اپنی عرب ربوہ کہتے تھے۔ قرآن میں جب رب ربوہ کی حرمت کا حکم آیا تو کسی نے اس کا یہ مطلب دلیا کہ یہ حکم انہی اقسام قرض سے متعلق ہے جو عرب میں اس وقت راجح تھیں۔ بلکہ شروع سے آج تک کے تمام فقهاء نے اس کا یہی مطلب لیا ہے کہ ہر دو زیادتی ممنوع ہے جو اصل رقم قرض پر بطور شرط عاید کی جائے قطع نظر اس سے کہ قرض کسی نوعیت کا ہو۔ اس بابت کی طرف خود قرآن میں ارشاد کر دیا گیا ہے۔ **وَإِنْ تُبْتَهُمْ فَلَكُمْ دُولُؤْ وَلَكُمْ أَمْوَالُكُمْ** (آل البقرة: آیت ۲۲۹)

”اگر تم قوبہ کرو تو اپنے راس المال لینے کے حق دار ہو“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راس المال سے زیادہ لینا ہی رب ہے۔ اور اسی کو قرآن حرام کر دا ہے۔ اگر قرض کی بعض خاص صورتوں ہی میں یہ زیادتی حرام کرنی مقصود ہوتی تو اشارے کنائے ہی میں یہ مقصود ظاہر کر دیا جاتا، مثلاً یہی کہہ دیا جاتا کہ حاجت مند کو قرض دے کر زیادہ نہ وصول کرو۔

اپنے حاجت مند کی شرط قرآن میں نہیں پاتے بلکہ باہر سے لاتے ہیں اور یہ شرط برداشت کے لیے جو ولیل آپ پیش کرتے ہیں اس سے بہت بڑی اصولی قیامت یہ واقع ہوتی ہے کہ ایک مسودہ ہی نہیں، قرآن کے سارے احکام ان حالات و معاملات کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں جو عرب میں اس کے نزول کے وقت پائے جلتے تھے۔ نیز یہ استدلال کر کے آپ ایک بردارک (Risk) بھی لیتے ہیں۔ آپ کے پاس امر کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے کہ اس زمانے میں کوئی شخص قرض لے کر تجارت نہیں کرتا تھا اور اس امر کا کوئی ثبوت ہے کہ دو ماں تجارت میں بھی کوئی تاجر کبھی دوسرے تاجر یا ساہو کار سے قرض نہ لیتا تھا۔ یہ دونوں باتیں آپ نے صرف دو متوسط کے یورپ سے متعلق اس عام تاریخی بیان سے نکال لی ہیں کہ اس زمانے میں تجارت کی سرمایہ سے یا مضارب سے پرہوا کرتی تھی اور تجارتی مسودہ کار دا ج بہت بعد میں ہوا ہے۔ حالانکہ اس طرح کے تاریخی بیانات بواہیک عجیب کیفیت

پیش کرتے ہیں، کبھی اس امر کا ثبوت نہیں ہو سکتے کہ اُس زمانہ میں کوئی دوسری صورت واقع نہ ہوتی تھی۔

میں نے جو بچپنے خط میں عرض کیا تھا کہ اُس زمانے کے لوگ ہر قسم کے قرض کو ہی سمجھتے تھے خواہ نادار لے یا مالدار اور خواہ ذاتی ضروریات کے لیے یہ میرا قیاس ہے اور اس بنیاد پر ہے کہ میری نگاہ سے قدیم زمانے کی تحریروں میں کبھی قرض کی اقسام قرض لینے والے کی حالت یا غرض کے لحاظ سے نہیں گز رہی، حالانکہ انسان ہر زمانے میں قرض مختلف اغراض کے لیے لیتا رہا ہے، اور قرض لینا صرف نادار لوگوں تک کبھی محدود نہیں رہا ہے۔

اس بیگنے میرے لیے یہ بحث کرنا غیر ضروری ہے کہ نفع آور اغراض کے لیے بھی قرض پر سود لینا کیوں حرام ہونا چاہیئے۔ اس کے متعلق اس سے پہلے اپنے دلائل میں بیان کر جکا ہوں۔

میری رائے میں پراؤیڈنٹ فنڈ پر جو سودی رقم آپ کو ملی ہے اسے آپ اپنی ذات پر خرچ نہ کروں۔ اگر آپ کو اس کے حرام ہونے کا یقین نہیں ہے، تب بھی یہ رقم مشکوک تو ہے۔ آپ جیسا نیک دل آدمی ایک ایسی چیز سے کیوں قائدِ اُنخلائے جس کے پاک ہونے کا یقین نہ ہو، خصوصاً جب کہ آپ اس کے محتاج بھی نہیں ہیں۔ بہتر یہ ہو کہ آپ اس سے ایک ایسے فنڈ کی ابتدا کریں جو حاجت مند لوگوں کو بلا سود قرض دے۔ میرا خیال یہ ہے کہ دوسرے بہت سے لوگ بھی جن کو اس طرح کی سودی رقمیں ملی ہیں، یا آئندہ ملیں گی۔ اس فنڈ میں اپنی رقمیں بخوبی داخل کر دیں گے اور ایک اچھا خاص اسرا میہ اس کام کے لیے جمع ہو جائے گا۔

(ترجمان القرآن شعبان رمضان ۱۴۲۳ھ جون ۱۹۰۵ء)

سوال:- ماہ جون کے ترجمان القرآن میں جناب نے میرے سوال متعلقہ تجارتی سودا پسے جواب کو نقل فرمایا ہے جس سے مجھے جمارت ہوتی ہے کہ باوجود اس کے کہ میں نے جناب کو مزید تکلیف نہ دیتے کا

کا وعدہ کیا تھا، آپ سے مخودڑی سی وضاحت کی درخواست کروں۔
 (۱) آپ نے تحریر فرمایا ہے "اسی طرح عرب میں قرض کے مقابلہ کی بھی چند صورتیں رائج تھیں۔ ان سب میں یہ بات مشترک تھی کہ لین دین کی قرارداد میں اصل زائد ایک رقم ادا کرنا بطور شرط کے شامل ہوتا تھا اور اسی کا نام اہل عرب ربوب مکتے تھے" اس سے ظاہر ہے کہ جناب نے بھی رائج وقت اقسام قرض سے ہی زیادتی کی نوعیت کا استنباط کیا ہے اور یہی میری کوشش ہی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جاہلیت کے عرب میں قرض کی بو صورتیں رائج تھیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ان سب میں کیا جزو و مشترک تھا۔ جناب کے نزدیک ہو بات مشترک تھی وہ یہ تھی کہ لین دین کی قرارداد میں اصل سے زائد ایک رقم ادا کرنا بطور شرط کے شامل ہوتا تھا۔ میری عرض ہے کہ ایک اور بات بھی مشترک تھی اور وہ یہ کہ مدیون کی حاجت مندی کی وجہ سے اُس پر ناجائز شرائط عاید کی جاسکتی تھیں یا بالفاظ دیگر اس پر جبر و ظلم کا احتمال تھا۔ قرض کی جتنی مثالیں آپ نے اپنی کتابت "سود" میں لکھی ہیں ان سب میں یہ احتمال موجود ہے۔ اس لیے یہ جزو مشترک بھی "ربو" کی تعریف میں شامل ہونا چاہیئے اور اس کو شامل کیے بغیر "ربو" کی تعریف نامکمل رہ جائے گی۔ احتمال جبر و ظلم، سب حاجت مندانہ (Consumtive) (Non-Productive) قرضوں کا خاص ہے اور شاید بھی وجہ تحریرم ربوب ہو۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس زمانہ میں عرب منفعت بخش (Productive) کاموں کے لیے بھی سود پر وہی قرض لیتے تھے تو میرا نظر یہ غلط ہو جائے گا۔ پوچھو میری اپنی کوشش جاہلیت کے عروں میں اس قسم کے قرض کا کھوج لگانے میں ناکام رہی اس لیے میں نے جناب کو تکلیف دی ہے، اور امید

رکھتا ہوں کہ جناب اپنی تحقیق کی بنابر فرماسکیں گے کہ آیا مہفوٰت بخش
قرض کا بھی ان دنوں عربوں میں رواج تھا کہ نہیں؟ (Productive)
جناب نے قرض کی ہر مختلف صورتیں نقل فرمائی ہیں ان میں صرف ایک
ہے جس کا تحدیرت سے کچھ تعلق معلوم ہوتا ہے یعنی وہ ہر قیمت اور
بیان فرمائی ہے کہ "ایک شخص ایک شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت
کرتا اور ادا کے قیمت کے لیے ایک وقت مقرر ہے اسکے ہمہ جہالت دیتا۔
اگر وہ مدت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو پھر وہ مزید جہالت دیتا اور
قیمت میں اضافہ کر دیتا۔ یہ خود فرمائیشے کہ یہ زیادتی کس وقت عائد کی جاتی
ہے؟ جبکہ قرض دار وقت مقرر ہے پر قیمت ادا کرنے سے عاجز ہو
چکا ہوتا تھا۔ اور قرض خواہ اپنی منافی شرائط اس سے منوا سکتا تھا۔
یعنی جبر و ظلم کا احتمال موجود تھا۔

(۳) جناب نے خرکی مثال دی ہے اور فرمایا ہے کہ حکم تحریم
کا کسی نے یہ مطلب نہیں لیا کہ یہ حکم صرف اس قسم کی شراب یا ان اقسام
کی شرابوں کے لیے ہے بلکہ اس وقت راجح تھیں، مخصوص ہے۔
بلکہ یہ سمجھا گیا کہ ان سب میں ہوا ایک صفت مشترک، یعنی نہاد اور ہونے
کی صفت پائی جاتی ہے، اصل حرمت اسی کی ہے۔ میری عرضی ہے

لہ بہ بات بداہست غلط ہے۔ ہنوک کی تجارت میں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ ایک
ہنوک کا تاجر اپنے خود دہ فروش مستقل گاہوں کو قرض پر مال دے کر قیمت کی ادائیگی کے
لیے چینہ دو چینے کی جہالت بلا سود دیدے ہے اور اس مدت کے اندر قیمت ادا نہ ہونے
کی صورت میں مزید جہالت مسود لگا کر دے۔ اس صورت میں وقت پر قیمت نہ دینے والا
خود دہ فروش تاجر لازماً فاقہ کش ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس پر مسود لگنا خاص قسم کا ظلم قرار پائے
جو شاہ صاحب مراد لے دے ہے ہیں۔

کہ اسی طرح ہمیں "دریو" کی صورت رسانی صفت مشرک معلوم کرنی چاہئے
اصل حرمت اسی کی ہوگی، اور مسعود کی جو صورتیں اس صورت سے میراں ان
کو "دریو" کے تحت نہ لانا چاہئے۔

(۴) سورہ بقر کی آیت فَإِنْ تُبْشِّرُهُمْ فَلَا يُؤْمِنُ أَمْوَالَكُلِّ
سے جناب نے استدلال فرمایا ہے کہ راس المال سے زیادہ لینا ہی دریو
ہے۔ کیونکہ اگر قرض کی بعض خاص صورتوں ہی میں یہ زیادتی حرام کرنی مقصود
ہوتی تو اشارے ہی میں یہ مقصد ظاہر کر دیا جاتا۔ مثلاً یہ کہ حاجت مند کو
قرض دے کر زیادہ نہ وصول کرو۔ اس آیت کو اس کے مابین سے ملا
کہ پڑھیے تو پورا حکم یہ ہے دِيَأْيَهَا الَّذِينَ اَمْتَوْا اَنْقُوا اللَّهُ
وَذَرْدُ اَسَابِقِيْرِصْنَ السِّرْبِوْرِانْ كُشْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ هَفَيَانْ
لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَزْبِ قَنْ اَلَّهُ وَرَسُولُهُ هَفَرَانْ
بِكَلِمَ دُوْمِيْ اَمْوَالِكُمْ هَلَّا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
یہ احکام اس دریو برداشت کی کوچھوڑنے کے لیے تھے جو اس وقت
قرض خواہوں کو ملنے والی تھی۔ اس لیے لازماً اس کا تعلق ان اقسام قرض
سے تھا جو اس وقت رائج تھیں، اور راس المال کا حکم بھی انہی اقسام قرض
سے تعلق رکھتا ہے۔

(۵) جناب نے درست فرمایا کہ میرے پاس اس امر کا کوئی تاریخی
ثبوت نہیں ہے کہ اس زمانے میں کوئی شخص قرض لے کر تجارت نہیں
کرتا تھا اس امر کا کوئی ثبوت ہے کہ دراں تجارت میں بھی کوئی تاجر
کبھی دوسرے تاجر یا ساہو کا رے قرض نہ لیتا تھا۔ لیکن ان قرائیں سے
جن کا ذکر ہیں نے اپنے پہلے خطوط میں کیا ہے، یہ اغلب معلوم ہوتا ہے
کہ ان دنوں کے عربوں میں اس قسم کے قرض رائج نہ تھے۔ میرا نظر یہ ہے
کہ "دریو" لینے والے کے لیے جس قدر سخت مزامنہ کی گئی ہے اس کے

پیش نظر بڑھوتری کی کسی قسم ربو، میں شامل نہ کرنا چاہیے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ دراصل رسول کرسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی وہ ربو میں شامل تھی۔ اس کے برعلاف جناب کا نظریہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گمان کی بنابری اس کو ربو میں شامل تصور کر لینا چاہیے اور جب تک پُرانہ بُوت اس بات کا ذمہ جائے کہ اس قسم کی بڑھوتری کا ان دونوں رواج نہ تھا، اس کو ربو کی حدود سے خارج نہ سمجھنا چاہیے۔ جناب کا نظریہ احتیاط و ذہد پر مبنی ہے۔ لیکن مجھے ذہن ہے کہ یہ احتیاط کہیں دنیوی نقصان کے علاوہ اخروی نقصان کا باعث بھی نہ ہو۔ آج کل کی دنیا میں بغیر تجارتی سود کے گزارہ نہیں۔ جو قوم اس سے پرہیز کرتی ہے وہ دوسری قوموں کے مقابلہ میں معاشی لحاظ سے پست اور کمزور رہ جاتی ہے۔ اور ایسی کمزوری کا حوالہ اس قوم کی آزادی پر ڈال سکتا ہے، وہ جناب سے مخفی نہیں اللہ تعالیٰ کو یقیناً مرغوب نہ ہو گا کہ مسلمان حکوم ہو کر رہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت "لَا تُحِرِّرُ مُؤْمِنَاتٍ مَا أَحْلَلَ اللَّهُ وَلَدُّهُ شَفَاعَةٌ" کی تشریح میں جناب نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے، "اس آیت میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ خود حلال حرام کے مختار نہیں جاؤ، حلال فہری ہے جو اللہ نے حلال کیا۔ اور حرام وہی سنبھے جو اللہ نے حرام کیا" مزید نوٹ نمبر ۱۰ میں جناب نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو اپنے اکبر سختی کرنے سے روکا ہے اس سلیمانیہ کیا یہ درست نہ ہو گا کہ جب تک اس کا ثبوت ذمہ جائے کہ تجارتی (Productive) سود بھی ربو میں شامل تھا، اس کو گمان کی بنابری حرام قرار نہ دیا جائے؟

(۴) جو سودی رقم مجھے پر اور ڈنٹ فنڈ سے ملی تھی اسے چند روز بعد ہی ایک دوست بطور قرض لے گئے اور آج تک اُن سے واپس

نہیں ملی۔ لیکن اگر مل گئی تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت کے مطابق میں اس کو اپنی فراست پر خرچ نہ کروں گا۔

(۷) ایک غیر متعلقہ امر کے متعلق بھی جناب سے کچھ پوچھنا پاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود میسر کے متعلق فرماتے ہیں: "ا تمہما اک سید من نفعہما"۔ آپ نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ان کا نقصان ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ لغت کی جو کتابیں میری نظر سے گزدی میں ان میں مجھے "اثم، کا ترجمہ "نقصان" نہیں ملا۔ جناب سے استدعا ہے کہ اپنے ترجمہ کے حق میں کوئی مستند تواہ عنایت فرمائے جنون فرماؤ۔

جواب:- عنایت نامہ موڑ نہ ۲۳ روپاٹی مجھے بروقت مل گیا تھا، لیکن اس وقت سے اب تک مسلسل ایسی صرفیت رہی کہ جواب لکھنے کی چیز نہ مل سکی۔ اس تاخیر کے لیے معافی چاہتا ہوں۔

آپ نے جن نکات کی طرف توجہ دلائی ہے ان کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ پھر اصل مسئلہ کو نئے سرے سے سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ "الربو" جس کو قرآن نے حرام کیا ہے اس کی حقیقت یا بالفاظ دیگر علمت حرمت کیا ہے۔ آیا یہ کہ ایک شخص اپنے دیشے ہوئے مال راس المال سے زیادہ وصول کرے، یا یہ کہ وہ دوسرا شخص کی حاجت مندی سے ناجائز فائدہ اٹھائے؟ میں پہلی چیز کو اس کی حقیقت اور علمت حرمت کہتا ہوں، اور اس کے دلائل مختصر رائی ہیں:-

(۱) قرآن جس چیز کو حرام کر رہا ہے اس کے لیے وہ مطلق لفظ الربو استعمال کرتا ہے جس کا مفہوم لغت عرب میں مجرم زیادتی ہے حاجت مند سے زیادہ لینا اس لفظ کے مفہوم میں شامل نہیں ہے۔ غیر حاجت مند کو قرض دے کر یا بار آور اغراض کے لیے قرض دے کر زیادہ واپس لیا جائے تب بھی لغت کے اعتبار سے اس زیادتی پر

اربوجی کا اطلاق ہو گا۔

(۲) قرآن خود اس الربو کو کسی ایسی قید سے مقید نہیں کرتا جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ وہ اس ربکو حرام کرننا چاہتا ہے جو کسی حاجت مند کو قرض دے کر وصول کیا جائے، اور اس ربکو حکم حرمت سے خارج کرننا چاہتا ہے جو غیر حاجت مندوں سے، یا بار آور اغراض کے لیے قرض دے کر کار و باری لوگوں سے وصول کیا جائے۔

(۳) اہل عرب قرض پر منافع لینے کو یکسان سمجھتے تھے، چنانچہ ان کا قول تھا کہ انہا البَيْعُ مِثْلُ الرِّبْو۔ قرآن نے ان دونوں قسم کے منافعوں میں فرق کر کے واضح کر دیا کہ منفع کامنافع حلال اور قرض کامنافع حرام ہے۔ أَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبْوَ۔ اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ نفع کمانے کے لیے بیع اور شرکت فی الْبَيْعِ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے مگر قرض کی شکل میں روپیہ لگا کر فائدہ کمانے کا دروازہ بند ہے۔

(۴) قرآن نے لکھا ہوؤں اموال کحمد کہہ کر اس بات کی وضاحت بھی کر دی کہ قرض دینے والا صرف اتنا ہی داپس لینے کا حق دار ہے جتنا اس نے دیا ہے۔ اس سے زائد لینے کا حق دار نہیں ہے۔ یہاں بھی کوئی اشارہ اس امر کی طرف نہیں ہے کہ جس شخص کو بار آور اغراض کے لیے راس المال دیا گیا ہو اس سے اصل پر کچھ زائد لینے کا حق دائن کو حاصل ہوتا ہے۔

(۵) لفظ اور قرآن کے بعد تیسرا اہم ترین مانعہ سنت ہے جس سے العذر تعالیٰ کے احکام کامنشا معلوم کیا جاسکتا ہے۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حلقت حکم جزو زیادتی کو قرار دیا گیا ہے، نہ کہ اس زیادتی کو جو کسی حاجت مند سے وصول کی جائے۔ حدیث میں یہ صراحت ہے کہ **كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ دَجْهَةٌ قَنْ وَجْهُهُ الرِّبْوُ** (بیہقی) اور **كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ بِهِ نَفْعًا فَهُوَ رَابِّ مَسْنَدِ حَادِثٍ بَنِ اسَامَةَ** یعنی "ہر وہ قرض جس سے نفع اٹھایا جائے رہو ہے"۔

لہ بعض لوگ اس حدیث کی صحیت پر اس دلیل سے کلام کرتے ہیں کہ اس کی دباقی حاشیہ صفحہ ۶۹ پر

(۶) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس نرلوکی حرمت پر اتفاقاً نہیں فرمایا جو قرض کی صورت میں لیا جاتا ہے، بلکہ دست بدست دین کی صورت میں بھی ایک ہی جنس کی اشیاء کے درمیان تفاصل کا معاملہ کرنا حرام کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں حاجت مندی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اور اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا جو منشاء سمجھا تھا وہ لا حالت یہی تھا کہ زیادہ ستانی کو اللہ حرام کرنا چاہتا ہے۔ اسی کے رجحانات کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے علاوہ دست بدست دین میں بھی زیادہ ستانی سے منع فرمادیا۔

(۷) امت کے تمام فقہائیں بالاتفاق اس حکم کا منشاء یہی سمجھا ہے کہ قرض کے معاملہ میں اصل سے زائد بخوبی کچھ بھی لیا جائے وہ حرام ہے، اقطع نظر اس سے کہ قرض یعنی والا اپنی شخصی حاجات کے لیے قرض ہے، یا کسی نفع آور کام میں لگانے کے لیے ہو فی الشریح الرزیادة علی اصل الممال من غیر عقد شایعہ دنه ایہ ابن اثیر یعنی "شریعت کی اصطلاح میں ربوج سے مراد اصل مال سے زیادہ لینا ہے بغیر اس کے کہ فریقین میں بیع کا معاملہ ہوا ہو" اس تعریف کے مطابق تمام فقہائیں اس نفع کو حرام قرار دیتے ہیں جو قرض دے کر داشن مددیوں سے حاصل کرے۔

ان وجوہ کو نظر انداز کر کے آپ جس بنابر حرمت ربوج کو صرف ان قرضوں تک محدود رکھتا چاہتے ہیں جو حاجت مندوگ اپنی ضروریات کے لیے یہیں، اور نفع بخش کاموں پر لگانے کے لیے جو قرض دیا جائے اس کے سود کو اس حرمت سے مستثنی قرار دیتے ہیں، وہ صرف یہ ہے کہ آپ کے فز و دیک عرب میں فزول قرآن کے وقت پہلی قسم کے معاملہ قرض کا رواج تھا، اور دوسری قسم کے کار و بار قرض کا

دیقیرہ حاشیہ صفحہ ۱۹۱ کا) مذکور ہے۔ لیکن جو اصول اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اسے تمام فقہائیں نے بالاتفاق تسیلم کیا ہے۔ یہ قبول عام حدیث کے مضمون کو تو یہ کردیتا ہے تو اہد و ایت کے اعتبار سے اس کی مذکوری صحتی ہو۔

رواج دنیا میں بہت بعد میں شروع ہوا۔ لیکن آپ کی یہ رائے اس وقت تک قبول نہیں کی جاسکتی جب تک آپ حسب ذیل سوالات کا واضح اور اطمینان بخشن جواب نہ دیں۔

(۱) کیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے قرضوں کے درمیان نفع اور غیر نفع اور کافر قرآن کے صراحتیاً اشارہ ہے؟ حرمتِ ربوہ کو صرف دوسری قسم تک محدود نہیں اور پہلی قسم کو حرمت کے حکم سے مستثنی کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو اس کا حوالہ ملتا چاہیے، کیونکہ حرمت کا حکم جس نے دیا ہے مستثنی کرنے کا اختیار بھی اسی کو حاصل ہے، اور اس کے کسی اشارے کے بغیر یہم اور آپ بطور خود حرام اور حلال کا فیصلہ کر لینے کے اختیار نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں غالباً آپ یہ استدلال کریں گے کہ دوچونکہ اس زمانے میں صرف غیر نفع اور قرضوں ہی پر سود لینے کا رواج تھا اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم تحريم کو اسی سے متعلق مانا جائے گا۔ لیکن یہ استدلال اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک یہ بھی فرض نہ کر لیا جائے کہ انسانی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کا علم بھی بس انہی معاملات تک محدود تھا جو نزول قرآن کے دوڑپیں راجح تھے، اور انہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ آگے کیا کچھ آنے والا ہے۔ نیز یہ کہ اسلام صرف ایک وقت عاصی تک کے معاملات میں رہنمائی دیئے والا ہے، کوئی اذلی و ابدی رہنا نہیں ہے۔ اگر یہ مفروضہ آپ کے استدلال کی بنیاد میں کام نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ معاملات کی وہ صورتیں بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تھیں جو بعد میں پیش آتے والی تھیں، اور جب یہ مان لیں گے تو آپ کو ساختہ ہی یہ بھی تسلیم کرنا ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کا منشاء فی الواقع غیر نفع اور قرضوں تک ہی حکم تحريم کو محدود رکھنا ہوتا تو وہ ضرور کسی طریقے سے اپنے اس منشاء کو ظاہر فرماتا، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس منشاء کو اس حد تک کھول دیتے کہ تحريمِ ربوہ کا حکم تمام اقسام قرض پر حاوی نہ ہو سکتا۔

(۲) دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ عرب میں

صرف حاجت مندوگ ہی اپنی ذاتی ضروریات کے لیے قرض یا کرتے تھے اور کوئی شخص نکار و بار نہیں، یا کسی نفع بخش کام میں لگانے کے لیے قرض نہ لیتا تھا؛ صرف یہ بات کہ دنیا میں نفع اور کاموں کے لیے قرض پر سرمایہ جمع کرنے کا رواج عام بہت بعد میں شروع ہوا ہے، اس بات کا فیصلہ کر دینے کے لیے کافی دلیل نہیں ہے کہ پہلے کوئی شخص کار و بار کے آغاز میں یا کار و بار کے دوران میں کبھی کار و باری اغراض کے لیے قرض نہ لیا کرتا تھا۔ آپ ایک بہت اہم مسئلے کا فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی چیز کو مستثنی کرنا کوئی ہلکی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو اس سے زیادہ وزنی دلیل لانی چاہیئے جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ یہ ثبوت لانا ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ عرب میں لوگ اس وقت کار و باری اغراض کے لیے کوئی شخص قرض نہ لیتا تھا۔ اس لیے کہ استثناء کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں، اور اس کی بنا آپ نے خدا اور رسول ﷺ کے کسی اشارے نے یا تصریح پر نہیں رکھی ہے بلکہ اس دلیل پر رکھی ہے کہ عرب میں اس وقت الربوہ کا اطلاق صرف ان قرضوں پر ہوتا تھا تو غیر نفع بخش اغراض کے لیے جانتے تھے۔

اب میں مختصر آپ کے پیش کردہ نکات کا جواب عرض کرتا ہوں۔

الربوہ کا مفہوم متعین کرنے اور اس کی علت و مدت معلوم کرنے میں ہمارا خصوصی صرف ان معاملات کی نوعیت پر ہی نہیں ہے جو اس وقت عرب میں رائج تھے، بلکہ لغت، بیان قرآن، حدیث، اور فقہائیہ امت کی توجیحات اس کے اصل مأخذ میں اور ان کے ساتھ ایک مددگار چیز یہ بھی ہے کہ اس وقت جن معاملات پر الربوہ کا اطلاق ہوتا تھا ان میں قدر مشترک معلوم کی جائے۔

آپ فرماتے ہیں کہ ان میں قدر مشترک صرف اصل سے زائد ایک رقم لینا ہی نہ تھا بلکہ یہ بھی تھا کہ یہ زائد رقم حاجت مندوں کی ذاتی ضروریات کے لیے قرض دے کر وصول کی جاتی تھی۔ لیکن اقل تواں کا اعتبار علت حکم شخص کرنے میں اس لیے نہیں کیا جاسکتا کہ نہ قرآن نے اس کی طرف کوئی اشارہ کیا ہے اور نہ سنت میں کوئی چیز ایسی

ملتی ہے جس کی بنابریہ قرض کیا جائے کہ حاجت مندوں سے زائد رقم وصول کرنا وجہ حرمت ہے، دوسرے ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اس وقت قرض کے معاملات صرف اسی نوعیت تک محدود تھے۔ جہاں تک عرب کے تجارتی معاملات کا تعلق ہے، ان کے بارے میں ہم تصریح ہمارے علم میں آئی ہے کہ وہ قرض کے سرماشے سے چلتے تھے، اور نہ یہ تصریح ہم تک سینی ہے کہ ان میں قرض کا عنصر بالکل ہی شامل نہ ہوتا تھا۔ اس لیے کسی ریکارڈ پر ہم مدد اور بجٹہ رکھ سکتے ہیں نہ آپ۔ لیکن یہ بات تو عقل عام سے تعلق رکھتی ہے اور دنیا کے عام تجارتی معاملات کی بھروسہ بوجوہ رکھنے والا کوئی شخص بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ تجارت میں قرض کے سرماشے کو بطور بنیاد استعمال کرنے کا دراج چاہے بعد ہی میں شروع ہوا ہو، لیکن تاجردوں کو اپنے کاروبار کے دوران میں ایک دوسرے سے بھی اور ساہو کاردوں سے بھی قرض لینے کی ضرورت پہلے سے بھی پیش آیا کرتی تھی، اور چھوٹے تاجر بڑے تاجردوں سے قرض پر بال پہلے بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ عرب کے متعلق ایسا ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا کہ پہلے زمانے میں تجارتی کاروبار قرض کے عنصر سے بالکل خالی ہوا کرتا تھا۔

آپ کا خیال یہ ہے کہ مُود کے معاملات میں ضرر سامنے صفت مشترک صرف یہ ہو سکتی ہے کہ حاجت مندوں کی شخصی ضروریات کے لیے قرض دے کر ان سے ظالمانہ شرح مُود طے کی جائے۔ لیکن ہمارے نزدیک صرف یہی ایک ضرر سامنے صفت اس میں نہیں ہے۔ یہ صفت بھی ضرر سامنے ہے کہ ایک شخص یا ادارہ صرف روپیہ دے کر اپنے لیے ایک متعین منافع کی ضمانت حاصل کرے اور وہ سب لوگ جو اس روپے کے ذریعہ سے اپنی محنت، قابلیت اور دماغ سوزی کر کے منافع حاصل کرنے

کی کوشش کریں ان کے لیے متعین منافع تو درکار، خود منافع تک کی کوئی ضمانت نہ ہو، قرآن مجید تو قاعدہ تجویز کرتا ہے وہ یہ ہے کہ قرض کی صورت میں کسی کو مال دو تو تم اصل سے زائد کچھ لینے کے حق دار نہیں ہو، اور بیع، یعنی تجارت کا منافع حاصل کرنا چاہو تو پھر سیدھی طرح یا تو خود براہ راست تجارت کرو، یا پھر تجارت میں شرپک بن جاؤ۔ قرآن کے اسی منشاء کو سمجھ کر اسلام میں مضاربہت کو جائز اور سودی قرض کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔

وَذَرْ دُوْمَاْيِقَيْ مِنَ الرِّبَوْلَوْسَ سے آپ نے جو استدلال کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے یعنی اسی ذمائنے کے لیے ایک وقتی حکم نہ تھا بلکہ قرآن کے دوسرے احکام کی طرح ایک ابدی حکم تھا، جب اور جہاں بھی کوئی آدمی ایمان لائے وہ اس حکم کا خواطیب ہے۔ اُسے اگر کسی سے اپنے دیئے ہوئے قرض پر سود لینا ہو تو اس کو سود کا مطالیبہ چھوڑنا ہو گا اور صرف اپنے دیئے ہوئے راس المال کی دالپی پر اکتفا پڑے گا۔ علاوہ بریں اس آیت سے آپ کا استدلال اس دعوے پر مبنی ہے کہ اس وقت کی اقسام قرض کا رو باری نوعیت کے سود سے خالی تھیں۔ یہ دعویٰ خود محتلِج ثبوت ہے، اسے دلیل کیسے بنایا جاسکتا ہے۔ جن اقسام قرض کا آپ بار بار خواہ دیتے ہیں کہ یہ صرف ذاتی نوعیت کے قرض ہی ہو سکتے تھے، خود ان میں یہ احتمال موجود ہے کہ ایک چھوٹا تاجر کسی بڑے تاجر سے قرض پر مال لے کر جاتا ہو اور بڑا تاجر اس پر اصل قیمت کے علاوہ سود بھی حاصل کرتا ہو، پھر جب وہ مدت مقررہ کے اندر پوری قیمت ادا نہ کرتا ہو تو وہ مزید چہلت دے کر سود میں اور اضافہ کر دیتا ہو۔ اس طرح کے سود کے بقا یا بھی تو حکم ذر دوامابقی من الربولوکی زد میں آ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ ان بقا یا میں اس نوعیت کے بقا یا شامل نہ ہوتے تھے۔

میرے نزدیک اگر تجارتی سود کو حکم ربوکے تحت لانے یا ان لانے کی بنا پر گمان ہی پر چوڑا گرچہ واقعہ یہ نہیں ہے، تب بھی گمان پر ایک امکانی حرام کو حلال کر دینا اس سے فریادہ خطرناک ہے کہ اسے حرام مان کر اس سے اجتناب کیا جائے۔ حدیث کا یہ حکم صاف ہے کہ **دَعَا الرَّبِيعُ وَالرَّبِيعُ سُودَ كُوْبَيْ حَصْوَرُ وَأَوْرَاسٍ چِيزَ كُوبَيْ**

جس میں مسود کا شکر ہو۔ یہ بات میں برسیل تنزلِ محض آپ کی اس بات کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ تجارتی مسود کو حرام قرار دینے کی بنیادِ محض گمان ہے۔ درجے اس امر میں کوئی شکر نہیں ہے کہ یہ قطعاً حرام کے تحت آتا ہے اور اس کے حرام ہونے کی بنائگان نہیں ہے بلکہ قرآن اور سنت کے محکمات ہیں۔

مجھے اس بات کی مرتبت ہے کہ آپ نے خود اپنے پروایٹ فنڈ کے سود کے معاملہ میں میرا مشورہ قبول فرمایا ہے آپ سے توقع بھی ہے کہ کم از کم اپنی ذات کو تو مال مشکوک کے فائدے سے محفوظ رکھیں گے۔ خدا کرے کہ آپ اسے دوسرا وہ کے لیے حلال کرنے کی فکر بھی نچھوڑ دیں اور مالیات کے مسائل پر بخوبی و بصیرت آپکو حاصل ہے اسے ایک غیر مسودی نظام مالیات مرتب کرنے میں استعمال کریں۔

آپ کے آخری سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے ائمہ کا ترجیح نفع کے مقابل کی وجہ سے گناہ کے بجائے نقصان کیا ہے۔ ویسے یہ زبان کے اعتبار سے خلط بھی نہیں ہے، کیونکہ ائمہ کے اصل معنی خیر مطلوب کو پہنچنے میں قادر ہ جانتے کے ہیں۔ اسی معنی کے لحاظ سے عرب کہتے ہیں ائمۃ الناقۃ، یعنی اولین سُعْدیت رفقاء ہے جو تیز رفتاری اس سے مطلوب ہے اس میں کوتاہی برنتی ہے۔

ترجمان القرآن حرم صفر مکملہ (۱۴۵۰ھ) اکتوبر نومبر ۱۹۳۷ء

ادارہ ثقافتِ اسلامیہ کا سوال نامہ

اور اس کا جواب

(۱۹۴۰ء کے اوائل میں ادارہ ثقافتِ اسلامیہ، لاہور نے ایک مجلسِ مذاکرہ منعقد کی تھی جس میں مودود کے متعلق چند اہم سوالات زیر بحث آئئے گئے تھے۔ اس غرض کے لیے ادارہ نے ایک سوال نامہ مرتب کیا تھا جو زیر بحث مسائل پر مشتمل تھا یہ سوال نامہ اور اس کا جواب مصنف نے دیا تھا وہ یہاں درج کیا جاتا ہے)

سوال نامہ

- (۱) عرب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ میں قرض لینے دینے کی شکل کیا تھی؟
- (۲) لفظ "ربو" کے معنی۔
- (۳) "ربو" اور "ربح" میں فرق۔
- (۴) ربلو میں قرض دینے والا اشرائط مقرر کرتا ہے اور بنک انٹرست میں قرض لینے والا پیش کرتا ہے۔
- (۵) بچ سلم اور کرشل انٹرست میں کیا فرق ہے۔ ایک شخص ایک بھیں

جو روزانہ دس سیر ڈو دھو دستی ہے، دوسرا ہے کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھی اس کے ڈو دھیں سے پانچ سیر ہمیں دے دیا کرو۔ یہ جائز ہے تو پھر اس میں اور منافع پر و پہیہ قرض دینے میں کیا فرق ہے؟

(۶) ہم جنس کا تبادلہ ہم جنس سے تفاضل کے ساتھ کیوں ناجائز ہے جب کہ غیر ہم جنس کے ساتھ تفاضل جائز ہے؟

(۷) تجارت میں طرفین کی رضامندی لازمی ہے یا نہیں؟ بعض کے نزدیک تراضی طرفین کی عدم موجودگی ہی ربوکی پیدا کرتی ہے نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا حرمت ربوکی ہی بیاد تھی کہ اس میں ایک پارٹی پر ظلم ہوتا ہے؟ کمرشل انٹرسٹ میں کسی پارٹی پر جنگی ظلم نہیں ہوتا۔ اگر یہ درست ہے کہ کسی پارٹی پر ظلم نہیں ہوتا تو بنک انٹرسٹ ربوکے تحت کیسے آسکتا ہے؟

(۸) (۸) صنعتی اداروں کے معمولی حصے۔

(ب) ان کے ترجیحی حصے۔

(ج) بنکوں کا فائدہ ڈیپاڑٹ۔

(د) بنکوں سے لیٹر آف کریڈٹ کھولنا۔ اس کے مختلف پہلو۔ اگر لیٹر آف کریڈٹ کی بناء پر تجارت کے لیے قرض لینا ناجائز ہے تو اس کے لیے جائز صورت کیا ہوگی جس سے نظام تجارت میں خلل نہ پڑے؟

(ه) ہاؤس بلڈنگ، فناں کار پوریشن اور انڈسٹریل فناں کار پوریشن۔

(و) گورنمنٹ کے قرضے (۱) اپنے ملک سے (۲) غیر ملکوں سے۔ اگر یہ تمام قرضے ناجائز ہیں تو پھر گورنمنٹ کی مشینزی چلانے کے لیے کیا تجارتی ہو سکتی ہیں؟

جواب

پہلا سوال

پہلے سوال میں دراصل تنقیح طلب امور یہ ہیں:-

- (۱) نزول قرآن کے زمانہ میں تجارتی، صنعتی، زراعتی اور ریاستی اغراض کے لیے۔
- قرض کے لین دین کا دنیا میں عام روایج تھا یا نہیں؟
- (۲) ان قرضوں پر فود لگایا جاتا تھا یا نہیں؟
- (۳) اہل عرب میں یہ بابت پوری طرح معروف تھی یا نہیں کہ ان اغراض کے لیے بھی قرض کا لین دین ہوتا ہے؟ اور
- (۴) اس نوعیت کے قرضوں پر اصل سے زائد کچھ وصول کیا جاتا تھا اس کے لیے بڑی کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی یا لفظ عرب میں اس کے لیے کوئی دوسرافاظ مستعمل تھا؟

ان تنقیحات پر کلام کرنے سے پہلے ہمیں قبل اسلام کے عرب کی معاشی تاریخ اور بیرونی دنیا سے اس کے تعلقات پر ایک نگاہ ڈال لیں چاہیے تاکہ یہ غلط فہمی نہ رہے کہ عرب دنیا سے الگ تخلگ پڑا ہوا ایک ملک تھا جس کے باشندے اپنی دادیوں اور صحراؤں سے باہر کی دنیا کو کچھ نہ جانتے تھے۔

زمانہ قدیم کی تاریخ سے متعلق جو مواد آج دنیا میں موجود ہے، اس سے یہ بابت پوری طرح ثابت ہے کہ اس زمانے میں چین، ہندوستان اور دوسرے مشرقی ممالک کی اور اسی طرح مشرقی افریقہ کی جتنی تجارتی بھی مصر، شام، ایشیائی شے کو چک، یونان اور روم کے ساتھ ہوتی تھی وہ سب عرب کے واسطے سے ہوتی تھی۔ اسی تجارت کے لئے راستے راستے تھے۔ ایک ایران سے خشکی کا راستہ جو عراق اور شام ہوتا ہوا جاتا تھا۔ دوسری طیاری فارس کا بھری راستہ جس سے تمام تجارتی سامان عرب کے مشرقی سواحل پر اترتا اور دومنہ الجندل یا تندمر (Palmyra) ہوتا ہوا آگئے جاتا تھا۔

تیسرا بھرہند کا راستہ جس سے آئے جانے والے تمام اموال تجارت حضرموت اور یمن سے گزرتے تھے۔ یہ تینوں راستے وہ تھے جن پر عرب آباد تھے۔ عرب خود بھی ایک طرف سے مال خرید کر لے جاتے اور دوسرا طرف اسے فروخت کرتے تھے جملہ نقل کا کاروبار (Carrying trade) بھی کرتے تھے۔ اور اپنے علاقے سے گورنے والے قافلوں سے بھارتی نیکس لے کر انہیں بحفاظت گزارنے کا ذمہ بھی لیتے تھے۔ ان تینوں صورتوں سے ہمیشہ یمن الاقوامی تجارت کے ساتھ ان کا گہرا تعلق رہا۔ ۲۷۰۰ء میں قبل مسیح سے یمن اور مصر کے تجارتی تعلقات کا صاف ثبوت ملتا ہے۔ ۱۷۰۰ء میں قبل مسیح میں بنی اسماعیل کے تجارتی قافلوں کی سرگرمیوں پر توراۃ شہادت دینیتی ہے۔ شمالی حجاز میں مدین (رمدیان) اور مدائن کی تجارت ڈیرہ صہراہ ہزار برس قبل مسیح اور اس کے بعد کئی صدی ہمک چلتی نظر آتی ہے۔ حضرت سلیمان مکے زمانے (ایک ہزار سال قبل مسیح) سے یمن کے سبائی قبائل اور ان کے بعد حجیری قبیلے ابتدائی مسیحی صدیوں تک مسلسل تجارتی نقل و حرکت رہے ہیں۔ مسیح علیہ السلام لگ بھگ زمانے میں فلسطین کے یہودی عرب، اگریثرب، خیبر، دادی القُرْبَی (موجودہ العلام) تیماہ اور تبوک میں آباد ہوئے اور ان کے دائی تعلقات، مذهبی بھی اور ثقافتی بھی، شام و فلسطین اور مصر کے یہودیوں کے ساتھ برقرار رہے۔ عرب میں شام اور مصر سے غلبہ اور شراب دد آمد کرنے کا کام زیادہ تر یہودی کرتے تھے۔ پانچوں صدی سے قریش نے عرب کی بیرونی تجارت میں غالب حصہ لینا شروع کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک ایک طرف یمن اور جوش سے، دوسرا طرف عراق سے، اور تیسرا طرف مصر و شام سے ان کے نہایت وسیع تجارتی تعلقات تھے۔ مشرقی عرب میں ایران کی جتنی تجارتیں اس کے ساتھ تھیں کہ بہت بڑا حصہ بیرونی سے یمامہ (موجودہ ریاض)، اور پھر بنی تمیم کے علاقے سے گزرتا ہوا نجران اور میں جاتا تھا۔ صدر برس کے ان وسیع تجارتی روابط کی موجودگی میں یہ فرض کرنا بالکل خلاف عقل ہے کہ بیرونی دنیا کے ان ممالک میں جو مالی معاملات اور کاروباری طریقے مردیج تھے ان کی عرب کے لوگوں کو خبر نہ ہو۔

ان تجارتی تعلقات کے علاوہ سیاسی اور ثقافتی اعتبار سے بھی عرب کے لوگوں کا اپنے گرد و پیش کی جہت دنیا سے گھر ارباط تھا۔ چھٹی صدی قبل مسح میں شمالی چجاز کے مقام تیماء کو بابل کے بادشاہ نبوبونیدوس (Nabonidus) نے اپنا گرمائی دارسلطنت بنایا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ بابل میں جو معاشی قوانین اور طریقے رائج تھے ان سے چجاز کے لوگ بے خبر رہ گئے ہوں تیری صدی قبل مسح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک پہلے پطرا (Petra) کی بُطْلی ریاست، پھر تہذیب کی شامی ریاست، اور اس کے بعد حیرہ اور غستان کی عربی ریاستیں عراق سے مصر کے حدود تک اور چجاز نجد کے حدود سے الجزیرہ اور شام کے حدود تک مسلسل قائم رہیں۔ ان ریاستوں کا ایک طرف یونان و روم سے، اور دوسری طرف ایران سے نہایت گھر اسیاسی، تمدنی، تہذیبی اور معاشی تعلق رہا ہے۔ پھر نسلی رشتہوں کی بنادر اندر ورن عرب کے قبائل بھی ان کے ساتھ وسیع تعلقات رکھتے تھے۔ مدینہ کے انصار اور شام کے غسانی فرمان روایا ایک ہنسی سے تھے اور ان کے درمیان بیہم تعلقات قائم رہے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں خود آپ کے خاص شاعر حضرت حشان رہبین ثابت غسانی امراء کے ہاں آتے جاتے تھے۔ حیرہ کے امراء سے قریش والوں کا بہت میل جوں تھا، حتیٰ کہ قریش کے لوگوں نے لکھنا پڑا معاجمی اہنی سے سیکھا اور حیرہ ہی سے وہ رسم الخط انہیں ملا جو بعد میں خط کوفی کے نام سے مشہور ہوا۔ کس طرح باور کیا جاسکتا ہے کہ ان تعلقات کے ہوتے ہی لوگ یونان و روم اور مصر و شام اور عراق و ایران کے مالی و معاشی معاملات سے بالکل ناواقف رہ گئے ہوں۔

مزید برآں عرب کے ہر حصے میں شیوخ، اشراف اور بڑے بڑے تاجر ووں کے پاس روچی، یونانی اور ایرانی لونڈیوں اور غلاموں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ایران و روم کی لڑائیوں میں دونوں طرف کے جنگی قیدی غلام بنائے جاتے تھے، ان میں سے زائد از صفر و رست تعداد کو سکھلے بازار میں فروخت کر دیا جاتا تھا، اور عرب اس مال کی بڑی منڈیوں میں سے ایک تھا۔ ان غلاموں میں اچھے خاصے پڑتے

لکھے جہترب لوگ بھی ہوتے تھے اور صنعت پیشہ اور تجارت پیشہ لوگ بھی۔ عرب کے شیوخ اور تجاران سے بہت کام لیتے تھے۔ مگر، طائف، یثرب اور دوسرے مرکزوں میں ان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور یہ کارگروں کی حیثیت سے، یا تجارتی کارکنوں کی حیثیت سے اپنے آقاوں کی قیمتی خدمات بجا لاتے تھے۔ آفریقہ کس طرح ممکن تھا کہ اپنے ان مددگاروں کے ذریعے سے کسی عرب تاجر کے کام میں کبھی یہ بات نہ پڑی ہو کہ گرد پیش کی دنیا میں مالی و کاروباری معاملات کے کیا طریقے رائج ہیں۔

اس کے ساتھ عرب کی معاشی تاریخ کا ایک اور پہلو بھی نگاہ میں رہنا چاہئے۔

عرب کسی زمانہ میں بھی نہ تو خود را کسے معاملہ میں خود کفیل رہا ہے، اور نہ وہاں الیکٹرونی کو فروغ نصیب ہوا ہے جن سے تمام ضرورت کے سامان ملک ہی میں فراہم ہو جاتے ہوں۔ اس ملک میں ہمیشہ اشیاء کے خوردگی بھی باہر سے درآمد ہوتی رہی ہیں اور ہر طرح کی مصنوعات بھی، حتیٰ کہ پیغام کے کپڑے بھک نریادہ تر باہر رہی سے آتے رہے ہیں۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کے عہد میں یہ درآمدی تجارت نریادہ تر دگر دنہوں کے ہاتھ میں تھی۔ ایک قریش اور ثقیف۔ دوسرے یہود۔ لیکن یہ لوگ مال درآمد کے صرف تھوک فروشی ہی کرتے تھے۔ اندر وین ملک کی چھوٹی چھوٹی بستیوں اور قبائلی ٹھکانوں میں خودہ فروشی کرنا ان کا کام نہ تھا، وہ ہو سکتا تھا اور نہ قبائل اس بات کو کبھی گوارا کر سکتے تھے کہ سارے تجارتی فائدے سے یہ لوگ کوٹ سے جائیں اور ان کے اپنے آدمیوں کو اس اجارہ داری میں گھسنے کا کسی طرف سے راستہ نہ سپلے۔ اس لیے تھوک فروش کی حیثیت سے یہ لوگ اندر وین ملک کے خودہ فروش تاجروں کے ہاتھ لاکھوں روپے کا مال فروخت کرتے تھے، اور اس کا ایک معنید برصغیر اور دھار فروخت ہوتا تھا۔ شاید دنیا میں تھوک فروش اور خودہ فروش کے درمیان کبھی اور کہیں غالباً نقد لینے دین کا طریقہ رائج نہیں رہا ہے۔ اس لیے دین میں اور دھار بالکل ناگزیر ہے جس سے کبھی مفر نہ تھا۔ اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ صرف عرب ہی میں اس وقت یہ لیو، دین بالکل نقد انقدر کی مشط پر ہوتا تھا اور قرض کا اس میں کوئی دخل نہ تھا، تو عقلًا بھی یہ قابل قبول نہیں ہے،

اور تاریخی طور پر بھی یہ غلط ہے، جیسا کہ میں آگے چل کر بتاؤں گا۔

ابس میں تیکھات کو لیتا ہوں جن کا ذکر میں نئے آغاز میں کیا تھا۔

یہ امر کہ قدیم زمانے میں قرض صرف ذاتی و شخصی ضرورتوں ہی کے لیے نہیں لیا جاتا تھا بلکہ تجارتی، صنعتی اور زراعتی اغراض کے لیے بھی اس کا عام رواج تھا اور حکومتیں بھی اپنی ریاستی اغراض کے لیے قرض لیتی تھیں، تاریخ سے بالکل ثابت ہے اور یہ دعویٰ کرنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے کہ پرانی دنیا میں قرض کا لین دین صرف شخصی حاجتوں کے لیے ہوتا تھا۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ قرض پر اصل سے تماں کا ایک طبقہ مقدار مال لینے کا طریقہ شخصی اور کاروباری معاملات کے درمیان کسی قسم کا امتیاز لیکے بغیر ہر قسم کے قرضوں کی صورت میں راجح تھا۔

اسائیکلو پیڈ یا برلنیکار (Babylonian) کے مضمون (Banks) میں بیان کیا گیا ہے کہ بابل اور مصر کے مندرجہ صرف عبادت گاہ ہی نہ تھے بلکہ بنیک بھی تھے۔ بابل کے آثار قدیمہ میں جو گلی تختیاں (Clay tablets) ملی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ زمیندار فصل سے پہلے اپنی زرعی ضروریات کے لیے مندرجہ میں سے قرض لیتے تھے اور فصل کا شنس کے بعد مع سودیہ قرض ادا کرتے تھے۔ یہ سا ہو کاری نظام دو ہزار برس قبل مسیح میں پایا جاتا تھا۔ چھٹی صدی قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں پرا ہبوبیٹ بنیک بھی بابل کے (Lgibi Bank) کا وجود ملتا ہے جو زمینداروں کو زرعی اغراض کے لیے قرض دیتا تھا۔ نیز یہ بنیک لوگوں کے ڈپاٹی اپنے پاس رکھ کر ان پر سودا دا بھی کرتا تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہی زمانہ تھا جب شمالی چڑاز کا شہر تھا بابل کی سلطنت کا گرمائی دار اسلامیت تھا۔

ولڈورانٹ اپنی کتاب (A story of civilisation) میں بابل کے متعلق لکھتا ہے۔

”ملک میں از مر و سے قانون ۷۰۰ قی صدی نقدر و پے کے قرضوں پر اور ۳۳۰ قی صدی سالانہ اجتناس کی صورت میں قرضوں پر سود مقرر تھا بعض طاقتور

خاندان نسلًا بعد نسل ساہو کارسے کا کام کرتے اور صنعت پیشہ بوجوں کو مسود پر قرضے دیتے تھے۔ ان کے علاوہ مندوں کے پروہنست فصلوں کی تیاری کے لیے زمینداروں کو قرض فریا کرتے تھے۔“
اس سلسلے میں آگے چل کر یہی صنعت لکھتا ہے:-

ایک دبائی طرح پھیل ہوئی مسود خواری وہ تیجت بھی جو ہماری صنعت کی طرح بابل کی صنعت بھی ایک پیغمبریہ نظام قرض کے ذریعہ سے سیراب ہونے کے پدالہیں ادا کر رہی تھی۔ بابل کا تمدن اصلاً ایک تجارتی تمدن تھا۔ جتنی دستاوریزیں بھی اس کے آثار سے اس زمانہ میں برآمد ہوئی ہیں وہ زیادہ تر کار و باری نوعیت کی ہیں۔ فروخت، قرضے، ٹھیکے، شراکت، دلالی، مہاذہ اقرار نہیں، تمسکات اور اسی طرح کے دوسرے امور۔“

سیرا بکی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ ساتویں صدی قبل مسیح میں سینا کریب کے زمانے کا حال بیان کرتے ہوئے دل ڈورانٹ لکھتا ہے:-

”صنعت اور تجارت کو ایک حد تک بھی کار و بار کرنے والے ساہو کار سرمایہ فراہم کر کے دیتے اور ان قرضوں پر ۲۵ فی صدی سالانہ مسود وصول کرتے تھے۔“

يونان کے متعلق انسائیکلو پیڈیا برلنیکا کے مضمون (Banks) میں بیان کیا گیا ہے کہ پوتھی صدی قبل مسیح سے وہاں بنیک کاری کے باقاعدہ نظام کا ثبوت ملتا ہے۔ اس نظام میں ایک قسم کے بنیک وہ تھے جو لوگوں کے مال بطور امانت اپنے پاس رکھتے تھے اور اس پر مسود دیتے تھے۔

ول ڈورانٹ لکھتا ہے کہ پانچویں صدی قبل مسیح ڈلفی کا اپاومندر تمام یونانی

دنیا کا بین الاقوامی بینک تھا۔ اس سے اشخاص کو بھی اور ریاستوں کو بھی معتدل شرح سُود پر قرضے حاصل ہوتے تھے۔ اسی طرح پرائیویٹ صراف ۱۶۷۳ء سے ۲۰۰۰ء تک شرح سُود پر تاجر و مسافروں کو قرضے دیتے تھے۔ یونانیوں یہ طریقے مشرق قریب رہا۔ مصر اور شام سے سیکھے اور بعد میں روم نے ان طریقوں کو یونان سے سیکھا۔ پانچویں صدی کے آخر میں بعض برطانیہ پر ایڈم بینک یونان میں قائم ہو چکے تھے۔ انہی کے ذریعہ سے ایقمنز کی تجارت پھیلنی شروع ہوئی۔ اس کے بعد روم کا دور آتا ہے۔ ول ڈوست لکھتا ہے کہ:-

دوسری صدی قبل مسیح میں روم کی بینک کاری پورے عروج پر تھی
ساہو کار لوگوں کے ڈپازٹ رکھتے تھے اور ان پر سُود ادا کرتے تھے۔
قرض لیتے بھی تھے اور دیتے بھی تھے۔ کار و بار میں اپناروپیہ لمحی لگاتے تھے اور دوسروں کا بھی لگواتے تھے۔ پہلی صدی عیسوی میں رومی سلطنت کے ہر حصے میں بینک قائم ہو چکے تھے۔ بینک کاری کے دوسرے کاموں کے ساتھ یہ لوگوں کے ڈپازٹ رکھ کر سُود دیتے اور آگے روپیہ قرض دے کر سُود و صول کرتے تھے۔ یہ کار و بار زیادہ تر یونانیوں اور شامیوں کے ہاتھ میں تھا۔ گال (Gall) میں تو شامی اور ساہو کار و باروں ہم معنی لفظ ہو گئے تھے۔ اس زمانہ میں سرکاری خزانہ بھی زمینداروں کو فضل کی کفالت پر سُودی قرضے دیتا تھا۔ آگسٹس کے زمانہ میں شرح سُود ۷٪ فی صدی تک گزگزی تھی۔ اس کے مرنسے کے بعد شرح ۶٪ فی صدی تک اور گھشتیلین کے زمانہ میں ۴٪ فی صدی تک پر طبع گئی۔

اس پہلی صدی عیسیوی کے متعلق بیرن (Baron) اپنی کتاب (A Religions and social History of Jews) میں بیان کرتا ہے کہ اسکندریہ کے یہودی بینکر زالیگزینڈر ڈیسٹریوس نے یہودیہ کے بادشاہ اگر بیبا اول کو دو لاکھ درہم رتفعیاً ۳۰ ہزار ڈال قرض دیئے تھے۔

نبی مصطفیٰ علیہ وسلم سے بالکل قریب کے زمانہ میں قیصر و محبوب طیبین نے (جس کی وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف پانچ برس قبل ہوئی تھی) تمام بیرونی سلطنت میں ازروں گے قانون زمینداروں اور کاشت کاروں کے قرضوں پر ۴٪ فی صدی شخصی قرضوں پر ۶٪ فی صدی، تجارتی اور صنعتی قرضوں پر ۸٪ فی صدی، اور بحری تجارت کے قرضوں پر ۱۲٪ فی صدی شرح سود مقرر کی تھی۔ یہ قانون جب طیبین کے بعد بھی ایک مدت تک بیرونی سلطنت میں راستہ رائج رہا یہ یہ بات فراموش نہ کرنی چاہیئے کہ جس بیرونی سلطنت میں سود کا یہ قانون راستہ تھا اس کی سرحدیں شمالی حجاز سے ملی ہوئی تھیں۔ شام، فلسطین اور مصر کے تمام علاقوں اس کے زیر نگہیں تھے۔ قریش کے تاجر ان علاقوں کی منڈیوں میں پیغمبر آمد و رفت رکھتے تھے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے آغاز بوتا ہے مسلسل تجارتی قافلوں کے ساتھ ان منڈیوں میں جلتے رہتے تھے۔ آخر یہ بات کیسے فرض کی جاسکتی ہے کہ قریش نے اس کے ان تاجریوں کو اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بازاروں میں کاروبار کرتے ہوئے کبھی یہ پتہ نہ چلا کہ بیرونی سلطنت میں تجارت، صنعت اور زراعت کی اغراض کے لیے بھی قرض کے لیے دین کاروبار ہے اور اس پر ازروں گے قانون سود کی شرطیں مقرر ہیں۔^{۱۷}

لئے جلد اول، ص ۲۹۱

تلہ دل ڈورانٹ، جلد چہارم، ص ۲۳۶، ۱۲۰۔ گین، ازروں، سقوط دولتِ روم، ج ۲، ص ۱۶۷۔

لئے حجاز سے قریش کے چو قالے تجارت کے لیے فلسطین و شام جاتے تھے ان کی عظمت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر ابوسفیان کی قیادت میں رباتی صفحہ ۲۰۷ پر)

عین نہ مانند بتوت میں روم اور ایران کے درمیان وہ زبردست لڑائی ہوئی تھی جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ روم میں کیا گیا ہے۔ اس لڑائی میں جب ہرقل نے خسرو پرویز کے مقابلہ پر تجویز جنگ کا آغاز کیا، اس وقت اپنی جنگی ضروریاں کے سیلے اسے کیا اور کی جمع شدہ دولت سود پر قرض لینی پڑی تھی۔ اب کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ جن عظیم اشان لڑائی نے عراق سے مصر تک عرب کے سارے بالائی حصے کو تہ و بالا کر کے زکھ دیا تھا، جس میں ایران کی زبردست فتوحات کے ہر طرف پر چھے ہو رہے تھے، اور جس میں سلطنت روم کے گرتے ہوئے قصر کو بچانے کے بعد اب قیصر نے یکا یک خسرو کے مقابلے پر وہ حیرت انگیز پیش قدمی کی تھی جو ساسانی دارالسلطنت، مدائن کی تباہی پر جا کر ختم ہوئی، اس لڑائی کا یہ واقعہ عرب کے لوگوں سے بالکل پوشیدہ درہ گیا ہو گا کہ قیصر نے اپنی اس پیش قدمی کے لیے سرمایہ کلیساؤں سے سود پر حاصل کیا ہے؟ محسوسوں سے عیسائیت کو بچانے اور بیت المقدس ہی کو نہیں مقدس صلیب کو بھی مشرکین کے قبضے سے لکانے کے لیے جنگ کی جائے، اور کلیسا کے پادری اس کا یہ خیر کے لیے سود پر قرض دیں، ایہ عجیب و غریب واقعہ آخر ان لوگوں کے علم میں آنے سے کیے بچ سکتا تھا جن کی نگاہیں دنیا کی ان دو عظیم ترین سلطنتوں کی جنگ کے نتیجے پر لگی ہوئیں

(لبقیہ حاشیہ صفحہ ۲۰۷) جو قافلہ شام سے مکہ کی طرف واپس جا رہا تھا اس میں ڈھائی ہزار اونٹ تھے۔ ظاہر ہے کہ اتنے برطانیے قافلے کو لے کر ہو لوگ گئے ہوں گے ان کی تعداد دو ڈھائی ہزار سے کیا کم ہو گی۔ اب کیا یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ جہاں اتنی برطانی تعداد میں ایک شہر کے تاجر کسی دوسرے ملک کو جاتے ہوں، وہاں کے باشندے اس بات سے بالکل بے خبر رہتے تھے کہ اس دوسرے ملک میں مالی معاملات کے کیا طریقے رائج ہیں۔

Cambridge economic history of Europe Vol - 2 - Page - 90 (Gibbon Decline and Fall of the Roman Empire Vol - 2

تجھیں بخصوص قریش اس سے کیسے ناواقف ہو سکتے تھے جب کہ سورہ روم کے نازل ہونے پر اسی جنگِ روم و ایران کے معاملہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سردار ان قریش کے درمیان یاقا عدہ شرعاً لگے چکی تھی؟

یہاں تک جو کچھ ہیں نے عرض کیا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل عرب کے ہنہایت قریبی تعلقات مشرق اوسط کی معاشی و تمدنی اور سیاسی زندگی کے ساتھ قدح کرنے والے سے والبستہ رہے ہیں، اور اس خطہ زمین میں ڈھانی ہزار سال سے تجارتی، صنعتی، اور ریاستی اغراض کے لیے قرض کے لین دین اور اس پر مدد و صول کرنے کا رواج رہا ہے، اور اہل عرب کا اس روایج عام سے بے خبر اور غیر متاثر رہنا قطعاً قابل تصور نہیں ہے۔

ابن خود عرب کے مالی معاملات کو دیکھیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھے۔ میں پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ عرب کی ضروریات کے لیے غله اور شراب زیادہ تر یہودی درآمد کرتے تھے اور باقی دوسرا سامان زیادہ تر کہ اور طائف کے تاجر یہود فی علاقوں سے لاتے تھے۔ میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ قریش اور ثقیف اور یہود کا پارہ کار و بار تھوک فروشی کی حد تک تھا۔ اندر وین ملک میں خورده فروشی دوسرے لوگ کرتے تھے اور وہ ان تھوک فروشوں نے مال خرید کر لے جایا کرتے تھے۔ میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ تھوک فروشوں اور خورده فروشوں کے درمیان بالکل نقدانقد کی شرط پر کار و بار دنیا کبھی نہیں رہا ہے۔ اور عرب میں بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد ذمہ اُن روایات کو بلا حظہ فرمائیے جو ایت ربوکی تفسیر میں عہد و مالیت سے قریب زمانہ کے مفسرین سے منقول ہوئی ہیں۔ ضحاک ڈرُوَامَا بَقِيٌّ مِنَ السِّرْبُوكِ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

كَانَ رِبَّاً يَتَبَأَّلُونَ بِهِ فِي الْجَاهِيلِيَّةِ۔

یہ وہ سوود تھا جس کے ساتھ جاہلیت میں لوگ خرید و فروخت کرتے تھے۔

قادہ کہتے ہیں۔

إِنَّ رِبَّاً أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَدْعُوُ إِلَى الرَّجُلِ الْكَبِيرِ إِلَى
مُسْهِنِي فَرَأَهَا حَلَّ الْأَجْلَ وَكَحْدَيْكُنْ عِنْدَ صَاحِبِهِ قَضَاءَ
ذَادَةَ وَخَرَعَتْ لَهُ

اہل جاہلیت کا ربا یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کے ہاتھ
مال فروخت کرتا اور قیمت ادا کرنے کے لیے ایک تدریس طے ہو جاتی۔
اب اگر وہ تدریس پوری ہو گئی اور خریدار کے پاس اتنا مال نہ ہو اکم قیمت
ادا کرنے سے تو بینپے والامال پر نہ اندر قم عائد کر دیتا اور چہلست بڑھا دیتا۔
سندھی کہتے ہیں۔

نَوَّلَتْ هَذَا الْقَيْدُ فِي الْعِبَاسِ بَنْ عَبْدِ الْمَطَلِبِ
وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمَغِيرَةِ كَانَ شَرِيكَيْنِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ سَلْفًا
فِي السِّرِّيَا لِإِنَّ اَنَّاسَ مِنْ شَقِيقَتِ مِنْ بَنِي عَمْرٍ وَفَجَاءَ إِلَّا سَلَامٌ
وَلَهُمَا اَمْوَالٌ عَظِيمَةٌ فِي السِّرِّيَا

آہیت وَذَرْدُواصَا بَقِیٰ، مِنَ الْمِرْبَابِ عَبَاسَ بْنَ عَبْدِ الْمَطَلِبِ اور
بنی المغیرہ کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ دونوں

لٹے ابن جریر، ص ۶۷۔

لٹے ان الفاظ سے یہ بانت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ابتدائی چہلست جو قیمت کی ادائیگی کے لیے
دی جاتی تھی اس پر کوئی سود نہیں لگایا جاتا تھا، البته جب اس چہلست کے خاتمہ تک قیمت
ادامہ ہوتی تھی مزید چہلست محدود لگا کر دی جاتی تھی۔ اس طرح کی رہایت سود خوار معاملہ کے
عموم اور طے تاجر پھوٹے تاجر دوں کو اپنا مستقل گاہک بنانے کے لیے دیا کرتے ہیں، فاقد کش
خریداروں کو ایسی رہایت کہیں بھی نہیں دی جاتی۔

لٹے ابن جریر، ص ۱۷۔

جاہلیت کے زمانے میں شریک تھے اور انہوں نے ثقیف کے
بنی عمر و میں لوگوں کو سودی قرض پر مال دے رکھے تھے۔ جب اسلام
آیا تو ان دونوں کا بڑا اسرار مایہ سود میں لگا ہوا تھا۔

یہ سب روایات خوردہ فروشوں کے ہاتھ ادھار پر مال فروخت کرنے اور
اس پر سود لگانے کی خبر دیتی ہیں، اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس تجارتی سود کے لیے بھی
الربا کی اصطلاح ہی استعمال ہوتی تھی، کوئی دوسرا لفظ ایسا نہ تھا جو تجارتی قرضوں کے
سود پر بولا جاتا ہو جو خالص شخصی حاجات کے لیے حاصل کیے جاتے تھے۔

پھر بخاری میں سادت مقام است^ش پر اونٹنسائی میں ایک مقام پر صحیح مددوں کے
سامنے روایت نقل ہوئی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: بنی اسرائیل میں
سے ایک شخص نے دوسرے شخص سے تجارت کے لیے ایک ہزار دینار قرض
لیے اور کہا کہ میرے اور تیرے درمیان الشدگواہ اور اللہ ہی کفیل ہے۔ پھر وہ بھری

لہ بخاری کتاب الزکوۃ رابعہ میتخرج من البحر، کتاب الشروط، کتاب الاستقراض، کتاب الکفار،
کتاب المقطبه، کتاب الاستیذان، اور کتاب البيروع۔

نہ نسائی، کتاب المقطبه

نہ اعتراف کیا جاسکتا ہے کہ روایت میں تجارت کے لیے "کہ الفاظ نہیں ہیں۔ لیکن یہ اعتراف کئی وجہ
سے غلط ہو گا۔ اول یہ کہ روایت میں قرض کے لیے آشُعَّت یُسْلِیْف کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جو قریب
قریب روپیہ ایک دو افس کرنے کا ہم معنی ہے اور زیادہ تو تجارتی معاملات کے باس میں ہی استعمال ہوتا
ہے۔ پھر قرض بھی اس نے ایک ہزار دینار (قریب اس ہزار روپیہ) لیا۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی رقم فاقہ کشی
ڈوکرنے یا اسے گور و کفن مردہ دفن کرنے کے لیے تو نہیں کیا ہو گی۔ مزید بھاگ وہ یہ رقم لے کر بھری سفر
روانہ ہوا اور وہاں اس نے اتناروپیہ کمایا کہ ایک ہزار دینار تو اس نے لکڑی کے لئے میں دکھ کر قرض خواہ
کو بھیجے اور پھر مزید ایک ہزار دینار لے کر خود اس کے پاس پہنچا۔ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ
عیاشی کے لیے نہیں بلکہ تجارت کے لیے روپیہ لے کر گیا تھا؟

سفر پر چلا گیا۔ وہاں جب وہ اپنے کاروبار سے فارغ ہوا تو والپی کے لیے اسے کوئی جہاز نہ ملا اور وہ مدت پوری ہو گئی جس کی قرداد دکر کے اس نے قرض یا تھا۔ آخراں نے یہ کیا کہ ایک لکڑی کے اندر سوراخ کر کے ایک ہزار دینار اس میں رکھ دیے اور قرض خواہ کے نام ایک خط بھی لکھ کر ساتھ رکھا اور سوراخ بند کر کے لکڑی سمندر میں چھوڑ دی اور اللہ سے دعا کی کہ میں نے تجھی کو گواہ اور کفیل بنائی کہ رقم اس شخص سے قرض لی تھی۔ اب تو ہی اسے اس تک پہنچا دے۔ خدا کا کرنایہ ہوا کہ قرض خواہ ایک روز اپنے ملک میں سمندر کے کنارے کھڑا تھا، یہاں ایک لکڑی کا ایک لٹھا اس کے سامنے آ کر رکھا۔ اس نے لکڑی کو اٹھا کر دیکھا تو قرض دار کا خط بھی اسے ملا اور ایک ہزار دینار بھی مل گئے۔ بعد میں جب یہ شخص اپنے وطن والپی پہنچا تو ایک ہزار دینار لے کر اپنا قرض ادا کرنے کے لیے داشت کے پاس گیا۔ مگر اس نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے میری رقم مل گئی ہے۔

یہ روایت اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ تجارت کے لیے قرض لینے کا تجھیں اس وقت عربوں میں غیر معروف نہ تھا۔

ابن ماجہ اور نسائی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے موقع پر عبد اللہ بن ربیعہ مخزوں سے ۳۰ یا ۴۰ ہزار درہم قرض لیے تھے اور جنگ سے والپی پر یہ قرض آپ نے ادا فرمایا۔ یہ ریاستی اغراض کے لیے قرض کی صریح مثال ہے۔

ایک دوست نے دو اور واقعات کی طرف بھی مجھے توجہ دلائی ہے جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ پہلا واقعہ ہندوستان عتبہ کا ہے کہ اس نے حضرت عمر

سلہ تاریخ طبری، بسلسلہ واقعات سلسلہ، عنوان شیئُ من سبرہ مها
لمدیض ذکر کرہ۔

سلہ کتاب العیون باب الاستقراض۔

رضی اللہ عنہ سے بیت المال کا چار ہزار روپیہ دغالاً درہم (تجارت کے لیے قرض حاصل کیا تھا۔)

دوسراؤ اقتہبھی حضرت عمر رضی الہ عنہ کے عہد کا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری ریاضہ کے گورنر نے بیت المال کا روپیہ حضرت عمر رضی الہ عنہ کے دو صاحبزادوں عبداللہ اور عبیداللہ کو تجارت کے لیے قرض دیا۔ مگر بعد میں حضرت عمر رضی الہ عنہ نے اس قرض کو مقابل اعتراف قرار دے کر اصل کے علاوہ پورے منافع کا بھی صاحبزادوں سے مطالبہ کیا، اور آنکہ کار لوگوں کے مشورے سے اس کو قرض کے بجائے قراض (مضارب) قرار دے کر آدھا منافع وصول کیا۔

یہ دونوں مثالیں زمانہ رجایہ سے ہیں قریب کے دور کی ہیں۔ عرب میں سو ۹۷ تک سودی کار و بار چلتا رہا۔ یہ واقعات اس کی آخری بندش سے صرف دس بارہ سال بعد کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنی تکمیل مدت میں تصورات نہیں بدلتے ہیں۔ اس لیے ان واقعات سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ قرض پر سرمایہ لے کر تجارت کرنے کا تصور عہد رجایہ میں بھی موجو د تھا۔

لہ ابواب التجارت: باب حسن القضاۃ۔

لہ مو طا کتاب القراض و باب سیرة عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔

اس کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ نہیں، دوسرے ہے بہت سے تختیلات ایسے ہیں جو اسلام کی آمد کے بعد پیدا ہوئے اور رجایہ میں موجود نہ تھے، انہی کی طرح یہ نیا تخلیل بھی اسلام کے بعد کی پیداوار اہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کہے تو ہم اس سے کہیں گے کہ بہت اچھا، یہ زمانہ اسلام ہی کی پیداوار ہی مگر اس سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ قرض پر سرمایہ لے کر تجارت میں لگانے کا طریقہ حضرت عمر رضی الہ عنہ کے زمانہ میں شروع ہو چکا تھا اور اس کے بعد جیسا کہ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک نوست یہاں تک پہنچ گئی کہ تنہ امام صاحب کی اپنی تجارت میں پائیج کروڑ روپیہ کا سرمایہ قرض لگا ہوا تھا۔ سوال یہ ہے کہ آخر صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہم صلی اللہ علیہم و آله و سلم و آمین پر

رہی یہ بات کہ اسلامی عہد کے مورخین اور محدثین و مفسرین نے شخصی حاجات اور تجارتی و کاروباری قرضوں کا واضح طور پر الگ الگ کیوں ذکر نہ کیا، تو اس کا ظاہر سبب یہ ہے کہ ان کے ہاں قرض کی خواہ جس غرض کے لیے بھی ہوں قرض ہی سمجھا جاتا تھا اور اس پر مسود کی حیثیت بھی ان کی نگاہ میں بکساں تھی۔ انہوں نے نہ اس تصریح کی کوئی خاص ضرورت محسوس کی کہ بھوکے مرتبے ہوئے لوگ پیٹ بھرنے کے لیے قرض لیتے تھے۔ اور نہ خاص طور پر اسی بات کو تفصیل سے بیان کرنا ضروری سمجھا کہ کاروبار کے لیے لوگ قرض لیا کرتے تھے۔ ان امور کی تفصیل اسٹ نال خال ہی گہیں تھیں جن سے صحیح صورت حال سمجھنے کے لیے عرب کے حالات کو اس وقت کی دنیا کے مجموعی حالات میں رکھ کر دیکھنا ناگزیر ہے۔ مختلف قرضوں کے درمیان ان کی انغراض کے لحاظ سے فرق و امتیاز کر کے ایک مقصد کے قرض پر مسود کو جائز اور دوسرے مقصد کے قرض پر اس کو ناجائز ٹھہرانے کا تنہیں غالباً پودھی صدی عیسوی سے پہلے دنیا میں پایا جاتا تھا۔ اس وقت تک یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے تمام اہل دین اور اسی طرح اخلاقیات کے ائمہ بھی اس بات پر متفق تھے کہ ہر قسم کے قرضوں پر مسود ناجائز ہے۔

ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ زمانہ قبل اسلام میں یہ ممکن ہی نہ تھا کہ لوگ قرض کے سرمایہ سے تجارت کر سکیں، کیوں کہ ممکن ہیں کوئی باقاعدہ حکومت نہ تھی،

(لبقیہ حاشیہ صفحہ ۲۱۳ سے) اور تابعین و تبع تابعین اور آئمہ مجتہدین میں سے کسی کی سمجھیں یہ بات کیوں نہ آئی کہ قرآن کا منشاء تو صرف شخصی حاجات کے قرض یعنی مسود کو حرام کرنا تھا، نفع اور قرضوں پر مسود حرام نہیں ہے؟

(Henry Prine, Economic and social History of Medieval Europe)

(English translation Edition Butler London 1949 Page - 140)

ہر طرف بد امنی پھیلی ہوئی تھی، تجارتی قافلوں کو بہت بھاری ٹیکس دے دے کر مختلف قبائل کے علاقوں سے گزرنا پڑتا تھا اور ان پُر خطر حالات کی وجہ سے مژرح سودتین چار سو فی صدی تک پہنچی ہوئی تھی جس پر قرض لے کر کار و بار میں لگانا کسی طرح نفع بخش نہ ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ قیاس آرائی اصل تاریخی حالات سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ مخصوص ایک مفروضہ ہے جو تاریخ سے بے نیاز ہو کر صرف اس گمان پر قائم کر لیا گیا ہے کہ عرب میں جب کوئی باقاعدہ حکومت نہ تھی اور عام بدمانی پھیلی ہوئی تھی تو صدر اس کے نتائج یہی ہوں گے۔ حالانکہ تاریخی واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اسلام سے قریب عہد میں ایران و روم کی پیغمبر ایامیوں اور سیاسی کشکش کی پدولت چین، اندونیشیا، ہندوستان اور مشرقی افریقہ کے ساتھ روئی دنیا کے جتنے بھی تجارتی تعلقات تھے ان کا واسطہ مکہ کے عرب تاجر ہی تھے خصوصاً میں پر ایران کا قبضہ ہو جانے کے بعد تورومیوں کے لیے مشرقی تجارت کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ ان حالات میں مشرق کا سارا مال تجارت خلیج فارس اور بحر عرب کی عربی بندرگاہوں پر اترتا اور وہاں سے مکہ پہنچ کر روئی دنیا میں جاتا تھا۔ اور اسی طرح روئی دنیا کے سارے اموال تجارت قریش ہی کے قابلے مکہ لاتے اور پھر ان بندرگاہوں تک پہنچاتے تھے جن پر مشرق کے تاجر آیا کرتے تھے۔ اولیا مری لکھتا ہے کہ اس زمانے میں ”مکہ“ بینک کاری کا مرکز میں گیا تھا جہاں دُور دراز علاقوں کے لیے ادائیگیاں کی جا سکتی تھیں، اور وہ بین الاقوامی تجارت کا گھر بنا ہوا تھا۔

یہ پہنچتی ہوئی تجارت آخر کیسے چل سکتی تھی اگر حالات وہ ہوتے جو فرض کر لیے گئے

(Mecca had become a Banking Center where payment could be made to man odistant lands a cleating house of International Commerce)

ہیں۔ معاشری قوانین کی سرسری و اقتصادی بھی یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جہاں بد امنی کی وجہ سے کاروبار اس قدر کثیر المصارف اور پر خطر ہو کہ تجارتی سود کی شرح تین چار سو فی صدی تک پہنچ جائے وہاں لازماً مال تجارت کی لاگت (Cost price) بھی اس حد تک بڑھ جاتی چاہیے کہ بیرونی منڈیوں میں لے جا کر انہیں منافع کے ساتھ فروخت کرنا غیر ممکن ہو جائے۔ آخر اتنی بڑھی ہوئی قیمتیوں پر یہ مال مصروف شام کے ہانداروں میں کیسے پک جاتا تھا؟ دراصل عرب میں اُس ساری بد امنی و بد نظمی کے باوجود جس کا ذکر کیا جاتا ہے، بڑے پیارے کی تجارت وہ قبیلے کرتے تھے جو بجائے خود طاقت ور ہوتے تھے بڑے بڑے قبیلوں سے جنہوں نے حلیفانہ معاملات بھی کر رکھے تھے، سود پر لاکھوں روپے کا مال قبیلوں میں پھیلا کر بھی جنہوں نے بکھرت لوگوں کو اپنے کاروبار کی گرفت میں لے لیا تھا، اور سردار ان قبائل کو ہر طرح کے سامان تعیش پہنچا کر بھی جنہوں نے اپنے وسیع اثرات قائم کر لیے تھے۔ اس کے علاوہ خود قبائل کا اپنا مفاد بھی اس کا مقاصدی تھا کہ ان کو وہ ناگزیر ضروریات زندگی، غلہ، کپڑا وغیرہ بھم پہنچائیں بواہر سے درآمد ہوتی تھیں۔ اس وجہ سے ان طاقت ور قبیلوں کو بڑے بڑے تجارتی قلعے لے کر، جن میں بسا اوقات ڈھائی ڈھائی ہزار اونٹ ہوتے تھے، عرب کے راستوں سے گزرنے کے لیے اس قدر بھاری لیکس نہیں دیتے پڑتے تھے، اور نہ خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے اس قدر خطری مصارف اٹھانے پر طاقتے تھے کہ اموال تجارت کی قیمتیں ناقابل فروخت تک پہنچ جائیں بیرونی تجارت کے علاوہ خود عرب کے مختلف حصوں میں سال کے سال تقریباً ۲۰ مرکزی مقامات پر باقاعدہ ہاٹ (سوق) ملکتے تھے جن کا ذکر ہمیں تاریخوں میں ملتا ہے۔ ان ہاٹوں میں عرب کے ہر ہر حصے سے قابلے ہر کفرید و فروخت کرتے، اور ان میں سے بعض میں روم و ایران اور چین و ہندوستان تک کے تاجر آیا کرتے تھے۔ یہ پہم تجارتی نقل و حرکت کیسے جاری رہ سکتی تھی اگر عرب کے حالات اُستھے ہی خراب ہوتے جتنے فرض کر لیے گئے ہیں۔ موڑھیں

نے قریش کے تجارتی کاروبار کے متعلق یہ تصریح کی ہے کہ وہ سونی صدی منافع لکھا
کرتے تھے۔ ایسے منافع کے کاروبار کے لیے سودی قرض پر سرمایہ نہ مل سکتا، اور
شرح سودتین چار سونی صدی تک ہو ناقطًا خارج از فهم ہے۔ اور اس دعوے
کے لیے کوئی تاریخی سند موجود نہیں ہے کہ عرب میں شرح سوداں قدر چڑھی ہوئی
تھی۔

دوسراسوال

لفظ ربُّ کے معنی لغتِ عرب میں تو زیادتی اضافے اور براہمودتی کے ہیں،
لیکن ”الربُّ“ سے اصطلاحًا جو چیز مراد ہے وہ خود قرآن ہی کے ان الفاظ سے
صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔

وَذَرْ دُؤْمَا مَا بَقِيَ مِنَ السَّرِبِيوْ..... قَرْآنٌ تُبَشِّرُكُمْ فَلَكُمْ
وَلُؤْمَى أَمْوَالِكُمْ..... قَرْآنٌ حَانَ ذُو هُسْرَةٍ فَتَظَرَّأَ إِلَيْهِ
مَيْسَرٌ تَقَرَّبَ.

سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو.....
اگر تم تو بہ کر لو تو تمہیں اپنے راس المال لینے کا حق ہے.....
..... اور اگر تمہارا دین دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلتے تک
اسے ہلست دو۔

یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ربُّ کا یہ حکم قرض کے معاملہ سے
متعلق ہے، اور قرض میں اصل سے زائد کچھ طلب کیا جائے وہ الربُّ ہے جسے
چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے اس کے علاوہ قرآن یہ کہہ کر بھی ربُّ کا مفہوم واضح کرتا
ہے۔ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ السَّرِبِيوْ۔ (الله نے بیع کو حلال اور ربُّ کو حرام کیا ہے)
ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ربُّ میں راس المال قرض دے کر جو کچھ اس سے زائد
لیا جاتا ہے وہ اُس منافع سے مختلف ہے جو بیع کے مال میں لاگت سے زائد
حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ربُّ مال کی وہ زیادتی ہے جو بیع کے طریقے

سے نہ ہو۔ اسی بنا پر محدثین، فقہاء اور مفسرین کا پورا اتفاق ہے کہ قرآن میں وہ ربو حرام کیا گیا ہے جو قرض کے معاملہ میں اصل سے زائد طلب کیا جائے۔

جیسا کہ پہلے سوال کے جواب میں تاریخ سے ثابت کیا جا چکا ہے، نزول قرآن کے وقت یہ امر عرب میں پوری طرح معلوم و معرفت تھا کہ قرض کا معاملہ صرف شخصی حاجات ہی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ کار و باری اور قومی اغراض کے لیے بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن نے رب کی حرمت کا حکم دیتے ہوئے ایسا کوئی اشارہ نہیں کیا ہے جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہو کہ اغراض کے اعتبار سے قرض اور قرض میں کوئی فرق ہے اور مسعود کی حرمت کا حکم صرف شخصی حاجات کے قرضوں کے لیے مخصوص ہے، اور نفع اور اغراض کے لیے جو قرض دیا جائے اس پر مسعود لگانا علال ہے۔ فقہاء اسلام بھی پہلی صدی ہجری سے آج تک اس اصول پر متفق رہے ہیں کہ **فَرِضْ حَرَمَةٍ** نفعاً فَهُوَ دَبْوَدٌ (ہر قرض جس کے ساتھ نفع حاصل کیا جائے رہا ہے) قریب کے زمان سے پہلے فقہاء کی اس متفقہ رائے سے اختلاف کی کوئی ایک مثال بھی تاریخ فقر سے نکال کر پیش نہیں کی جاسکتی۔

تمیسرا سوال

ربا اور زنج میں فرق یہ ہے کہ ربا قرض پر مال دے کر اصل سے زائد وصول کرنے کا نام ہے۔ اور اس کے بر عکس زنج سے مراد بیع میں لاگت سے زائد قیمت فروخت حاصل کرنا ہے۔ اس کے مقابلہ میں خسارہ کا لفظ بولا جاتا ہے جبکہ لاگت سے کم پر کسی شخص کا مال فروخت ہو۔ لسان العرب میں زنج کے معنی یہ لکھے ہیں۔

أَلْرَبِيعُ وَالرَّبِيعُ فَالرَّبِيعُ النَّسَاعُ فِي التَّجَرِيبِ...
... وَالْعَرْبِبُ تَقُولُ رَبِيعَتُ تِجَارَتُهُ إِذَا رَبِيعَ صَاحِبَهَا
فِيهَا... وَقُولُهُ تَعَالَى فَمَارِبِعَتُ تِجَارَتُهُ وَدِيلَهُ

تھمارت میں افزونی کو رنج اور رنج اور رنج کہتے ہیں...
عرب کہتے ہیں تجارت تجارت جیکہ تھمارت کرنے والا نفع کمائے
..... اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَهَارَبَجَمْهُ تِجَارَتُهُمْ۔

فردات امام راغب میں ہے۔

السَّرِيبُ مِنَ الرِّيَادَةِ الْحَاصِلَةُ فِي الْمُبَايَضَةِ۔

رنج وہ زیادتی ہے جو خرید و فروخت کے معاملہ میں حاصل ہو۔
قرآن مجید خود بھی ربو اور تجارتی منافع کا فرق بیان کرتا ہے۔ کفار ایک طبقہ
سوڈ کے خلاف بواحتراض پیش کرتے تھے وہ یہ تھا انہما البیم مثل الریبو۔
یعنی بیع میں اصل لگت سے زائد و قیمت فروخت و صول کی جاتی ہے وہ بھی تو آخر
اسی طرح ہے جس طرح قرض کے معاملہ میں اصل دامال مال سے زائد ایک رقم ملی
جاتی ہے۔ قرآن نے اس کے جواب میں صاف کہا کہ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَخَرَّمَ الرِّيَابُ۔
یعنی دین کی طبقے کو حلال کیا اور دباؤ کو حرام کیا ہے؟ یعنی دولت میں اپنا وہ بصورت
بیع اور چیز ہے اور بصورت قرض اور چیز۔ ایک کو خدا نے حلال کیا ہے اور دوسرا
کو حرام۔ کوئی شخص منافع چاہتا ہو تو اس کے لیے یہ در دوازہ کھلا ہے کہ خود بیع کا کاروبار
کرے یا کسی دوسرے کے ساتھ اس میں شرپ کر جائے۔ لیکن قرض دے کر منافع
طلب کرنے کا در دوازہ بند ہے۔

چوتھا سوال

ربا کی تعریف یہ ہے کہ "قرض کے معاملہ میں اصل سے زائد جو کچھ بطور شرط معااملہ
وصول کیا جائے وہ ربو ہے" اس تعریف میں اس سوال کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہے کہ
یہ ربا قرض دینے والے نے طلب کیا یا قرض دینے والے نے اذ خود پیش کیا۔ یہ سوال
ربو کی قانونی تعریف میں غیر مؤثر ہے اور قرآن سے یا کسی صحیح حدیث سے اس امر
کا کوئی اشارہ تک نہیں نکلتا کہ اگر سوڈ دینے والے کی طرف سے پیش کیا جائے تو اس
سے اس کے سودہ ہونے اور حرام ہونے میں کوئی فرق واقع ہو گا۔ علاوہ اور میں کوئی صاحب

عقل دنیا میں ایسا مودود نہیں ہے نہ کبھی پایا گیا ہے جسے اگر سود کے بغیر قرض مل سکتا ہو تب بھی وہ سودا دا کرنے کی شرط اپنے طور پر پیش کرے۔ قرض لینے والے کی طرف سے یہ شرط تو اسی صورت میں پیش ہو سکتی ہے جب کہ کہیں سے اس کو بلا سود قرض ملنے کی امید نہ ہو۔ اس لیے سود کی تعریف میں اس کو غیر مونہونا ہی چاہیے۔ مزید برآں بینکوں کی طرف سے قدیم زمانوں میں بھی اور آج بھی امانت رکھے ہوئے روپے پر سود اس لیے پیش کیا جاتا تھا اور کیا جاتا ہے کہ اس لامپ سے لوگ اپنی جمع شدہ دولت ان کے حوالہ کریں اور پھر وہ کم شرح سود پر لی ہوئی دولت کو اس گے زیادہ شرح سود پر قرض دے کر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح کی پیش کش اگر سود دینے والے کی طرف سے ہوتی ہے تو حوصلہ سود کے مسئلے میں اس کے قابل لحاظ ہونے کی آخر کیا معقول وجہ ہے۔ امانتوں پر جو سود دیا جاتا ہے اس کی نوعیت دراصل یہ ہے کہ وہ اس سود کا ایک حصہ ہے جو اپنی امانتوں کو شخصی، کاروباری اور دیاستی قرضوں کی شکل میں دے کر دصوں کیا جاتا ہے۔ یہ تو اسی طرح کا حصہ ہے جیسے کوئی شخص نسبت زندگی کے آلات کسی سے لے اور وہ کچھ پوری کامال اس سے حاصل ہوا اس کا ایک حصہ اس شخص کو بھی دے دے جس نے اس سے یہ آلات فراہم کر کے دیئے تھے۔ یہ حصہ اس دلیل سے جائز نہیں ہو سکتا کہ حصہ دینے والے نے بخوبی اس سے دیا ہے، لیتنے والے نے جبر سے نہیں لیا ہے۔

پانچواں سوال

یعنی مسلم دراصل پیشگی سودے کی ایک صورت ہے، یعنی ایک شخص دونسرے شخص سے آج ایک چیز خرید کر اس کی قیمت ادا کر دیتا ہے، اور ایک وقت مقرر کر دیتا ہے کہ باقی وہ چیز اس وقت خاص پر اس سے دے گا۔ مثلاً میں ایک شخص سے کپڑے کے سو تھان آج خریدتا ہوں اور ان کی قیمت ادا کر دیتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ یہ تھان میں چارہ ہیئے کے بعد اس سے لوں گا۔ اس سودے میں چار باتیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ مال کی قیمت سودا طے ہونے کے وقت ہی ادا کر دی جائے۔ دونسرے

یہ کہ مال کی صفت (Quality) واضح طور پر معین ہوتا کہ بالع اور مشتری کے درمیان اس کی صفت کے بارے میں کوئی چیز میں نہ رہے جو وجہ نزاع بن سکے۔ تیسرے یہ کہ مال کی مقدار بھی وزن، یا انداز یا تعداد وغیرہ کے لحاظ سے ملکیک ٹھیک میں ہو۔ اور چوتھے یہ کہ مال خریدار کے حوالہ کرنے کا وقت معین ہو اور اس میں بھی کوئی ابہام نہ ہو کہ وہ نزاع کا سبب بننے اس سودے میں جو پیشگی قیمت دی جاتی ہے اس کی نوعیت ہرگز قرض کی نہیں ہے بلکہ وہ ویسی ہی قیمت ہے جیسی دست بدست لین دین میں خریدار ایک چیز کی قیمت ادا کرتا ہے۔ فقہ میں اس کا نام بھی شن ہے نہ کہ قرض۔ وقت میں پرمال کی عدم تحويل یا کسی اور سبب سے اگر بیع فتح ہو جائے تو مشتری کو صرف اصل قیمت واپس دی جاتی ہے۔ کسی شے زائد کا وہ حق دار نہیں ہوتا۔ اس میں اور عام بیع میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے کہ عام بیع میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے کہ عام بیع میں مشتری بالع سے اپنی خریدی ہوئی چیز دست بدست لے لیتا ہے اور بیع سلم میں وہ اس کا قبضہ لینے کے لیے آئندہ کی ایک تاریخ مقرر کر دیتا ہے۔ اس معاملہ کو قرض اور سود کے مسئلے سے خلط لط کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ سمجھ سکا۔

سوال میں بھیں کی جو مثال بیان کی گئی ہے وہ بیع سلم کی نہیں بلکہ شرکت کی شکل ہے، یعنی بھیں ایک شخص کی اور اس پر کام دوسرا شخص کرے اور دو دو دوں کے درمیان تقسیم ہو جائے۔

چھٹا سوال

ہم جنس اشیاء کے دست بدست تبادلے میں تفاصل کو حرام کر دینے کا مقصد جیسا کہ اون قیم اور دوسرے لوگوں نے بیان کیا ہے، دراصل ستہ باب خدیعہ ہے۔ یعنی اصل حرام توہ بولنے سے (قرض کا سود) ہے، لیکن تبادلہ ستائی کی ذہنیت کا قلع قمع کرنے کے لیے ہم جنس اشیاء کے دست بدست تبادلہ میں بھی تفاصل کو منوع قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ امر ظاہر ہے کہ ایک ہم کی اشیاء مثلاً چاول کا تبادلہ چاول سے

صرف اس صورت میں کیا جاتا ہے جب کہ اس کی ایک قسم بڑھیا ہو اور دوسرا گھٹیا۔ شارع کا منشاء ہے کہ بڑھیا قسم کے ایک سیر چاول کا تبادلہ گھٹیا قسم کے مثلاً سوا سیر چاول سے رکیا جائے، خواہ ان دوفوں کی بازاری قیمت کا فرق اتنا ہی ہو۔ بلکہ ایک شخص اپنے چاول مثلاً روپے کے عوض فروخت کر دے اور دوسرے چاول روپے کے عوض ہی خریدے۔ براہ راست چاول کا چاول سے تفاصل کے ساتھ تبادلہ کرنے میں اس ذہنیت کو غذا ملتی ہے جو سود خوری کی اصل جڑ ہے اور شارع اسی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ فقہاء کے درمیان سود کے مسئلے میں جتنے بھی اختلافات ہوئے ہیں وہ صرف بلو الفضل کے معاملہ میں میں ہیں کیونکہ اس کی حرمت کے احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخوند مانندیں دیئے تھے اور آپ کی حیات طیبہ میں معاملات پر ان احکام کے انطباق کی تکلیف پوری طرح واضح نہ ہو سکی تھیں لیکن جہاں تک بلوالنیہ (قرض کے معاملہ میں اصل سے زائد لینے) کا تعلق ہے، اس کی حرمت اور اس کے احکام میں فقہاء کے درمیان پورا اتفاق ہے۔ یہ ایک صاف مسئلہ ہے جس میں کوئی الْجَنْ نہیں ہے۔

ساتوال سوال

تجارت میں طرفین کی رضامندی ضرور لازم ہے، لیکن یہ ذہنیت کے علاں ہونے کی علت ہے، نہ اس کا عدم، سود کے حرام ہونے کی علت۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ سود اس سیلے حرام کیا جاتا ہے کہ دینے والا اسے باطل نخواستہ مجبوراً دیتا ہے۔ اگرچہ دنیا میں کوئی سود بھی برضاو و غبہ نہیں دیا جاتا، اور بلا سود قرض ملنے کا امکان ہوتا کوئی شخص قرض پر سود نہ دے، لیکن اس چیز کی حرمت کے مسئلے میں رضامندی اور نارضامندی کا سوال بالکل غیر متعلق ہے، کیونکہ قرآن مطلقاً اس قرض کو حرام قرار دیتا ہے جس میں راس المال سے زائد ادا کرنے کی شرط شامل ہو، قطع نظر اس سے کہ یہ شرط تراضی طرفین سے ملے ہوئی ہو یا کسی اور طرح۔

مرہی یہ بحث کہ سودی قرض کی حرمت میں اصل علت ظلم ہے، اور جس قرض پر

سُود و صول کرنے میں ظلم نہ ہو وہ حلال ہونا چاہیے، اس کے متعلق میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن نے اس امر کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے کہ آپ اس کے الفاظ سے صرف «ظلم» کا عذتِ حرمت ہو ناتکال لیں اور پھر اسی لفظِ ظلم کا مفہوم خود جس طرح چاہیں مشخص کریں۔ قرآن جس جگہ یہ عذتِ حرمت بیان کرتا ہے اسی جگہ وہ خود نہیں ظلم کا مطلب بھی واضح کر دیتا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں:-

بِإِيمَانِ الْأَنْجَانِ إِيمَانُوا أَنْتُمْ وَلَا ذَرْدُوا مَا بَقِيَ مِنْ
الرِّبَوْ إِنْ كُفَّارُهُمْ مُؤْمِنُونَ وَإِنْ تُبْشِّرُهُمْ فَلَكُمْ
دُرُّهُمُ أَمْوَالُكُمْ لَا تُظْلِمُهُمْ وَلَا تُظْلِمُهُمْ وَلَا تُظْلِمُهُمْ (۲۴۹-۲۴۸: ۲)

اسے لوگوں کو ایمان لائے اللہ سے ڈر دو اور چھوڑ دو وہ سُود بخوبی لوگوں نے کہ ذمہ، باقی رہ گیا ہے اگر تم مومن ہو..... اور اگر تم توہہ کر دو تو تمہیں اپنے راس المال لینے کا حق ہے۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔

یہاں دو ظلموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ بخوبی دائن ملیوں پر کرتا ہے۔ دوسرا وہ بخوبی دائن پر کرتا ہے۔ ملیوں کا دائن پر ظلم، جیسا کہ آیت کے سیاق و سبق سے صاف ظاہر ہوتا ہے، یہ ہے کہ اس کا دیا ہوا اصل راس المال بھی ملیوں والیں نہ کرے۔ بالکل اسی طرح ملیوں پر دائن کا ظلم، محو اس آیت کے سیاق و سبق سے بین طور پر ظاہر ہو رہا ہے، یہ ہے کہ وہ اصل راس المال سے زائد اس سے طلب کرے۔ اس طرح قرآن یہاں اُس ظلم کے معنی خود متعین کر دیتا ہے جو قرض کے معاملہ میں دائن و ملیوں ایک دوسرے پر کرتے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے انصاف یہ ہے کہ دائن ملیوں سے صرف راس المال والیں لے، اور ظلم یہ کہ وہ راس المال سے زیادہ وصول کرے۔ قرآن کا سیاق و سبق اپنے مفہوم میں اس قدر واضح ہے کہ این ہماری اور این زید سے لے کر سچھلی صدی کے شوکانی اور آلوسی تک تمام مفسرین نے اس کا یہی مطلب لیا ہے۔ اس پوری حدت میں کوئی ایک مفسر بھی ایسا نہیں پایا جاتا جس نے قرآن سے صرف ظلم کا لفظ حرمتِ ربُّکی عذت کے طور پر نکال لیا ہوا اور پھر ظلم کے

معنی باہر کہیں سے لینے کی کوشش کی ہو۔ یہ بات اصولاً بالکل غلط ہے کہ ایک عمارت کے اپنے سیاق و سابق سے اس کے کسی لفظ کا جو مفہوم ظاہر ہوتا ہو اسے نظر انداز کر کے ہم اپنی طرف سے کوئی معنی اس کے اندر داخل کریں۔

اس سوال کے سلسلے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کرشل انٹرست میں کسی پارٹی پر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ یہ بھی تسلیم نہیں ہے۔ کیا یہ ظلم کچھ کم ہے کہ ایک شخص قرض پر سرمایہ دے کر تو ایک خاص منافع کی ضمانت حاصل کرے، مگر جو لوگ کار و بار کو پروان چڑھانے کے لیے وقت، محنت اور ذہانت صرف کریں ان کے لیے سرے کے کسی منافع کی کوئی ضمانت نہ ہو، بلکہ نقصان ہونے کی صورت میں بھی وہ دائن کو اصل مع سود دینے کے ذمہ دار ہیں؟ تمام خطرہ (Risk) محنت اور کام کرنے والے فریق کے حصے میں اور غالباً منافع روپیہ دینے والے فریق کے حصے میں یہ آخر انصاف کیسے ہو سکتے ہے۔ اس لیے سود بہر حال ظلم ہے، خواہ وہ شخصی حاجات کے قرضوں میں ہو یا کار و باری اغراض کے قرضوں میں۔ انصاف چاہتا ہے کہ اگر آپ قرض دیتے ہیں تو صرف اپنا لامال واپس ملنے کی ضمانت حاصل ہو، اور اگر آپ کار و بار میں روپیہ لگانا چاہتے ہیں تو بھر شریک کی حیثیت سے روپیہ لگائیں۔

امکھواں سوال

اس سوال کا تفصیلی جواب میں اپنی کتاب "سود" میں دے چکا ہوں۔ یہاں مختصر جواب عرض کرتا ہوں۔

(الف) صفتی اداروں کے معمولی حصے بالکل جائز ہیں بشرطیکہ ان کا کار و بار بجائے خود حرام نوعیت کا نہ ہو۔

(ب) ترجیحی حصص، جن میں ایک خاص منافع کی ضمانت ہو، سود کی تعریف میں آتے ہیں اور ناجائز ہیں۔

(ج) بینکوں کے فکسٹ ڈیپارٹ کے متعلق دو صورتیں اختیار کی جاسکتی ہیں جو لوگ صرف اپنے روپے کی حفاظت چاہتے ہوں اور اپناروپی کاروبار میں لگانے کے خواہش مند نہ ہوں، ان کے روپے کو بینک "امانت" رکھنے کے بجائے "قرض" لیں اسے کاروبار میں لگا کر منافع حاصل کروں، اور ان کا راس المال مدت مقررہ پر ادا کر دینے کی ضمانت دیں۔

اور جو لوگ اپنے روپے کو بینک کی معرفت کاروبار میں لگوانا چاہیں، ان کا روپیہ "امانت" رکھنے کے بجائے بینک، ان سے ایک عام شرکت نامہ طے کرے، ایسے تمام اموال کو مختلف قسم کے تجارتی، صنعتی، زراعتی یا یادو مرے کاموں میں، بینک کے دائرة عمل میں آتے ہوں، لگائے اور جمیع کاروبار سے جو منافع حاصل ہو، اسے ایک طے شدہ نسبت نکے ساتھ ان لوگوں میں اسی طرح تقیم کر دے جس طرح خود بینک کے حصہ داروں میں منافع تقیم ہوتا ہے۔

(د) بینکوں سے یقیناً کریڈٹ کھولنے کی مختلف صورتیں ہیں جن کی شرعی پوزیشن جدا گانہ ہے۔ جہاں بینک کو شخص ایک اعتماد نامہ دینا ہو کہ یہ شخص بھروسے کے قابل ہے، وہاں بینک جائز طور پر صرف اپنے دفتری اخراجات کی فیس لے سکتا ہے۔ اور جہاں بینک دوسرا سے فرق کو رقم ادا کرنے کی ذمہ داری لے وہاں اسے سُود نہیں لگانا چاہیئے۔ اس کے بجائے مختلف جائز طریقے اختیار کیے جاسکتے ہیں۔ مثلاً بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں کاروباری لوگوں کی جو رقمیں رہتی ہیں، ان پر کوئی سُود نہ دیا جائے، بلکہ حساب کاب رکھنے کی اجرت لی جائے اور ان رقموں کو قلیل المیعاد قرضوں کی صورت میں کاروباری لوگوں کو بلا سُود دیا جائے۔ ایسے قرض داروں سے بینک اس رقم کا سُود تو نہ لیں، البتہ وہ اپنے

دفتری اخراجات کی فیس ان سے سے سکتے ہیں۔

(ھ) حکومت خود، یا اپنے زیر اثر جتنے ادارے بھی قائم کرے ان سے سوڈ کے عنصر کو خارج ہونا چاہئے۔ اس کے بجائے دوسرے طریقے تقویٰ توجہ اور قوت اجتہاد سے کام لئے کرنے کا لے جا سکتے ہیں جو جائز بھی ہوں اور نفع بخش بھی۔ اس طرح کے تمام اداروں کے باہم میں کوئی ایک جامع گفتگو چند الفاظ میں یہاں نہیں کی جا سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے حرام چیز کو حرام مان لیا جائے۔ پھر اس سے بچنے کا ارادہ ہو۔ اس کے بعد ہر کار پورشیں کے لیے ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جو اس کار پورشیں کے تمام کاموں کو نگاہ میں رکھ کر یہ دیکھے کہ اس کے مختلف کام کہاں کہاں حرام طریقوں سے ملوث ہوتے ہیں اور ان کا بدل کیا ہے جو اسلامی احکام کی رو سے جائز بھی ہو اور قابلِ عمل اور نفع بخش بھی اولیں چیز ہماری اسی ذہنیت کی تبدیلی ہے کہ اہل مغرب کے جن پڑے ہوئے راستوں پر چلنے کے ہم پہلے سے عادی چلے آ رہے ہیں انہی پر ہم آنکھیں بند کر کے چلتے رہنا چاہتے ہیں۔ اور سارا ازور اس بات پر صرف کڑا انتہے ہیں کہ کسی طرح انہی راستوں کو ہمارے لیے جائز کر دیا جائے۔ ہماری سہولت پسندی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کچھ دماغ سوزی اور کچھ محنت کر کے کوئی نیا راستہ نکالیں تلقید جامد کی ہماری بدقسمتی سے ساری قوم کو لگی ہوئی ہے۔ نہ جبکہ پوش اس سے شفایا پاتے ہیں نہ سوٹ پوش۔

(و) گورنمنٹ کے قرضے جہاں تک اپنے لاک سے حاصل کیے جائیں، ان پر سوڈ نہ دیا جائے۔ اس کے بجائے حکومت اپنے ایسے منصوبوں کو جن میں قرض کا روپیہ لگایا جاتا ہے کار و باری اصول پر منظم کرے اور ان سے بونفع حاصل ہواں میں سے ایک طے شدہ تناسب کے ساتھ

ان لوگوں کو حصہ دیتی رہے جن کا روپیہ وہ استعمال کرتی ہے۔ پھر جب وہ مدت ختم ہو جائے جس کے لیے ان سے روپیہ منکرا گیا تھا، اور ان لوگوں کا راس المال واپس کر دیا جائے تو آپ سے آپ منافع میں ان کی حصہ داری بھی ختم ہو جائے گی۔ اس صورت میں درحقیقت کوئی بہت بڑا تغیر کرنا نہیں ہو گا۔ متعین شرح مسودہ پر ہو قرض لیے جاتے ہیں، ان کو تبدیل کر کے بس مناسب منافع پر حصہ داری کی صورت دینی ہو گی۔

غیر ملکوں سے ہو قرض لیے جاتے ہیں ان کا مسئلہ اچھا خاصاً پیچیدہ ہے جب تک پوری تفصیل کے ساتھ ایسے تمام قرضوں کا جائزہ نہ لیا جائے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی نوعیتیں کیا کیا ہیں اور ان کے معاملہ میں حرمت سے بچنے کے لیے کس حد تک کیا کچھ کیا جاسکتا ہے۔ البتہ اصولی طور پر جو باستیں کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے اپنی تمام توجہ ان درون ملک سے مسودہ کو ختم کرنے پر ختم کرنی پڑے ہیں، اور بیرون ملک میں چہاں مسودی لین دین سے بچاؤ کی کوئی صورت نہ ہو، ہاں اُس وقت تک اسن ہفت کو برداشت کرنا چاہئے جب تک اس سے بچنے کی صورتیں نہ نکل آئیں۔ ہم اپنے اختیار کی حد تک خدا کے سامنے جواب دہیں۔ اس حد تک اگر ہم گناہ سے بچیں تو جبکہ معاشری کے معاملہ ہیں ہم معافی کی امید رکھ سکتے ہیں۔

ضمیمہ نمبر ۳

مسئلہ سودا اور دارالحرب

رازجناب مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی مرحوم

(سود کی بحث میں علماء کے ایک گروہ نے یہ پہلو بھی اختیار کیا ہے کہ ہندوستان دارالحرب ہے اور دارالحرب میں ہر جی کافروں سے سود لینا جائز ہے۔ جناب مولانا مناظر احسن صاحب نے ذیل کے مضمون میں اس پہلو کو پوری قوت کے ساتھ پیش فرمایا ہے اور ہم یہاں اسے اس لیے نقل کر رہے ہیں کہ یہ پہلو بھی ناظرین کے سامنے آجائے۔ اس مضمون پر مفصل تلقید ہم نے بعد کے باب میں کی ہے لیکن بعض امور کا جواب برسر موقع حواشی میں بھی دے دیا ہے۔ اس بحث کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات ملحوظ خاطر رہتی چاہیئے کہ یہ بحث ۱۹۳۴ء میں ہوئی تھی۔)

غیر اسلامی مقبوضات کے متعلق اسلامی نقطۂ نظر

غیر اسلامی مقبوضات کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو اس ملک میں اسلامی حکومت کبھی قائم نہیں ہوئی، یا ہوئی، لیکن یہن الاقوامی کش کوش کے سلسلہ میں اس ملک پر غیر اسلامی قوتوں کا قبضہ ہو گیا۔ پہلی صورت میں تو ایسے ملک کے غیر اسلامی مقبوضہ اور بغیر مسلم مملکت ہونے میں کیا شہر ہے۔ غیر اسلامی حکومت کو اسلامی حکومت کون کہہ سکتا ہے؟ لیکن بحث ذرا دوسرا صورت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ قاضی القضاۃ

للدرولة العباسية امام ابو یوسف) و رمذان فقه امام محمد شیبانی کا اس کے منتعلق فتاویٰ سے یہ ہے:-

إِنَّ دَارَالْإِسْلَامِ تَصِيرُهُ دَارَالْكُفْرِ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِيهَا.

(بِدَايَةِ الصَّنَاعَةِ كَاسَانِي ج ۷ ص ۱۳)

دارالاسلام راسلامی ملک، اُس وقت دارالکفر (غیراسلامی ملک)

ہو جاتا ہے جبکہ غیراسلامی رکفر کے) قوانین کا وہاں ظہور رنفاذ ہو جائے۔

فتاویٰ سے عالمگیری میں غیراسلامی احکام کے ظہور کی شرح یہ کی گئی ہے:-

أَنَّى عَلَى إِلَاشْتِهَارِ قَانُونَ لَأَيْحُكُمُ فِيهَا بِحُكْمِ أَهْلِ إِسْلَامِ.

یعنی علاجیہ ظہور ہو اور اس ملک میں اہل اسلام کے قوانین سے

فیصلہ نہ کیجے جائیں۔

مطلوب یہ ہے کہ جس ملک میں اللہ کے کلام اور خاتم النبیین کے ارشادات گراجی سے انقدر درجہ قانون نافذ نہ رہے وہی ملک غیراسلامی ملک اور وہی حکومت غیراسلامی حکومت سمجھی جائے گی۔ خواہ وہاں کوئی قانون نافذ نہ ہو، یا ہو تو غیراسلامی دماغوں یا غیراسلامی مستندات سے مانوذ ہو۔ بہر حال جس ملک سے اسلامی حکومت کا قانون زائل ہو گیا اور اس میں غیراسلامی قانون نافذ ہو گیا تو وہ اسلامی ملک یا قی رہتا ہے اور وہ حکومت اسلامی حکومت سمجھی جا سکتی ہے۔ اور یہ تو پھر بھی ایک اجمالی تعبیر ہے، امام الائمه ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ وضاحت سے کامنے کر غیراسلامی ملک کی حقیقی تتفیع ان لفظوں میں فرمائی ہے:-

إِنَّ دَارَالْإِسْلَامِ لَا تَصِيرُهُ دَارَالْكُفْرِ إِلَّا شَبَابَتِ شَرَاثِطٍ
أَحَدُهَا ظُهُورُ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِيهَا أَلْثَانِيَّةٌ تَكُونُ مُلْجَعَةً

برابر الکفر والشاملت اُن لَأَيْقَنِ فِيهَا مُسْلِمٌ أَوْ ذُمَّيْلٌ أَمْ نَابِالْمَانِ

(بِدَايَةِ الصَّنَاعَةِ کَاسَانِي ج ۷ ص ۱۴)

دارالاسلام را اسلامی ملک، دارالکفر و غیر اسلامی ملک، تین شرطوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کفر کے احکام (غیر اسلامی قوانین) کا وہاں ظہورِ نفاذ ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ کسی دارالکفر و غیر اسلامی ملک میں متصل ہو۔ تیسرا یہ کہ اس ملک میں کوئی مسلمان یا ذمی اس امان کے ماتحت نہ ہو۔ تو اسے پہلے حاصل تھی۔

یوں تو دنیا میں اس وقت زیادہ تر غیر اسلامی حکومتیں ہیں، لیکن نہ ان کے واقعی حالات میرے سامنے ہیں اور نہ ان کی تمام خصوصیات کے متعلق میرے پاس کوئی شرعی شہادت موجود ہے۔ لیکن ہندوستان ہمارے سامنے موجود ہے۔ بطور مثال اسی ملک کو یقیناً چاہیئے اور دیکھنا چاہیئے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے غیر اسلامی ملک کی جو قانونی تتفیع فرمائی ہے وہ اس پر کس حد تک منطبق ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ اس ملک میں شریعت کی نہیں بلکہ انگریزی قانون کی حکومت ہے۔ کلام اللہ اور احادیث نبوی سے جو اسلامی قانون پیدا ہوتا ہے وہ یہاں قطعاً نافذ نہیں ہے بلکہ غیر اسلامی دماغوں رخواہ وہ ایک ہوں یا چند ہندی ہوں یا غیر ہندی کے تجویز کردہ قوانین اس ملک میں نافذ ہیں۔ اس لحاظ سے تو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ غیر اسلامی احکام کا ظہور "نفاذ" جو امام رحمۃ اللہ علیہ کی تتفیع کی پہلی شرط تھی وہ اس پر بالکلیہ منطبق ہے۔

اسی طرح دوسری شرط کے انطباق پر بھی کون شبہ کر سکتا ہے، جنرا فیاضی طور پر کس کو معلوم نہیں ہے کہ ہندوستان کے اکثر حدود غیر اسلامی حمالک اور حکومتوں سے متصل ہیں اور اس طرح متصل ہیں کہیجی میں کوئی اسلامی کا کوئی واقع نہیں ہوتا۔ عالمگیری میں ہے۔

عَدْمُ اِتِّصَالٍ بَيْنَ لَا يَتَخَلَّ بَيْنَهُمَا بَلْدَةٌ مِّنْ بَلَادِ الدِّينِ.

(منقول از مشافی ص ۲۷۷)

لہ ہندوستان قبل تقسیم۔

عدم اتصال کا مطلب یہ ہے کہ دارالکفر اور دارالاسلام کے درمیان
کوئی اسلامی شہر واقع نہ ہو
شمال اور مشرق تو خلکی کے حدود سے خود دیں۔ رہے دریائی حدود تو اقلًا
بالبداہتہ ان دریاؤں پر غیر اسلامی قوتوں کا کامل اقتدار موجود ہے، حتیٰ کہ بغیر ان کی
اجازت کے ان سندروں میں کوئی دوسرا اپنا کوئی جہاز بھی چلانہیں سکتا۔ اور بالفرض
اگر ایسا نہ بھی ہو تو صرف خلکی کا اتصال ہی شکیل شرط کے لیے کافی ہے۔ نیز فقہائے اسلام
کی عام تصریح سندروں کے متعلق یہ ہے۔

ان سحرالمہام ملحق بدارالحرب رشامی ص ۲۷۷

دریائے سور کا شمار غیر اسلامی مقبوضات میں ہے۔

بہر حال جس طرح بھی سوچو، اس شرط کی تحقیق میں بھی کوئی دغدغہ باقی نہیں ہے۔
امام رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی ایسے لاءک پر غیر اسلامی حکومت قابض ہو
جائے تو چاروں طرف سے اسلامی حکومت و اقتدار سے محصور ہو تو یہ قبضہ دیر پا اور
ایسا نہیں سمجھا سکتا کہ اب اسلامی حکومت کا قیام وہاں مشکل ہے۔ فقہائے اس کی تصریح
بھی کی ہے اور آگے ایک مسئلہ کے ذیل میں اس کا کچھ حصہ آئے گا۔

اب رہ گئی تیسرا شرط، تو ظاہر ہے کہ مختلف قوانین و تعریفات کے ذیل میں اور
قوموں کے ساتھ مسلمانوں کو بھی یہاں آئئے دن پھانسی دی جاتی ہے اور اس کی بالکل پرواہ
نہیں کی جاتی کہ آیا اسلامی قانون کی رو سے بھی یہ شخص جانی امان کے دائرے سے بخل چکا

لے فقہائے اسلام نے یہ بات اس زمانے میں لکھی تھی جب سندروں میں بھری قزاقی کا زور
ختا اور اسلامی حکومت کی بھری طاقت اتنی زبردست نہ تھی کہ بھری راستوں پر کامل اقتدار قائم
کر سکیں۔ اس چیز کو عام اور دائمی حکم قرار دینا کسی طرح درست نہیں۔ اگر آج کسی اسلامی حکومت
کو سندروں پر وہ اقتدار حاصل ہو جو مثلًا سلطنت برطانیہ کو حاصل ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم خود اس
سے دست بردار ہو کر پانی کو دارالحرب سے ملحق کر دیں۔ (مودودی)

ہے یا نہیں۔ اسی طرح یہاں کی عدالتیں عام طور پر موجودہ قوانین کی رو سے مسلمانوں کا
مال دوسروں کو دلا رہی ہیں اور اس امر کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا کہ اس شخص کا مال اسلامی
قانون کی رو سے بھی دوسرے کو دلانا جائز ہے یا نہیں۔ روزمرہ لاکھوں اور کروڑوں
روپے کے مسود کی ڈگریاں عدالتیں سے جاری ہو رہی ہیں۔ اور ایک مسود کیا ایسی
بے شمار صورتیں ہیں جن میں اسلامی شریعت کے لحاظ سے ایک شخص کا مال ماہن اور
محظوظ سمجھا جاتا ہے لیکن ملکی قانون اس کا حق دار دوسروں کو سمجھتا ہے۔

یہ توجہی اور مالی امان کا حال ہٹوا۔ اب عزت کی امان کا حال دیکھو۔ مسلمانوں
کو قید کی، عبور دریا شے شور کی، جرمانہ کی، تازیریا نے کی، اور مختلف قسم کی سزا میں
مختلف قانونی دفعات کے ذیل میں دی جاتی ہیں۔ لیکن کیا اس وقت اس کا بھی خیال
کیا جاتا ہے کہ اس سزا پانے والے کی عزت اسلامی قانون کی رو سے بھی اس سلوک
کیستحق ہو چکی تھی؟ میں نہیں کہتا چاہتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو امن نصیب نہیں
ہے۔ بلکہ میری مراد یہ ہے کہ انہیں اسلامی امن حاصل نہیں ہے، کیونکہ امام ابوحنیفہ
نے خود امان کی تشریح میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے:-

امنًا بالآمان الأقل هُوَ آمان المؤمنين رب العالم

یعنی وہ امان جو مسلمانوں کے قانون کے لحاظ سے ہو۔

عَالِمٌ كَيْفَ يُشَرِّعُ اَوْ زِيَادَهُ كُلُّهُ لِفَظُوْنِ مِنْ كِرْدَيْهُ لَكُنْيَهُ
أَمَّى الْسِّدِّيْنِ كَانَ ثَابِتًا قَبْلَ إِسْتِيْلَادَهُ اِنْكَفَارِ الْمُسْلِمِيْمِ
بِإِسْلَامِهِ وَلِلِّيْدَيْهِ لِعَقْدِ الْذَّمَارِ.

(منقول اذ شاهی - ۳۰ - ص ۲۲۷)

یعنی غیر اسلامی حکومت کے سلطنت سے پیشتر مسلمانوں کو اپنے
اسلام کی وجہ سے اور ذمتوں کو عقد ذمہ کی وجہ سے جو امان تھی وہ باقی نہ
رہے۔

اور واقع بھی ہی ہے کہ جس طبق میں غیر اسلامی قوتوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے

اور جس کمک میں غیر اسلامی تو انہیں ناقہ ہو چکے ہیں اُس کو اسلامی ملک کہنا یا وہاں اسلامی راج ہونے کا دعویٰ کرنا ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ دوسروں کے ملک کو، دوسروں کی حکومت کو زبردستی اسلامی ملک فرض کرنے کی دنیا کی کوئی حکومت مسلمانوں کو اجازت دے سکتی ہے؟ بلکہ بالکل ممکن ہے کہ وہ اسے جو جم قرار دے۔

اسلامی فقہا کبھی کبھی اس ملک کی تعبیردار المرب بے کرتے ہیں۔ غالباً اسی سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ متفقہ میں علماء اسلام نریادہ نہ رائی سے ملک کے متعلق دارالاسلام کے مقابلہ میں دارالکفر کی اصطلاح استعمال کرتے تھے۔ ابھی ابھی صاحب بدائع کی عبادت گزر چکی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں عموماً دارالکفر کی اصطلاح لکھی ہے جس کے سیدھے اور سادے معنی یہ ہیں کہ ”جہاں اسلامی حکومت نہ ہو“، آخر جہاں اسلامی حکومت نہ ہو گی، جو ملک مسلمانوں کے قبضہ میں نہ ہو گا، اس کو کیا مسلمان مسلمانوں کی حکومت اور مسلمانوں کا ملک کہہ دیں؟ لفظوں پر چونکہ کایہ عجیب الطیف ہے۔ نہ تو پہلے سوال کا جواب تھا۔ اب دوسرا سے سوال کی تفصیل ہے۔

غیر اسلامی حکومتوں میں مسلمانوں کی زندگی کا دستور العمل

اسلام مسلمانوں کو آزاد فرض کرتا ہے اور آزادی کو ان کا فطری اور آسمانی حق قرار دیتا ہے۔ لیکن فقہائے اسلام نے یہ فرض کر کے کہ اگر عارضی طور پر کسی مسلمان کو غیر اسلامی حکومتوں میں کسی وجہ سے جانتے اور رہنے کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت اس حکومت کے باشندوں سے اس کے تعلقات کی کیا نوعیت ہوگی، اسلامی قانون کی صراحت کر دی ہے۔ ظاہر ہے کہ قانونی طور پر اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اس مسلمان نے اس ملک کی حکومت سے اس امر کا معاہدہ کیا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین ناقہ کی پابندی کرے گا، یعنی امن و امان میں خلل انداز نہ ہو گا۔

مشریعیت اسلامیہ کی اصطلاح میں ایسے مسلمان کو ”مسلم متنا من“ کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے معاہدے کے متعلق عام قانون یہ ہے:-

وَإِذَا دِينُكُمْ لَعَهِدْتُمْ تَرْعَوْنَ - آتُهُمْ فِي الْعُقُودِ

کامیاب مسلمان وہ ہیں جو اپنے وعدوں کی بھگاتی کرتے ہیں معاہدوں کی پابندی کرو۔

اسلام نے "معاہدہ" کو مسئولیت اور ذمہ داری کے ساتھ بشدت والبستہ کر دیا ہے۔ اور یہ تو عام معاہدوں کے متعلق تعلیم ہے خصوصیت کے ساتھ میں لا قوای معاہدوں کے متعلق ایک واضح قانون ان لفظوں میں مسلمانوں پر عائد کیا گیا ہے۔

**أَلَّاذِينَ حَاهَدُوا هُنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَلَمَّا كَفَرُوا يُنْقَصُونَ
كُفُّرٌ شَيْئًا وَ لَمْ يُظْهِرُوا هُنَّ أَهْلَيْكُفَّرٍ أَحَدًا فَإِنَّمُؤْمِنَوْا إِلَيْهِمْ
عَهْدَهُمْ۔**
(سورة توبیہ)

جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے اس معاہدہ کے کسی حصہ کو نہیں توڑا اور تمہارے مقابلہ میں کسی دوسرے کی انہوں نے مدد نہیں کی تو ان کے عہد کو پورا کرو،

اس وقت اس کی تفصیل کا موقعہ نہیں کہ عدم عہد، یا غیر اقوام کے "تفصیل عہد" پر کیا احکام مترتب ہوتے ہیں۔ یہاں "قانون معاہدہ" کی صرف اس دفعہ کو پیش کرنا ہے جس کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے ان کے معاہدوں کی تکمیل لازمی اور ضروری ہو جاتی ہے۔ ہنضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تفصیل فرمادی ہے کہ جو مسلمان معاہدہ کو توڑے گا مذہبی جنتیت سے اس کا کیا انجام ہو گا۔ ارشاد بھی ہے:-

**إِنَّ الْغَادِرَ رَيْسَكَبْ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَيُقَالُ أَنَّهُ
غُلَامَةٌ فُلَانٌ۔**
(ابوداؤد)

معاہدہ توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک بخشنداگاڑا گا کہ یہ پہیان شکنی کا نشان فلان شخص کا ہے۔

**وَفِي زَوْجِهِ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَسِرُّ كُرْزِ عِنْدَ بَابِ اسْتَهْ
يُومَ الْقِيمَةِ يُعْرَفُ بِهِ غَنَارُهُ۔**

ایک دوسری روایت میں ہے کہ پیمان شکن کے مقام خصوصی پر نشان
گلزار ہائے گا۔ اور اسی سے وہ قیامت کے روز پہچانا جائے گا۔
جب شکر کو رخصت فرماتے تو امراء جیوش کو حضور صلی اللہ علیہ
وسلم یہ وصیت فرماتے:-

رَأَتَنُوكُمْ أَذَلَّا تَغْدِيرًا

ویکھنا کسی کے ساتھ خیانت نہ کرنا اور معاملہ نہ توڑنا۔

بھی وجہ ہے کہ علماء اسلام نے "نقض عہد" کی اجماعی حرمت کا فتویٰ دیا ہے۔
ابن ہمام فرماتے ہیں:-

الْغَدَارُ حَرَامٌ بِالْجُمَاعِ (فتح القدیر ج ۵ ص ۳۲۶)

عہد شکنی (غدر) کے متعلق اجماع ہے کہ وہ حرام ہے۔

مسلمانوں کی بے نظیر امن پسندی
ظاہر ہے کہ "قانون معاملہ" کی ان تحقیقوں کے بعد جو مسلمان کسی غیر اسلامی
حکومت سے امن کا معاملہ کرنے کے بعد اس کی قلمروں میں بحیثیت "مستامن" ہوتا
ہے اس کی ذمہ داریاں کتنی سخت ہو جاتی ہیں۔ ہماری میں ہے:-

إِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْجُنُوبِ فَلَا يَجِدُ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضُ
لِشَئٍ وَمَنْ أُمْوَالِهِمْ وَلَا مِنْ دُوَافِرِهِمْ إِنَّهُمْ فَهُمُ الْأَنَّ لَا يَتَعَرَّضُونَ
بِهِمْ بِالْأَسْتِهْنَانِ۔

یعنی مسلمان جب کسی غیر اسلامی ملک (دارالحرب) میں داخل
ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں کے باشندوں کے مال یا
جان سے وہ کوئی تعرض کرے۔ کیونکہ وہ اس کا ضامن ہے کہ وہ ایسا
نہیں کرے گا اور یہ ذمہ داری معاملہ امن کا نتیجہ ہے۔

مطلوب یہ ہے کہ جب کسی حکومت سے کوئی معاملہ کرنے کے بعد اس کی
سرزین بیس داخل ہو تو اس حکومت نے دوسروں کے جان و مال، عزت و اکبر و کی

حافظت کے لیے جو قوانین مافذ بکے ہوں ان کی خلاف ورزی کرنا اس کے لیے قطعاً ناجائز ہے۔ جس کے افعال کو اس غیر اسلامی حکومت نے خلاف قانون قرار دیا ہو ان کے ارتکاب کی وجہ سے وہ نہ صرف قانوناً ہی مجرم ہو گا بلکہ قانون معاہدہ "کی رو سے وہ خدرہ کام تکب بھی ہو گا۔ اسلام کا، قرآن کا، خدا کا مجرم ہو گا، لگناہ گار ہو گا، ایک ایسے فعل کام تکب ہو گا جس کی حرمت، قرآن و حدیث اور اجماع سے ثابت ہے کیا کوئی ہے جو اپنے مذہب میں بھی غیر اقوام کے قانون و آئین کی پابندی کو اس قدر ضروری ثابت کر سکے۔ مسلمانوں پر بد امنی کا الزام ہے لیکن لوگوں کو معلوم نہیں کہ ان سے زیادہ امن پسند اور پابند آئین و قانون قوم دنیا میں کوئی نہیں۔

فَإِنَّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ ۝

بعض علمائے اسلام نے غالباً اسی بنیاد پر یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص ڈاک کے خطلوں میں مقررہ وزن سے زیادہ وزن بغیر مخصوص ادا کرنے کے اضافہ کرتا ہے، اور جو ریل پر مقررہ وزن سے زیادہ وزن کا اسباب لے جاتا ہے، صرف قانون وقت ہی کا نہیں بلکہ عند اللہ بھی مجرم ہے، اپنے مذہب کا مجرم ہے۔

بین الاقوامی قانون کا ایک اہم سوال

یہاں بین الاقوامی قانون کا ایک اہم سوال ہے جس کی توضیح کی سخت ضرورت ہے۔ عموماً اس کے نتیجے کی وجہ سے لوگوں میں مختلف قسم کی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ممکن ہے کہ دوسرے قوانین میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا ہو۔ لیکن بین الاقوامی قوانین کے ذیل میں اسلامی قانون نے اس سوال کو اٹھایا ہے جو مختلف اقوام مختلف اوقات میں موقع پا کر ایک دوسرے پر چڑھائیا کرتی ہیں۔ ایک قوم دوسری قوم کے جان و مال، ملوقات و مقبو عناست پر حملہ بول دیتی ہے۔ اس وقت ہمیں اس سے بحث نہیں کہ یہ حملہ جائز ہے یا ناجائز، اور جائز ہے تو کین صورتوں میں۔ بلکہ اس وقت ہمارے پیش نظر یہ سوال ہے کہ ایک قوم نے جو دوسری قوم کے ملوقات پر اس طرح قبضہ کر لیا، آیا یہ قبضہ مفید ملک صیحح ہے؟ یعنی قبضہ کرنے والا کیا قانونی اور مذہبی حیثیت سے

اس کا مالک ہو گیا؟ ایک پچھے دین دار آئینی مسلمان کو اس سوال کے حل کی ضرورت نہیں اس وقت پیش آ جاتی ہے جس وقت مثلاً فرض کیجئے کہ کسی انگریز کو جنگ میں جو منی یا اور کسی قوم کا مال ملا اور انگریز اس کو کسی مسلمان کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہے۔ دوسری قوموں کو اس سے بحث ہو یا نہ ہو لیکن مسلمان اپنی کسی ملک کو اس وقت صحیح طک نہیں سمجھتے جبکہ کہ اسلامی قانون اس کی صحت کا فتویٰ نہ دے۔ اس کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ اپنی شریعت سے پوچھے کہ آیا انگریز جو منی کے اس مال کا مالک ہوا یا نہیں؟ اگر ہو گیہے تو اس کا بیچنا اور ہمارا خریدنا اور خرید کر اپنے تصرف میں لانا صحیح ہو گا لیکن اگر انگریز خود ہی ناجائز مالک بنائے تو اس کو بیچنے کا حق نہیں۔ اور جب اسی کو بیچنے کا حق نہیں تو میں خریدنے کے بعد اس کا کس طرح مالک ہو جاؤں گا؟ بہر حال یہ مبنی القوامی قانون کا ایک نہایت دلچسپ سوال ہے۔ فقہائے اسلامی نے اس کے متعلق ابواب قائم کیے ہیں اور اس کے جزو ٹیکست کی انہوں نے کافی تفصیل کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلہ کی چند صورتیں ہیں۔

(۱) ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم قوم کے حملوکات پر اس طرح قبضہ کیا گیا ہے تو اسلام اس قبضہ کے بعد قبضہ کرنے والے کو مال کا مالک صحیح قرار دیتا ہے فتح القدير میں ہے:-

إِذَا أَغْلَمَ الظُّلُمُ كُلِّيًّا كُفَّارَ الرُّؤْمَ فَسَلَبُوهُمْ وَأَخْذُوا
أَمْوَالَهُمْ مَلْكُوكُهَا۔ (بیان ص ۱۵۷)

اگر ترک ہے کے کفار یورپ کے کافروں پر قبضہ پالیں اور ان کو لوٹ لے جائیں، ان کے مال لے لیں تو وہ اس کے مالک ہو جائیں گے۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو مسلمان کے حملوکات پر کامل قبضہ حاصل ہو

لے آئجہدہ اس کا خیال رہے کہیں غیر مسلم سے ہمیشہ ان لوگوں کو مراد نہیں ہوں جو مسلمان نہ ہوں اور نہ کسی اسلامی حکومت نے ان کی جان و مال کی ذمہ داری اپنے سر لی ہو۔ (فاضل گیلانی)

گیا۔ اس صورت میں بھی امام مالک، امام احمد اور ہمارے ائمہ ابوحنیفہ وغیرہ و جمیل اللہ کا فتویٰ یہ ہے۔

رَدَّا عَلَيْهِ اعْلَى آفَوَالنَّاتَأُ الْعَبَادَ مِنْ أَنْتَ وَأَخْرُذُ وَهَا يَدَكُمْ
مَكْوُهَا۔ (ہدایہ)

اور اگر کفار ہمارے یعنی مسلمانوں کے مال پر بھی خدا نخواستہ قابو پالیں اور اس کو اپنے ملک میں لے جائیں تو وہ اس کے مالک ہو جائیں گے۔

پس یہی نہیں کہ غیر مسلم ایسی صورت میں صرف غیر مسلم ہی کے ملوکات کا جائز اور صحیح مالک ہو جاتا ہے، بلکہ اگر کافر کو مسلمان کے مالوں پر بھی اس طرح کامل قبضہ حاصل ہو جائے تو اسلام اس ملک کی بھی تصحیح کر سکتا ہے اور کافر کو اس مال کا مالک جائز قرار دیتا ہے۔ کیا یہی اسلام کی نار و اداری ہے؟

اموال معصومہ و غیر معصومہ اور ان کی اباحت و عدم اباحت
پونکہ ثانی الذکر مسئلہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دوسرے ائمہ سے اختلاف ہے اس لیے فقہاء نے قرآن و حدیث اور مختلف اسلامی مستندات سے اس قانون کے خالص اسلامی قانون ہونے کے نہایت واضح ثبوت پیش کیے ہیں۔ لیکن معمون طویل ہوتا جاتا ہے اس لیے اس کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اسی موقع پر صرف اس قانونی تشقیح کو پیش کرتا ہوں جس کو قرآن و حدیث سے حاصل کیا گیا ہے۔

إِنَّ الِّاِسْلَامَ لَا يَنْتَلِعُ وَرَدَدَ عَلَى مَا إِلَّا مُبَارِّجٌ فَيَحْسِنُ وَسُيْلًا لِلْمُلْكِ

(ہدایہ-ص ۲۵۵)

جاائز اور مباح مال پر کفار کا قبضہ ہو اسے اس لیے یہ قبضہ ملک کا سبب ہی جائے گا۔

مطلوب یہ ہے کہ مسلمان کا مال مسلمان کے لیے تو بلاشبہ معصوم اور محفوظ ہے، ہر مسلمان ذمہ دار ہے کہ دوسرے مسلمان کے مال کو بلا وجہ نہ لے۔ لیکن غیر قوموں پر یہ

قانون عائد نہیں ہوتا۔ ان کے لیے توبہ مباح ہوگا۔ چنانچہ شاجھی شیں ہے :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا لَهُ مُعْصِمٌ وَمَنْ يَعْصِمُهُ فَإِنَّمَا يَعْصِمُ الظَّالِمَاتِ

يُعَذَّبُوا بِمَا فَسَدُوا وَمَا لَا يُغَيِّرُ مَعْصُومٍ أَعْنَى هُوَ مُبَاحٌ

يَمْنَكُونَهُ (ج ۳۔ ص ۲۴۷)

کیونکہ حسمت تو ایک اسلامی قانون ہے۔ غیر اسلامی مالک کے باشندے سے اس قانون کے حکوم نہیں ہیں۔ لہذا مسلمانوں کا مال ان کے حق میں معصوم نہیں ہے، یعنی وہ ان کے لیے جائز اور مباح ہے پس وہ اس کے مالک ہو جائیں گے۔

اب قدر تی طور پر تیسری صورت سامنے آجائی ہے کہ اسی طرح اگر کسی مسلمان نے غیر مسلم مقبوضات و مملوکات پر قبضہ کر لیا تو وہ اس کا مالک ہو گایا نہیں؟ اس بین الاقوامی قانون کے اصول سے اس کا جواب بالکل ظاہر ہے۔ جبکہ غیر مسلم مسلمان کے مال کا مالک ہو جاتا ہے تو آخر مسلم کو بھی یہ حق مدد ہیا و دینا و اخلاقی و قانوناً کیوں نہ دیا جائے گا؟ بدائع میں ہے :-

إِمَالُ الْحَرْبِيِّ مُبَاحٌ لِّإِيمَانِهِ لَا إِعْصَمَةَ لِإِيمَانِ الْحَرْبِيِّ۔

(ص ۱۲۲ کاسانی)

یعنی غیر مسلم جس کی جان و مال کی ذمہ دار کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے اس کا مال مباح ہے کیونکہ اسیے غیر مسلم کا مال معصوم نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جن قوموں نے اپنی جان و مال کی ذمہ داری مسلمانوں کے پر دنہیں کی ہے، اسلام کی حفاظت اور ذمہ داری سے جنہیں انکار ہے، اگر اسلام بھی ان کی ذمہ داریوں سے انکار نہ کرے تو آخر وہ کیا کرے؟ تم اگر خدا سے براثت کا اعلان کرتے ہو تو خدا بھی تمہاری جان و مال کی ذمہ داری سے راستہ کا انہار کیوں نہ کرے؟ اس لیے قرآن پاک میں ہے :-

إِنَّ اللَّهَ بِإِرْبَدِي عَوْنَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔

رشک کرنے والوں سے خدا بری ہے۔

اس کے سوا کوئی اور صورت کیا ہو سکتی تھی؟ جب دنیا کی تمام قویں موقع اور قوت پا کر مسلمانوں کی جان و مال اور ملکات پر قبضہ کر لیتی ہیں جیسا کہ قرآن کا خود بیان ہے کہ:-

وَرَأَنَّ يَقْنَقَفُونَ كُمْ يَكُوْذُونَ كُمْ أَقْدَأَعَ وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ
آمِيدِيَّهُمْ وَالْسِتَّةَ هُمْ بِالشُّوَّعَ وَذُوَّذُونَ كُلُّمُرُونَ۔ (المتحجن)

اگر تم پر ان کو فابول جائے تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں، اپنے
ماں کو چھوڑیں، زبان سے براہی پہنچائیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی
خدا کے ناشکرے بن جاؤ۔

تو کیا اس قرآنی اور واقعی حقیقت کے بعد یہ ظلم نہ ہوتا اگر مسلمانوں کا مذہب
ان کو بھی اس کی اجازت نہ دیتا؟ قرآن نے اگر اس کے بعد یہ حکم دیا ہے کہ:-

قَاتِلُوا الظَّالِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِإِلَهٍ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الظَّالِمِينَ أُذْتُوا الْكِتَابَ۔ (الآلیۃ)

مقاتلہ کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ان پریزوں
کو حرام سمجھتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اور نہ سچے
آئین اور دین کو اپنی زندگی کا دستور العمل بناتے ہیں ان لوگوں میں
سے جنہیں کتاب دی گئی۔

تو کیا اس کا مفاد اس کلیہ سے زائد ہے جو ابھی اسلامی فقہاء کی تشقیح میں گزرا چکا۔
یعنی مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کے ملکات جس طرح غیر مسلم اقوام کے لیے خود اسلامی
قانون کی رو سے مباح ہیں اسی طرح وہ اور ان کے اموال بھی اللہ اور اس
کے رسول کی شریعت اور قانون کی رو سے مباح اور حلال ہیں۔ اگر
مسلمان اس پر قبضہ کر لیں گے تو اس کے صحیح مالک اور ہر قسم کے تصرفات

مجاز و مختار ہوں گے۔

لہ یہ خیال کرتا کہ برأۃ اور مقاتلہ کا حکم صرف ان غیر مسلموں کے ساتھ مخصوص ہے جو قتال اور مصائبی ہیں، لیکن جو غیر مسلم قوم مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتی اور ان کی ذمی ہے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث سے جہل کا تبیہ ہے۔ آخر یعنی کہ احمد مسیح الطائفین میں خدا نے غیر معاافی قافلہ تجارتی کیا تھا یا نہیں؟ صحابہ کا ارادہ بھی ہی تھا۔ اگر ایسا کرنے حرام تھا تو قرآن کو تو کیا چاہیئے تھا۔ صلح حدیث کے سلسلہ میں بھی ابو بصیر صحابی اور ان کے رفقاء کا گور صرف تجارتی قافلہ کے اموال غیر مخصوص پر ہوا تھا۔ حضرت ابو ذرؓ بھی ایک زمانہ میں یہی کھاتے تھے۔ بہر حال قتالی ہو یا غیر قتالی، امیر کا اذن ہو یا نہ ہو، غیر ذمی کفار میباخ الدم والاموال ہیں۔ ابو بکر جصاص اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْفَقَرَاءِ عِيَّ حَظْرُرُدِ يَمِشْ (قتال من استول قتالنا من المشركيين). صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے۔ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَّهَا الْقَرْبَيَةُ إِنِّي تَمَوَّهُ أَنْ فَقَسَّمْتُ فِيهَا وَأَيَّهَا الْقَرْبَيَةُ غَنِمَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنْ خُسْرَهَا إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ۔ اس کی شرح میں حیاضن لکھتے ہیں۔ أَنَّ الْمَرَادُ بِالْقَرْبَيَةِ الْأَوْلَى هِيَ الْقِلْمَرْجُونُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ بِخَيْرٍ وَلَا رَكَابٌ بِلْ أَجْلٍ عَنْهَا أَهْلُهَا وَصَالَحُوا فَيُكَوِّنُ سَهْلَهُمْ فِيهَا كَمَا تَقُولُ فِي الْقِلْمَرْجُونِ۔ (سبيل السلام بقاضی حیدر لالانی)

حاشیہ از مودودی۔ یہاں مولانا سے بڑی چوک ہوئی کہ انہوں نے مخارب (Lellio) اور غیر مخارب (Non-Belligerant) کے فرق کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ مخارب وہ قوم ہے جو مسلمانوں سے بربر جنگ ہو۔ ایسی قوم کا کوئی فرد بگرددہ بالفعل مقاتل (Combatant) ہو یا نہ ہو، بہر حال اس کا مال میباخ ہے۔ ہم اس کے تجارتی قافلوں کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ اس کے افراد ہماری زندگی آئیں گے تو ہم ان کو پھر دیں گے اور ان کے اموال پر تبضہ کر لیں گے۔ مولانا نے جتنی مثالیں پیش کی ہیں وہ سب اسی قبیل را قیص (223 پر)

عوادی المقصود

بہر حال اصلی بحث یہ تھی کہ غیر اسلامی طبقے میں مسلمانوں کی زندگی کا دستور العمل کیا ہونا چاہیئے اور وہاں کے باشندوں کے ساتھ ان کے تعلقات کی کیا نوعیت ہوگی۔ بیچ میں ایک مسئلہ کا ذکر آگیا۔ بات تو بہت عام تھی لیکن تصحیح خیالات کے لیے مجھے

(ابقیہ حاشیہ ص ۲۴۳) کی ہیں۔ لیکن جو قوم، ہم سے بر سر جنگ نہیں ہے، وہ خواہ معابر ہو یا نہ ہو اس کے اموال ہمارے لیے مباح ہیں ہیں۔ قرآن میں تصریح ہے کہ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْمَذَاجِنِ لَهُمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الْمَدِينَاتِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبْرُؤُهُمْ وَلَا يُنْهِيُوكُمْ رَأْيُهُمْ (المتحف - ۲) یہ بات یعنی مقتضائے عقل و انصاف ہے۔ ورنہ اگر مسلمانوں کے لیے مطلقاً ہر غیر ذمی کافر کا مال مباح ہو جیسا کہ مولانا کے بیان سے ظاہر ہو رہے ہے، تو مسلمانوں کی قوم اقوامِ عالم کے درمیان امت و سلط ہونے کے بعد جائے ایک یہ طی قوم بن جائے گی، غیر قوموں پر ڈال کے مارنا اس کا پیشہ قرار پائے گا اور دنیا میں اس کا وجود ایک بلا مجھے عام ہن جائے گا۔ رہایہ سوال کہ جب غیر مسلم مسلمانوں کے مال پر ظالمانہ قبضہ کر کے اس مالک ہو سکتا ہے تو مسلم بھی کیوں نہ اس کے مال پر قبضہ کرنے کا مجاز ہو، تو یہ بھی درحقیقت حالت جنگ سے تعلق رکھتا ہے۔ حالت امن میں اسلام اپنی رحمایا کو دوسرا غیر عادب قوموں پر ڈال کر ذمی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر دوسری قوم کے افراد مسلمانوں پر ڈال کر ذمی کی ابتداء کریں تو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان حالت جنگ قائم ہو جائے گی اور اس وقت مسلمانوں کے لیے ان کے اموال اور خون مباح ہو جائیں گے۔ قرآن میں جہاں مشرکین سے اعلان برادرت کیا گیا ہے وہاں صاف طور پر یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وَ هُنَّا بَدَآ وَ كُنَّا أَوَّلَ مَرَّةً وَ دِيْنِي ظلم کی ابتداء ان کی طرف سے ہوئی تھی پس مسلمان اپنی طرف سے سلب و نہیں کی ابتداء نہ کریں گے۔ بلکہ جب ابتداء دوسروں کی طرف سے ہوگی تو وہ معابر کی صورت میں فَإِذَا رَأَيْتُمْ عَلَى سَوَاءٍ پر پہلے سے معابرہ نہ ہونے کی صورت میں اعلان جنگ پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد تمام قوم جزی قرار پائے گی اور اس کے اموال اور خون مباح ہو جائیں گے۔

اصل بحث سے مخواہی دیر کے لیے دُور جانا پڑتا۔ اب میں پھر اپنے اصلی مدعا کی طرف آتا ہوں۔

میں عرض کر چکا ہوں کہ ”مستامن مسلمان“ کے لیے فرض ہے کہ جس غیر اسلامی حکومت میں وہ امن کی صفائی کے لئے کردار ملکی ہے وہاں کے مروجہ قوانین کی سختی سے پابندی کرے۔ کسی کے مال و جان، عزت و آبرو پر حملہ کر کے قانون وقت کو توڑنا خرد ہے۔ اور غدر قرانی و حدیثیہ اجتماع حرام ہے۔ الغرض قانون وقت کی پابندی اس کا ایک مذہبی فریضہ ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ قانون ملکی کے خلاف نفاد میں نصف ماشہ کا بھی اضافہ یاریل کے سامان میں پاؤ سیر کی زیادتی بھی اس کے لیے ناجائز ہے۔ اور مذہبی وجہ ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ امن پسند قوم مذہبی حیثیت سے کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ ”اسلامی قانون“ کی رو سے ایک فعل ناجائز ہے۔ مثلاً بھی سود کا مسئلہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے کسی دوسرے مال لینا اسلام میں قطعاً حرام ہے، مگر غیر اسلامی قانون میں اس ذریعہ سے تحصیل مال کی اجازت ہے بلکہ حکومت بھی بڑے وسیع پیمانے پر مختلف صورتوں میں اس کا کار و بار کرتی ہے۔ ایسی صورت میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیئے ظاہر ہے کہ اس صورت میں اگر وہ ”مستامن مسلمان“ اس ذریعہ سے اس لفکر کے غیر مسلم باشندے کا مال حاصل کرتا ہے تو نقض معاهدہ یا قانون شکنی یا غدر کا تو وہ قطعاً مترکب نہیں ہے اور اس لحاظ سے مذہبی طور وہ قانون معاهدہ کا قطعاً مجرم نہیں۔

اب رہ گئی یہ بحث کہ کیا اس نے کسی دوسرے سے ایسے مال کو حاصل کیا ہے جس کے لینے کا گو قانون ملکی نے اسے جائز گردا تھا ہے لیکن مذہبی پاندہ اس کے لینے سے روکتا ہے؟ یا یوں کہ کیا اس نے ایسا مال حاصل کیا ہے جو قانون نہ سمجھی لیکن اسلام کی رو سے وہ مباح نہ تھا بلکہ معصوم تھا؟ ابھی شریعت را اسلامی قانون (بلکہ قرآن سے گزر چکا ہے کہ اس قسم کا مال مسلمان کے لیے مذہبیاً غیر معصوم اور مباح ہے۔ پھر ایک

لئے اگر مولانا کی اس تعبیر قانون کو مان لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہندوستان را قبضہ پر لے

مسلمان کیا کرے؟ قرآن اور مذہب جس کو خیر مخصوص اور مباح کہتا ہے کیا وہ اپنے مذہب سے روگردائی کر کے اس کو مخصوص اور خیر مباح کہہ دے؟ بمحض میں نہیں آئتا کہ جس مال کو نہ قانون ناجائز قرار دیتا ہے اور نہ شریعت حرام قرار دیتی ہے بلکہ اس کے لیئے کا حکم دیتی ہے، غریب مسلمان آخر اس جائز کو کس طرح ناجائز اور اس حلال کو کس طرح حرام کر دے؟ کیا وہ سلطنت کے قانون سے بناوت کرے؟ یا شریعت کے حکم کو توڑے؟ کیا اس کے بعد مسلمان کے لیے کہیں بھی بناء ہے؟

اسلامی قوانین کا یہی وہ اضطراری مقتضا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے سب سے محتاط، بلکہ بقول بعض عوام، سخت گیر امام، امام الائمه، تدوۃ الاتقیاء، قائم اللیل، الشافعی، المجتبی، المطلق امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ نہایت بین اور غیرہم واضح لفظوں میں امام محمد رحمنے "سیر کیر" میں نقل فرمایا ہے۔

وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْهُرُوبِ بِأَمَانٍ فَلَا يَأْسَ بِأَنْ
يُأْخُذَ إِنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ بِطَيِّبِ الْفُسُورِ بِمَا تَحْبِبُهُ كَلَّا

(البیهی حاشیہ ص ۲۳۳ سے) میں کسی غیر مسلم کے مال کو ٹوٹنے یا چڑھنے یا رشوت دنیا نت کے ذریعہ سے لیتے والا مسلم صرف قانون ملکی کا جرم ہو گا، اور مذہب اگر اسے گناہ کا رسما جائے گا تو صرف اس بنا پر کہ اس نے قانون محاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے نہ کہ ان احکام اسلامی کی جن میں ان افعال کو بجائے تو در حرام کیا گیا ہے۔ نیز اگر کسی غیر مسلم حکومت میں کوئی مسلمان حورۃ العیاذ بالله فخش کاری کا پیشہ اختیار کرے اور غیر مسلموں سے زنا کی اجرت لے تو ایسا مال بھی اس کے لیے حلال و طیب ہو گا کیونکہ جب غیر مسلم حکومت کا قانون اس کے اس پیشہ کو جائز رکھتا ہے اور اسے فاحشہ گری کا لائنس دے دیتا ہے تو وہ قانون محاہدہ کی خلاف ورزی کی جرم نہیں ہے اور جب اسلامی شریعت خیر ذاتی کا فرکے مال کو قرار دیتی ہے — خواہ کسی صورت سے اس مال کو لیا جائے — تو وہ شریعت کی رو سے بھی حرام خوری کی جرم نہ ہوئی۔ ممکن ہے کہ مولانا اس تجویز کو نہ مانیں مگر ان کے طرز استدلال کا منطقی تبھیر تو ہی ہے۔ (مودودی)

لَوْمَةٌ إِنَّهَا أَخْذُ الْمُتَّبَاهِ عَلَى وَجْهِهِ هُوَ يَحِينُ الْغُدَرِ فَيَكُونُ
ذَلِكَ طَبِيعَةً۔ — (منتقول از شامی ص-۲۱ ج-۲۱ مطبوعہ مصر)

جب مسلمان دارالحرب (غیر اسلامی ملک) میں الی کا معاهده کر کے
داخل ہو تو اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے کہ وہاں کے باشندوں

لے دارالحرب سے مراد دراصل ایسا ملک ہے جو مسلمانوں سے بر سر جنگ ہو جس سے
سلطنت اسلامی کی مسلم رعایا کے افراد حالت جنگ میں بطور خود امان (Safe Conduits)

— سے کر غیر معاند اور (Trade Liciencist)

کاروبار — کے لیے جائیں — حنفی

قانون کی اس دفعہ کو ایسے دارالکفر پر چپاں نہیں کیا جاسکتا جہاں مسلمانوں کی ایک قوم
محارب مسلمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ رعایا کی حیثیت سے آباد ہو اور اسے اپنی حد تک
اپنے پرستی لاء کی پابندی کا حق بھی حاصل ہو۔ مولانا کے نظریہ کی بنیادی خطیلی یہ ہے کہ وہ

ہر غیر ذمی کافر کو حربی (Enemy) اور ہر غیر مسلم مقبولہ کو دارالحرب (Enemy

Country) سمجھ رہے ہیں۔ یہ اسلام کے بیانیں قانون کی بالکل خلط تعبیر ہے۔ غیر مسلم
کمال اور خون صرف حالت جنگ میں مباح ہے، اور وہ بھی اسلامی سلطنت کے لیے
نہ کہ خود اس غیر مسلم سلطنت کی مسلم رعایا کے لیے جس کو آپ حربی قرار دے رہے ہیں۔

حنفی قانون کا منشاء صرف اس قدر ہے کہ جب کوئی مسلمان دشمن کے ملک میں امان

لے کر جائے تو وہاں وہ عقود قاسدہ پر بیح و شر اکر سکتا ہے۔ یہ اجازت دو وجوہ پر
مبنی ہے۔ ایک یہ کہ دشمن کا مال فی الاصل مباح ہے۔ جب اس کو ب مجرم چین لیا جاسکتا

ہے تو عقد قاسد کے ذریعہ سے حاصل کرنا تو بدرجہ اولیٰ جائز ہونا چاہیئے۔ دوسرے
یہ کہ جنگ کی حالت ایک اضطراری حالت ہے اور اضطرار میں حرام حلال ہو

جاتا ہے۔

(غیر مسلم) کی مرضی سے ان کا مال لے نواہ ذریعہ کوئی بھی ہو، کیونکہ اس نے ایک مبلغ مال کو لیا ہے اور ایسے ذریعہ سے لیا ہے جو قانونی طبقی (غدر) سے پاک ہے تو یہ مال اس کے لیے پاک اور طیب ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ فتویٰ سے اس عہد تاریک کا نہیں ہے جس وقت مسلمان حکومت ہے جس زمانہ میں امام رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت سے اس قانونی دفعہ کو پیدا کیا تھا اسکا باساً اس وقت کسی کے حاشیہ خیال میں بھی مسلمانوں کے اعمال و افعال، عقائد و رسوم کی وہ دوڑشی نہ تھی جو "نادر یورپ" کی صورت میں یکایک طبقی بھائی بیان تک عباد صالحین

لے ان الفاظ کی عمومیت محل نظر ہے۔ اگر پھر امام محمدؒ نے یہ لکھا ہو، مگر اس کو بلا کسی قید و شرط کے نہیں مانا جاسکتا، ورنہ جائز ہو گا کہ مسلمان دارالحرب میں جا کر شراب فروشی شروع کر دے یا قبضہ خاتم کھول دے یا کوئی مسلمان عورت قبضہ گری کا پیشہ کرنے لگے۔ (مودودی) لے غالباً امام ابو عینیہ رحمہ کے حاشیہ خیال میں یہ بات بھی نہ تھی کہ وہ حکم انہوں نے دشمن کے لکھی اماں لے کر جانے والے مسلمان تاجر و میتھوں کے سچے بیان کیا تھا اس کو غیر اسلامی مقبولیات میں مستقل اسٹھنے والے اُن کو ڈڑوں مسلمانوں پر چیخ کیا جائے گا جو غیر مسلم حکومت کے تحت اتنی آزادی ضرور رکھتے ہیں کہ اسلام کے معاشی و تمدنی احکام کی پابندی کر سکیں۔ امام صاحب نے جو قانون بیان فرمایا ہے وہ صرف ایسے دارالحرب (بربر چنگ علاقے) کے متعلق ہے جس میں دارالاسلام کا کوئی مسلمان کار و بار کے لیے اماں لے کر جائے۔ ان کا یہ مقصود ہرگز نہ تھا کہ مسلمان جہاں غیر مسلم حکومت کے تحت ایک کثیر تعداد میں مستقل ہو دو باش رکھتے ہیں وہاں وہ اسلام کے معاشی قانون سے آزاد ہیں۔ اور جن مالی معاملات کو اسلام نے حرام کیا ہے وہ سب وہاں کیے جاسکتے ہیں۔ ایسی چیز تو مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو نہ صرف غیر اسلامی میہشت سے بچیں بلکہ اپنی پوری اجتماعی قوت اس نظام کو بدلتے اور اس کی جگہ اسلامی نظام قائم کرنے میں صرف کریں۔ لیکن مولانا جس طریق پر اسلامی قانون کی تعمیر فرمادے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہندوستان کے کئی کرد مسلمان اپنی قومی ربانی میں پر

نے قوم عابدین کو عبادت کے کٹھرے کی طرف بھاگنے کے لیے اپنی میراثوں میں، خوشنی و قطبی میراثوں میں، ان شیروں کو کچاروں سے چھوڑ دیا جو سب پر حکم کر سکتے ہیں، لیکن جن کافر یعنی عبادت تھا ان کے پاس ان کے لیے کوئی رحم نہیں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ فقہاء جب اس مسئلہ کا ذکر کرتے ہیں کہ کسی اسلامی مفہوم پر فرض کرو کہ غیر اسلامی حکومت قابض ہو جائے تو بطور جملہ معتبر یعنی کے عیاذ باللہ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اس مفہوم کو بھی وہ فرض کرنے سے گہرا تے ہیں۔ ایسی صورت میں اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ امام اعظم نے کسی وقت صورت کے آگے نہیں بلکہ کتنی شریعت کی مجبوریوں کے آگے گردن چھکا دی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ خود جناب رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس فتویٰ کی عملی تصدیق صحیح روایتوں سے ثابت ہے۔ جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم و ایران کی باہمی آوریوں کے زمانہ میں قرآن مجید کی پیش گوئی پر اصرار کرتے ہوئے ایک غیر اسلامی ملک یعنی کہہ مکرمہ میں رجواں وقت حکومت اسلامیہ کے تحت (نہ تھا) قریش سے یہ شرط لگائی گئی کہ قرآن ہی کی پیش گوئی پوری ہوگی۔ تو جب وہ پوری ہوئی تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے اونٹ لینے کا حکم دیا اور یہ اونٹ داروں سے وصول کیے گئے (ترمذی)، فقہاء اسلام اس حمل سے اس قانون کی توثیق کرتے ہیں۔ دور نظر ہر سے کہ اس قسم کی "شرط" صریح قمار (بُجُوا) ہے جس کی حرمت قطعی نصوص سے ثابت ہے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۲۳۶ سے) طاقت کو ملک کے معاشی و تمدنی نظام کی اصلاح پر صرف کرنے کے مجاز ہے خود اس قانون نظام میں جذب ہو کر رہ جائیں گے۔ (مودودی)

لہ ترمذی میں تصریح ہے کہ یہ شرط اس زمانہ میں ہوتی تھی جب تحریم رہا ان دشمنوں کی حرمت کا حکم نہیں ہوا تھا۔ تفسیر ابن حجر یہ بھی اس کی تصریح کی گئی ہے۔ پھر تفسیر زین الدین اور میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس شرط کا مال اُپنی عن خلفت کے (باقي حاشیہ ص ۲۳۸ پر)

دارالحرب میں سود حلال نہیں بلکہ فی حلال ہے
 لوگوں میں یہ عجیب بات مشہور ہے کہ غیر اسلامی حکومتوں میں سود حلال ہو جاتا
 ہے، اور نہ یادہ ترا صل مسئلہ کے سمجھنے میں بھی تعمیر بالغ آتی ہے۔ درہ مسئلہ کی بنیاد
 جس قرآنی قانون پر ہے اس کے لحاظ سے یہ کہنا قطعاً غلط ہے کہ جو چیز حرام حقی وہ
 کسی وقت حلال ہو گئی۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیشہ سے حلال تھی وہی حلال
 ہوتی۔ خدا جس چیز کو حلال آطیا فرماتا ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسی کو طیب فرماتے ہیں
 درہ ایک مسلمان کو اس کا کیا حق ہے کہ قرآن جس چیز کو حرام کرے اسے وہ اپنی رائے
 سے یا کسی معمولی ظنی خبر کی بنیاد پر حلال کر دے۔ خصوصاً وہ جو واحد خبروں سے نص
 پر اضافہ کو کسی طرح جائز قرار نہیں دیتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ علاوہ وہی وجہ کیان
 (قانون وقت کے جس جائز کردہ ذریعہ سے بھی وہ مال ملتا ہو) کی عمومیت کے امام
 ابو حیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سود ہی کو نہیں بلکہ قمار (بُوَا) کے ان ذرائع سے بھی
 تحصیل مال کو طیب قرار دیا ہے جس کی قانون وقت میں ممانعت نہ ہو۔ مثلاً یہی بھی
 ہے یا لائف اشو نس کا ذریعہ ہے علماً دارالاسلام کے نزدیک قمار اور سود کی یہ مرکب

(باقیہ حاشیہ ص ۲۷۲ سے) درہ اضافہ سے وصول کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے صدقہ کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مال کروہ
 نہ تھا، دشمن سے لے لیا گیا مگر اسے خود اپنے استعمال میں لانا پسند نہ کیا گیا۔ (مودودی)
 لہ دارالحرب جو احکام فقہ حنفی میں حالت جنگ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ہندوستان پر چپاں
 کر کے مولانا سخت غلطی کر رہے ہیں۔ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ ہندوستان میں جو شے اور سے
 اور لاٹھی اور میں کے ذریعہ سے بھی مسلمان روپیہ کا سکتے ہیں اور یہ مال ان کے سے
 طیب ہے۔ اگر اسی پر فتویٰ ہو جائے تو معاشی جیشیت سے مسلمانوں اور غیر مسلموں میں قطعاً
 کوئی فرق نہ رہے گا اور جہاں تک معاشی زندگی کا تعلق ہے، تمام مسلمانین ہند غیر مسلم ہو
 جائیں گے۔ اصلی غلطی یہ ہے کہ مولانا ہر اس غیر مسلم کے مال کو مباح سمجھ رہے ہیں (دیاقی ص ۲۹۹ پر)

شکل ہے، لیکن سیر کبیر میں امام محمد امام اعظم سے ناقل ہیں۔
 اَوْ أَخَذَ مَا لَأُمْنِي بِهِ تَطْرِيقُ الْقُتُّارِ فَدَالِكَ مَلَكٌ طَيِّبٌ،
 اگر ان سے غیر مسلموں سے، جو شے کے ذریعہ سے مال لے گا تو
 یہ سب اس کے لیے پاک اور طیب ہے۔

دقیقہ عاشیہ ص ۲۳۸ سے) جس کی ذمہ داری کسی اسلامی حکومت نے دلی ہو۔ حالانکہ اس نظریہ کی تائید قرآن و حدیث کے کسی حکم سے نہیں ہوتی۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ ایسے دارالکفر کو بواسلامی اصطلاح کی رو سے درحقیقت دارالحرب نہیں ہے، دارالحرب قرار دے رہے ہیں۔ یہ نہ صرف محو ہے بلکہ اپنے نتائج کے اختبار سے مسلمانوں کی قومی زندگی کے لیے ہلکا بھی ہے۔ ہندوستان اس وقت بلاشبہ دارالحرب تھا جب انگریزی حکومت یہاں اسلامی سلطنت کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کا فرض تھا کہ یا تو اسلامی سلطنت کی حفاظت میں جانیں لڑاتے، یا اس میں ناکام ہونے کے بعد یہاں سے ہجرت کر جاتے۔ لیکن جب وہ مغلوب ہو گئے انگریزی حکومت قائم ہو چکی اور مسلمانوں نے اپنے پر شل لا پر حمل کرنے کی آزادی کے ساتھ یہاں رہنا قبول کر لیا تو اب یہ لک دارالحرب نہیں رہا۔ بلکہ ایک ایسا دارالکفر ہو گیا جس میں مسلمان رعیت کی حیثیت سے رہتے ہیں اور قانون علکی کے مقریب ہوئے جو دمی اپنے ذہب پر حمل کرنے کی آزادی رکھتے ہیں ایسے لک دارالحرب مٹھراانا اور ان شخصتوں کو نافذ کرنا بوجمع دارالحرب کی جبودیوں کو پیش نظر کر دی گئی ہیں، اصول قانون اسلامی کے قطعاً خلاف ہے، اور نہایت خطرناک بھی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ مسلمانوں کو اس لک میں اسلامی قوانین پر حمل درآمد کرنے کے بو تھوڑے بہت اختیارات حاصل ہیں اس سے بھی وہ خود بخود دست بردار ہو جائیں گے، مژیقت کے بو رہے ہے جو دمی وقت ان کے قومی وجود کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ بھی باقی نہ رہیں گے اور مسلمان غیر اسلامی نظام میں جذب ہو کر رہ جائیں گے۔ انتہائی اضطرار کی حالت میں مسلمانوں کے ایسے منتشر افراد کو جن کی کوئی اجتماعی راتی ص ۲۵۰ پر)

سُود کی شہرت کا سبب غالبہ امام کھوں (و محدثین کے نزدیک ایک ثقراوی ہیں) کی وہ مرثی حدیث ہے جو اسی مسئلہ کی تائید پیش کی جاتی ہے اور وہ یہ ہے:-

عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا رَبُّ الْجَنَّاتِ بِأَيْمَانِهِ وَلَا أَنْفَاسٌ
(استداؤ بیہقی)

کھوں سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی
ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو (غیر مسلم) اور مسلمان کے
درمیان سود نہیں ہے۔

لوگ نہ معلوم اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں ورنہ ظاہر الفاظ سے جو کچھ مستفادہ ہوتا
ہے وہ یہی ہے کہ مسلم اور غیر ذمی نا مسلمان کے درمیان اگر سود کا معاملہ ہو تو وہ سود،
سود ہی نہ ہو گا بلکہ "قرآنی قانون اباحت" کے تحت یہہ مسلمان کے لیے طیب و
حلال ہے۔

بہر حال اسلامی شریعت، قرآن و حدیث، عمل صحابہ کی رو سے یہ ایک ایسا واضح
اور صاف قانون ہے جس سے اہمکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لوگ کھوں کی حدیث
رسل کے متعلق جیتیت و عدم جیتیت کا سوال اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز سی تو تائیدیں

رقبیہ حاشیہ ۲۵۰) طاقت نہ ہوا اور جو معاندیں کے درمیان گھرے ہوئے ہوں، اسلام اپنے
قانون کی گرفت ڈھیلی کر کے چند رخصتیں عطا کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ حکم بھی دیتا ہے
کہ اس حالت میں قیام نہ کرو، بلکہ بعجلت حکماء دار الاسلام کی طرف واپس آجائو۔ مولا نما ان
رخصتوں کو ایسی قوم کے لیے عام کر رہے ہیں جو کہی کروڑ کی عظیم الشان تعداد ہے اور سبق
طور پر اس ملک میں متواطن ہے۔ دار الحرب کے احکام ایسی قوم کے لیے ہرگز نہیں ہیں اس
کو تو نہ صرف یہ کوشش کرنی چاہیے کہ فریادہ سے زادہ جن احکام اسلامی پر عمل کرنا ممکن ہو
ان پر عمل کرے بکہ اُسے دارالکفر کو دارالاسلام بنانے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف
کرنی چاہیے۔ (مودودی)

پیش کی جاتی ہیں، اور نہ واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کے اموال کے طیب و علال ہونے کا حکم تو قرآن کے نصوص صریحہ کی واضح عبارت کا نتیجہ ہے۔ علامہ ابن ہمام نے بالکل صحیح لکھا ہے:-

وَقِي التَّحْقِيقِ يُقْتَبِسُنِي أَتَهُ لُوكْمَرْيَرْ مُكْحُولُ الْجَازُ الْأَنْظَرُ الْمَذَكُورُ -
دفی التحقیق یقتبسنی آتھ لوكمریر مکھول الجاز الاظتر المذکور - ص ۱۴۸

اور تحقیق کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر مکھول کی روایت نبھی دارد ہوتی تو مذکورہ بالا "نظر" اس کی اجازت دینی ہے۔

صاحب بداع نے اسی بنیاد پر امام ابوحنیفہؓ کے مذهب کی صحیح تعبیر کی ہے:-

وَعَلَى هَذَا إِذَا دَخَلَ مُسْلِمٌ أَوْ ذُنْبِيَّ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَعَاقَدَ حَرْبِيًّا هَذَا الْبَرِيَّ أَوْ خَيْرٍ مِّنَ الْعَقُودِ الْفَاسِدَةِ فِي الْإِسْلَامِ جَازٌ -
ص ۱۳۲ - ج ۷

اور اس بنیاد پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر مسلمان یا ذمی دار الحرب (غیر اسلامی ملک) میں امن کا معاملہ کر کے داخل ہوا اور کسی غیر مسلم نے ربوب (رسود) کا معاملہ کیا یا اس قسم کا کوئی معاملہ کیا جو اسلامی قانون کی رو سے فاسد ہو تو وہ معاملہ جائز ہو گا۔

فے اور پھاؤ کی اصطلاح

اور اسی لیے میرانا چیز خیال ہے کہ اس قسم کی تمام دنیا بوجو مسلمانوں کو غیر اسلامی حکومتوں میں قانوناً میسر ہ سکتی ہیں، ان کو بجائے مسودہ یا تمہاریا بوجو اور غیر وہ کہے مناسب ہو گا کہ اس کا خاص نام "فے رکھ دیا جائے جس کے معنی گویا یہ ہوں گے کروہ مال جو بغیر کسی حرب و قتال، جنگ و جدال کے دوسرا اقوام سے امن پسندانہ طور پر قانون وقت کی پوری پابندی کے ساتھ مسلمانوں کو ملا۔ مجھے ایسا لہ شامی ہیں ہے:- وَمَا أَخْذَنَا مِنْهُمْ بِلَا حِرْبٍ وَلَا قَهْرٍ كا له دانۃ (باتی ص ۲۵۲ پر)

خیال آتا ہے کہ ہندی میں ایک لفظ ”پھاؤ“ کا ہے جو قریب تریب و فی“ کا ہم پڑھی ہے، اور غالباً ایک حد تک اسی معنی کو ادا بھی کرتا ہے۔ خواصِ توال آئندیوں کو اپنی ”فی“ کی آمد فی کہیں گے۔ عوام کی زبان پر (ف) نہ پڑھنے کی توجہ اس کو ”پھاؤ“ کہہ دیں گے۔ اس تعین اصطلاح ایک بڑی ضرورت وہ وجہ بھی ہے جو بعض ثقافت اسلام کی جانب سے اس مسئلہ کے متعلق بطور اندریشہ یا خطرے کے پیش کی جاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر اس مسئلہ کا اعلان کر دیا گی تو ممکن ہے کہ امتدادِ زمانہ کے بعد مسلمان اس کو مجبول جائیں گے کہ سُودَّتْ قمار اور ازمن قبیل دوسرا سے فرائع ان کی شریعت میں حرام بھی تھے یا نہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ان آئندیوں کا نام ”فی“ کا کجا جائے کہ اس لفظ سے مسلمانوں کو یہ یاد آتا رہے گا کہ غیر اقوام سے ان کے شرعی تعلقات کیا

وَلَقِيْرَ حَاشِيَةِ ص ۲۵) وَالصِّلَحُ فَهُوَ لَا غَيْرَهُ وَلَا فِي وَحْكَمِهِ حَكْمٌ الْمُقِ (ص ۲۵)
اور جو کچھ ان سے بغیر جنگ اور ذریتی کے لیا جائے مثلاً خراج یا مال صلح، تو وہ نہ
غیرت ہے اور نہ فی بلکہ اس کا حکم فی کا حکم ہے۔

فتح القدریہ میں ہے:- فَكَانَ هَذَا الْكِتَابُ مِبَاحًا مِنَ الْمُبَاحَاتِ
كَالْأَحْتَطَابِ وَالْأَصْطَيْبَادِ۔

یہ اکتساب مبایحت میں ہو گا جیسے کہ دیاں چننا اور مجھلیاں پچھڑانا۔

فی کی تعریف سبل السلام میں ہے:- هُوَ مَا حَصَلَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِ
الْكُفَّارِ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ وَلَا جِهَادٍ۔

وہ مال تو مسلمانوں کو کفار کے اموال میں سے بغیر جنگ و جہاد کے حاصل ہو۔ اور
اراضی بنی نضیر کے متعلق فوڈ قرآن میں ہے:- مَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ إِلَّا دِرَكَابِ۔
جس پر تم نے دوڑ دھوپ دی کی ہونے گوئے دل سے نہ اذن ہوں سے۔

تمام احادیث کی کتابیں معمور ہیں کہ اس فی کی آمدی سے اہل بیت نبوت کے ذاتی
مصارف پورے ہوتے تھے۔ (فضل گیلانی)

ہیں اور غیر اسلامی حکومتوں کے معاہدہ امن کی بحیثیت ان پر شرعاً کس حد تک لازم ہے۔ آخر جن کا رو باری معاملات سے خدا ناراض نہیں ہے، قانون خوش، حکومت خوش، دیس نے دلے خوش، ان کے اختیار کرنے میں مسلمانوں کو کسی چیز سے ڈرنا چاہئے۔

فَسَمِعَ الْكَافِرُونَ قَوْمًا جُنُدًا هُنَّ

پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے کچھے سرمایہ دار، قلیل البضاعة اس حلال، بلکہ بالفاظ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ طیب آمد فی کو، جسے میں "فَسَمِعَ الْكَافِرُونَ قَوْمًا جُنُدًا هُنَّ" کہتا ہوں، اور جس کے متعلق قرآن کا صريح حکم حلالاً اطیباً ہے، نہ لے کر قومی جرم اور قومی خودکشی کے مركب ہو رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ مسلمانوں کے سرماشے جو یہ نکوں میں محفوظ ہیں ان کے لاکھوں روپے کا "فَسَمِعَ الْكَافِرُونَ قَوْمًا جُنُدًا هُنَّ" صرف یہی نہیں کہ غیر اسلامی قوتوں کی پالیسی ہے، اور مسلمانوں کے بیلے معاشی راہوں کے بدلتے سے ہر ماں بیکار ہو جاتا ہے، بلکہ مسنا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اس "فَسَمِعَ الْكَافِرُونَ قَوْمًا جُنُدًا هُنَّ" کے بخوبی، حورتوں اور غریبوں کو اسلام

لئے قرآن کی اصطلاح میں فَسَمِعَ الْكَافِرُونَ قَوْمًا جُنُدًا هُنَّ قوم سے بغیر قتال کے حاصل ہو۔ سورہ حشر پڑا حد ہا یہے۔ تمام ذکر حالت جنگ کا ہے۔ بنی نضیر پر حرب علیٰ کی گئی۔ کارزار کی نوبت نہ آئی تھی کہ وہ مرخوب ہو گئے اور انہوں نے جلاوطن ہونا قبول کیا۔ اس موقع پر جو اموال مسلمانوں کے قبضہ میں آئئے ان کو فَسَمِعَ کہا گیا یہ اصطلاح اُن اموال پر کیوں کر چپاں ہو سکتی ہے جو حالت امن میں غیر محادب کافروں سے مُحْدَّد اور قمار بازاری اور سٹے اور در در سے غیر اسلامی طریقوں سے حاصل کی جائے۔ پھر اگر یہ فَسَمِعَ بھی، تو افراد اقتدار فرداً فرداً اُس کو کیسے کھا سکتے ہیں۔ اموال فَسَمِعَ کے متعلق قرآن میں تصریح ہے کہ وہ حکومت کے خزانے میں داخل کیسے جائیں اور ان کو عام مصالح اسلامی پر صرف کیا جائے۔ مَا أَفَأَعَذَّ اللَّهُ عَلَى أَنْ تُؤْلِيَهُ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَى فَلَذِكَهُ دَلِيلٌ وَّ دَلِيلٌ

الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينَ وَ أَبْنَى السَّبِيلَ دالحسن

چھڑا چھڑا کر مُحَمَّد رسول اللہ کی صفات سے توڑ توڑ کر غیروں کی صفت میں بھرتی کیا جاتا ہے۔ لفظ بندوں میں حیر جھوئی الرَّسُولَ قَرَأَتِيَّا كُثْرَانْ تُؤْمِنُوا کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ یہ اپنی قوم کے ساتھ غداری نہیں تو اور کیا ہے۔ ہائے مسلمانوں ہی کی چاندی کی چھڑی سے مسلمانوں کا ذبح کرنا کس نے جائز قرار دیا؟ کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ امام الدنیا والدین رسول رب العالمین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ خبر ہی نہیں پہنچ رہی ہوں گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دنیا والو؛ دیکھو! سُود کے جالوں میں پھنسا کر پورب پھتم، اُتر، دکھن، کے لوگ دل کھوں کر شکار کر رہے ہیں۔ سُود دو، یا کھیت دو، یا جانداد دو، یا مکان دو، یا عرب کے اُقی لقب صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ چھوڑ دو، ان جہروں کی شتر بخ پر کسی دردناک بازیاں کھیلی جا رہی ہیں۔

بینک کا سُود

بیحی ہے کہ بینک زیادہ تر سُود خوروں کی باضابطہ کمیٹیوں کا نام ہے۔ لیکن جب اس کا تنظیمی و اختیاری عملہ وہ نہیں ہوتا جن سے مسلمانوں کو روکا نہیں گیا ہے تو اب اس کمیٹی کی نمبری یا رکنیت نہیں ہے، بلکہ اس کمیٹی سے معاملہ ہے جو لوگوں کو سُود پر قرض دتی ہے؟ کون سے سُود لیتی ہے؟ یہ اس کا اپنا معاملہ اور جدید عقد ہے جس سے اس معاملہ کو قطعاً نسبت نہیں جو ایک مسلمان نے ارباب بینک سے کیا ہے،

لہ محتاط علماء نے اسی خیال سے کہ سُود کی رقم بینک میں چھوڑ دینا کفار کے لیے موجب تقویت ہو جائے گا، یہ فتویٰ دیا ہے کہ سُود بینک سے ہے کہ غریب مسلمانوں پر صدقہ کر دیا جائے یا مسلمانوں کی فلاج و بہبود کے کسی کام پر خرچ کر دیا جائے یہ فتویٰ ہمایت درست ہے۔ فقریں مال تحظیر کے متعلق یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر غلطی سے ایسا مال لے گیا ہو یا مجبوراً کسی مصلحت سے لینا پڑا ہو، تو اس کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ لیکن جو نقصان مولا نما فرمائے ہے اس سے بچنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سُود کو نئے قرار دینے کی کوشش کی جائے۔

بلکہ بین المللی قوانین کے بود فعالت آئین اسلامی سے گزر چکے ان کو سامنے کے بعد بینک والوں کے سامنے کار و بار جس کسی سے ہوں صحیح ہو جاتے ہیں یہ فلیت دا برا۔ ہاں میں نے پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی کہتا ہوں اور ہمیشہ کہوں گا کہ جو ایسا کرتے ہیں وہ وطن کی پاسبانی نہیں کر رہے ہیں۔ وطن والوں کے ساتھ، وطن کے مردروں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن جو وطن کا حافظ ہے، جس حکومت کو وطن کے باشندوں کی نجگانی پر دکی گئی ہے، جب وہی ان معاملات کو وطن کی بیویو دی اور ترقی کا ذریعہ سمجھتی ہے اور خود وطن والے بھی ایسا ہی

لے بینک کے سود میں کراہت کا ایک پہلو یہ بھی حاکم ہم جو رقم بینک میں رکھوا تے ہیں اس کو بینک والے سنجملہ اور معاملات کے سودی قرض کے کار و بار میں بھی لگاتے ہیں، اور جن لوگوں کو یہ سودی قرض دیا جاتا ہے اور ان میں مسلم اور غیر مسلم سب شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح جو سودہم کو بینک سے وصول ہوتا ہے وہ صرف خیر مسلموں ہی کی حیثیت سے نہیں ہتا بلکہ مسلمانوں کی بھی حیثیت سے آتا ہے۔ بالفاظ دیگر ہم مسلمان راہ راست سود نہیں کھلتے بلکہ بینک کے واسطے سے کھاتے ہیں۔ مولانا اس اعتراض کو یہ کہہ کر دفع فرماتے ہیں کہ ”حربي“ بینکرنے خود ہماری امانت کے روپے میں سے جب کسی مسلمان کو قرض دیا اور اس پر سود و صول کیا تو یہ سود کی رقم جائز طور پر اس کی ملک ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب ہم نے اس سے اپنی امانت پر سود و صول کیا تو یہ سود کی رقم جائز طور پر اس کی ملک ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب ہم نے اس سے اپنی امانت پر سود و صول کیا تو گویا ہم نے ”حربي“ کے مال پر دجو ہمارے لیے مباح اور حلال و طیب ہے، قبضہ کیا۔ اب یہ سوال باقی رہ گیا کہ جب یہ کافر حربی خود ہمارے دیئے ہوئے ہتھیار سے مسلمانوں کو ذبح کرتا ہے، اور پھر ان کے گوشت میں سے ہم کو بھی حصہ دیتا ہے تو ہم اپنا ہتھیار اس کو دیں ہی کیوں؟ مولانا نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔

سمجھتے ہیں تو مسلمان وطن کی وفاداری میں کیا اپنی قوم سے خدا رحی کر دیں؟ حالانکہ وطن تو وطن ان پر تو خاندانی حقوق کے سلسلہ میں بھی قومی خداری حرام ہے۔ قرآن کا علم اعلان ہے۔

لَئِنْ تَنْفَعُكُمْ أَذْخَامُكُمْ ذَلَّأَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَقْصِدُ بَيْتَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ دالمحنة ۳

تمہارے رشتے اور تمہارے بچے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ خدا تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ ہمیں صبر کا حکم دیا گیا ہے اور خاص وقت تک صبر ہی ہمارے لیے ہوتا ہے۔ لیکن کیا فانون صبر کے ساتھ "مجازاتہ بالمثل" کی بھی قرآن ہی نے تعلیم نہیں دی ہے؟

فَإِنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا إِنْ شِئْتُمْ مَا عُزُومُ قِبْطِكُمْ بِهِ وَلَئِنْ
هَبَّرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلْعَتَابِ رِيشَن۔ الخل ۱۴۹

اگر تم پر زیادتی کی جائے تو تم بھی اتنی ہی زیادتی کرو جتنی تم پر کی گئی اور صبر کر دے گے تو صبر کرنے والوں کے لیے ہی بہتر ہے۔

لیکن صبر کی کوئی نہایت بھی ہے؟ استقلال کی کوئی حد بھی ہے؟ جس نے صبر سکھایا اسی نے تو

لَا شُلْقُوا إِلَيْنَا دِيْكُمْ رَأَى التَّهْلِكَةَ۔ البقرة ۱۹۵

اپنے ہاتھوں اپنے کو ٹلاکت میں نہ رہالو!

لہ اس مسئلہ میں وطن کی وفاداری یا قوم کی خداری کا قطعاً کوئی سوال نہیں۔ اہل ایمان صرف اس بنا پر سودے سے باز رہتے ہے کہ خدا نے اس کو مطلق احرام کیا ہے۔ آپ اس روک کو ہٹا دیجیئے پھر کسی اور دلیل کی حاجت نہ رہتے گی۔ سرحدی پختان کی طرح ہندوستان کے مسلمان بھی سود خوری میں مار داڑی سے دس قدم آگے ہوں گے۔ (مودودی)

بھی سکھایا۔ قسطنطینیہ کی دیواروں کے نیچے سونے والے پورپ کے غازی
حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بو تہلکہ کی تفسیر فرمائی ہے جو ام نہیں
تو کیا اس سے خواص بھی جاہل ہیں؟

فَكَانَ لِيَنَا وَطْنِي جَرْمٌ بَحْرِيٌّ

بلکہ سوچنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ اس فی کانہ لینا صرف اپنی قوم کے ساتھ
ہی نہیں بلکہ وطن والوں کے ساتھ بھی دشمنی ہے زہر کھانے والے کو دیکھ کر صرف
دل میں افسوس کرنا یہ حقیقی ہمدردی ہے؟ یا آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے زہر کا
چھپن لینا سچی بھی خواہی ہے

مَنْ رَأَىٰ مُشْكُرًا فَلَيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَلْيَسْأَمِّهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقْلِبْهُ وَذَلِكَ أَضْعَافُ الْأَبْيَانَ۔

تم میں سے کوئی بڑی باست دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے
خود رکھتا ہو تو زبان سے اسے پلٹے۔ اس کی بھی مجال نہ ہو تو دل سے
جڑا جانے اور یہ بڑے کمزور ایمان والا ہے۔

حدیث کی ساری کتابوں میں سمجھتے ہو۔ لیکن پھر بھی ایمانی ضعف کے دائرے
سے نکلنے کی لوگوں میں حوصلہ نہیں ہوتی۔ خصوصاً جب استطاعت بھی ہو، حکومت کی
قوت تمہارے ساتھ ہو، وطن والے اس معاملہ میں تمہارے ہمتوں اہوں تو بنا تو تمہارے
لیے کیا عذر باقی رہا؟ کیا بولوگوں کے گال پر تھپڑا رہتا ہے وہ جرم کے نتائج و آثار کو
اس وقت تک سمجھ سکتا ہے جب تک کہ خود اس کے رخاروں کو بھی اسی گزندگی
خوراک نہ دی جائے جس کو اب تک اس نے نہیں چکھا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائیگا

لہ زہر چھپن لینا تو ضرور ہی خواہی ہے مگر اس سے چھپن کر خود کھا جانا اور پھر اس زہر کو کشنا
طلباً سمجھنا نہ بھی خواہی ہے ر عقل مندی۔ (مودودی)

لے ہندو، یہودی، عیسائی، سب آپس ایک دوسرے کے گال پر زیاقی حاشیہ میں ۲۵ پر

تو وہ بیچارے سے غریب انسانوں کی نازک کھالوں کو اپنی انگلیوں میں قوت پیدا کرنے کی مشق گاہ خیال کر لے گا۔ "فَهَلْ مِنْ شَدَّادٍ"

ہو سکتا ہے کہ بوجزند آج مسلمانوں کو پہنچایا جائے ہے جب اس کا احساس دوسروں کو بھی نہ گاتونا ممکن ہے کہ حکومت ہی ان معاملات کو قانوناً بند کر دے۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو اس وقت سب سے پہلے اس قانون کی تعمیل کے لیے جن کا سر ذہب جھکا دے گا وہ اُس نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت ہو گی جو دنیا میں اعلاء اور برتر مکار م اخلاق کی تکمیل ہی کے لیے مبعوث ہوا تھا۔ فحن الحق بمحکام الاحلاق۔ ہم مسلمان سب سے پہلے عمدہ بلند احکام کے حق دار ہیں یہ اس وقت ہم ذہب کے مجرم ہوں گے۔ اگر قانون وقت کے ساتھ غدر کریں گے۔ اگر حکومت نے بھی نہ مُشنا تو تو کیا تم تعجب کرتے ہو کہ جو دکھ مسلمانوں کو پہنچا جب اسی میں دوسرا سے پڑیں گے تو

(تفییر حاشیہ ص ۲۵۷ سے) یہ تھی طریقہ ہے ہیں، اور صدیوں سے مارہ ہے ہیں۔ مگر بوجزند کی خواک چکھنے اور چکھنے کے باوجود وہ اس کے نتائج و آثار کو نہیں سمجھتے۔ پھر کیونکہ امید کی جائے کہ مسلمانوں کے چند لکھے سے چھپڑان کو اس قدر چونکا دیں گے کہ وہ اس جرم ہی سے باذ آجائیں گے؟ مولیانا غالباً یہ سمجھ رہے ہیں کہ سُود دینے والے صرف مسلمان ہیں، غیر مسلم صرف سُود دیتے ہیں دیتے نہیں ہیں۔ اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ جب مسلمان بھی سود دینے پر اُتر آئیں گے تو سود خوار غیر مسلم گھبرا لٹھیں گے اور بالآخر حکومت ہند سُودی لین دین کو قانوناً منوع قرار دے دے گی۔

مگر صورت واقعہ یہ نہیں ہے۔ تمام غیر مسلم قویں سُود دیتی بھی ہیں اور دیتی بھی ہیں۔ مسلمان ان سے سُود لے کر انہیں کوئی نیاز نہیں چکھائیں گے۔ البته نو دایک نیاز مہ فروز چکھیں گے جو ممکن ہے انہیں بے خود کر کے "بچاؤ" اور غیر بچاؤ کے فرق سے غافل کر دے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ مسلمان کچہ بڑے سرمایہ دار بھی نہیں ہیں کہ اگر وہ سُود دینے پر اُتر آئے تو مار داڑیوں اور چہابوں کے دیوارے نکلتے کی نوبت آ جائے گی، اور یہ سب کے سب ہمارا کرخ حمیت سُود کا قانون بنوانے پر آمادہ ہو جائیں گے۔

(مودودی)

”دہن توپ“ کے اس وعظت سے وطن والے اسی طرح لاپرواٹی برپیں گے جس طرح وزبان و قلم کے واظبوں پر قبیلے لگاتے رہے ہیں۔ اگر انہوں نے آگے چل کر ہم سے اُن معاملات کے مٹھادیتے کا کبھی معاہدہ کیا تو کیا مسلمانوں کو ان کے خدا نے اس کی اجازت نہیں فرمائی ہے کہ

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِي يَنْهَاكُمْ إِنَّمَا يُنَقِّاتُ لُؤْلُؤَ كُوْمَرِي
الْقَدِيسِينَ وَلَمْ يُخْرِجْ جُوْكُوْمِسْ وَدِيَارِكُوْمَ آنْ شَبَدُوْهُمْ
وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ (المتحنہ: ۸)

الشتم کو ان لوگوں سے نہیں روکتا جو دین میں تم سے نہیں جھگڑتے اور تم کو وطن سے بے وطن نہیں کرتے کہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو انصاف کرنے والوں کو خدا پیار کرتا ہے۔

ایسے معاہدوں پر جو امت سب سے پہلے مستخط کرے گی وہ وہی ہو گی جو تمام دنیا کے لوگوں کو فتح پہنچانے کے لیے ظاہر کی گئی ہے ہم دل سے بھی ان معاملات کو بڑا جائیں گے، زبان سے اس پراصرار کریں گے، حکومت کو بھی ادھر پار بار توجہ دلائیں گے، وطن والوں سے بھی کہیں گے، جس طرح اب تک کہا ہے آئندہ بھی کہیں گے، زور سے کہیں گے، اور مسلسل کہیں گے، ہم کو وطن سے بے وطن اور اپنے گھروں

لہ ان کے قبیلے تو پھر بھی بند نہ ہوں گے بلکہ وہ ایک اور زور کا قبیلہ لگائیں گے، وہ کہیں گے آخر کار معاشی اور مالی معاملات میں اسلام کا ناقابل عمل ہونا ثابت ہو گیا اور یہ بات کھل گئی کہ سود کی حوصلہ عملی دنیا میں چلنے والی چیز نہیں جس طرح ملائق اور دراثت اور نکاح اسلامی دغیرہ مسائل میں آپ ان کے ذہنی قانون کی جدید ترمیمات پر گرفت کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ بھی اسلام کی کمزوری ”کاشتہار دینیت کے لیے سود کے مسئلہ میں آپ کی بدی ہوئی روشن کو ایک نمایاں مثال کے طور پر پیش کریں گے۔ (مودودی)

نہ سب بے گھر بنا نئے پر وہ جس قدر بھی چاہیں اصرار کریں، لیکن ہم ان کی بھی خواہی میں کبھی کمی نہ کریں گے اور اسی بھی خواہی کے سلسلہ میں زبان سے آگے بڑھ کر ہم باختہ سے بھی اپنے:-

”ذَهْنُهُ عِنْ الْمُنْكَرِ“ ”ہری باتوں سے روکنا“

اور

”أَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ“ ”ما بھی جانی پہچانی باتوں کا حکم دینا۔“

کے آسمانی فریضہ کو ادا کریں گے جس کے لیے ہم بنائے گئے ہیں تا ایں کہ وطن کے فرزندوں کا، ہمارے پڑو سیوں کا اُس کی خرابی و ضرر رسانی پر اتفاق ہو جائے۔ ٹوٹے ہوئے دل یوں ہی ملیں گے، اور وہ تو انشاء اللہ ایک دن مل کر ہی رہیں گے۔

اسلامی حکومتوں اور ریاستوں کا حکم

مسئلہ ختم کرنے سے پہلے چند باتیں اور بھی قابل ذکر رہ جاتی ہیں، آخر ان کو کیوں چھوڑ راجائے۔ جب اسلامی قوانین ہماری رہنمائی دوست گیری کے لیے ہر حال میں تیار ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن اسلامی ممالک میں شرعی قانون کسی نہ کسی وجہ سے انتہا گیا ہے ان کا کیا حکم ہے؟ ہاں وہاں کے حکام دولۃ سلاطین و ملوک تو

لے امر بالمعروف و نهیں حنن المنکر کا طریقہ تو ہدایت ہی مجیب ہے کہ جس منکر سے ہم دوسروں کو روکنا چاہتے ہیں اسی میں خود مبتلا ہو جائیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پی کر دنگا فساد مچا کر اس سے کہیں کہ دیکھو اس حرکت سے یہ تخلیف ہوتی ہے، اب یا تو ہم سے معاملہ کرو کہ نہ تم شراب پیو گے نہ ہم پیشیں گے، یا نہیں تو یاد رکھو کہ ہم تم سے زیادہ شراب پی کر اور تم سے زیادہ دنگا کر کے دکھائیں گے۔ اس طریقہ نصیحت سے ترک میں خوار ایک نعمۃ فتح بلند کر سے گا، اور پکار اُٹھنے کا کہے کشوں کی ٹولی میں مشیخ کی آمد بارک۔ (مودودی)

مسلمان ہیں۔ شامی میں اس کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر سلاطین اسلام ان حمالک میں اسلامی قوانین کے نفاذ کی نہیں کرتے، تو ایسا حاکم دارالاسلام ہی رہے گا۔ کہتے ہیں:-

وَبِهِذَا اظْهَرُنَّ مَا فِي الشَّامِ مِنْ جَبْلٍ تِيمٍ اللَّهُ الْمُسْتَقْبَلُ
بِجَبْلِ الرَّوْزَ وَبِعِصْنِ الْبَلَادِ الْتَّابِعَةِ لِلَّهِ كَلْهَا دَارُ السَّلَامِ
لَا تَنْهَا وَإِنْ كَانَتْ بِهَا حُكْمُ الدَّارِوْزَ وَنَصَادُّ وَلَهُمْ قُصْنَاهَا
عَلَى دِينِهِمْ وَبَعْضُهُمْ يَعْلَمُونَ بِشَقْمِ الْأَسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ
لَكُنْهُمْ تَحْتَ حُكْمِ دَلَّةِ امْرِيَّتَهُمْ بِالْبَلَادِ الْأَسْلَامِ مُحِيطُ
بِبَلَادِهِمْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَأَزَادُوا إِلَى الْأَمْرِ تَفْيِيْدًا
أَحْكَامَتِيهِمْ نَفْذَاوَهَا۔ (ص ۲۷- شامی ج ۳)

اور اس سے معلوم ہوا کہ شام کا علاقہ کوہ تیم اللہ جس کا عامن نام جبیل درود ہے اور درود سے شہر ہوا اس کے تابع ہیں سب دارالاسلام ہیں کیوں کہ اگرچہ وہاں درودیوں کا یا عیسائیوں کا قانون ہے اور ان کے نجع و حکام ان ہی کے ذمہ بہ کے ہیں اور ان میں بعض علائیہ مسلمانوں کو اور اسلام کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن چونکہ اسلامی حکومت کے تاحکمت ہیں اور اسلامی حمالک ان کو چاروں طرف سے محیط ہیں اور مسلمانوں کا امیر اگر چاہے تو ان میں ہمارے دینی اسلامی احکام نافذ کر سکتا ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ جن حمالک میں مسلمان سلاطین یا دلّۃ امور باوجود داراء کے اسلامی احکام کے نفاذ پر قادر نہ ہوں وہ دارالاسلام باقی نہیں رہ سکتے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

لہ مولانا کامنشایہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی مسلمان ریاستیں بھی دارالمحرب کی تعریف میں داخل ہیں اور ان کی غیر مسلم رہایا بھی "دُجْرَبِی" ہے جس کے اموال مبلغ ہیں رہ باقی ص ۲۶۲ پر)

باقی یہ مسئلہ کہ اس قسم کے غیر اسلامی حمالک، میں جمعہ، عید وغیرہ کا نظم کس طرح ہوگا، شامی میں اس کے متعلق موجود ہے:-

کل مصروفیہ والی مسلم من جهہ الکفار بیجوز منہ اقامۃ
الجمم والاعیاد وَاخذ الخراج وَتَقْدِیم الْقُضَاء وَتَزْوییج
الابیانی ناقلاً عن جامع الفصولین۔ (ص ۴۲۷-۴۲۸)

ہر دو شہر جہاں کامیابی کفار کی منتظری سے ہو اس کی جانب سے

(بقیر حاشیہ ص ۳۵۸ سے) اس اجتہاد کے لیے کم از کم فقہ حقیقی میں تو کوئی گنجائش ہے نہیں۔ فقہا کی تصریحات ملاحظہ ہوں۔ جواشی در المختار للطحاوی میں ہے۔ لو اجریت احکام المسلمين و احکام الشرک لآنکون دارالحرب فتاری بزاریہ میں ہے۔ فاذا وجدت الشرائط کاہما صارت دارالحرب و عند تعارض الدلائل و الشرائط بیقی ما و بیترجمہ جانب الاسلام احتیاطاً۔ خزانۃ المفتین میں ہے ان دارالاسلام لا تصیر دارالحرب متى لم ییطل جھیم ما صارت به دارالاسلام فیا بقی علقة من علاقہ الاسلام یہ ترجمہ جانب الاسلام۔ ان تصریحات کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ حیدر آباد اور بھوپال اور جو ناگراہ وغیرہ ریاستیں دارالحرب ہو گئی ہیں اور ان کی غیر مسلم رعايا حربی ہے مولانا جانتے ہوں گے کہ فقہ اسلامی میں دارالحرب دارالاپاحتہ کا دوسرا نام ہے جہاں عارضی طور پر قانون اسلامی کی اکثر بندشیں ضرورت گھوول دی جاتی ہیں۔ اگر ان عارضی اباحتوں کو استمراری حیثیت دے سے دی جائے تو مسلمتوں کا مسلمان رہنا غیر ممکن ہے۔ مثال کے طور پر اگر لارڈ دلزیل کے سب سید یوری الانیس میں شریک ہوتے کہ بعد سے علماء اسلام حیدر آباد کو دارالحرب قرار دے کر دارالاپاحت بنادیتے تو ۱۳۶۱ بریس کے اندر اس ریاست کے مسلمان اس قدر مسخ ہو چکے ہوتے کہ آج حمالک اسلامیہ کا کوئی شخص ان کو پہچان سمجھی نہ سکتا کہ یہ مسلمان ہیں۔
(مودودی)

جمہہ اور عید کا قیام کرنا جائز ہے اور اس ملک کا خراج لینا بھی نیز
عدالت کے قضاؤ ر حکام ہر کے تقریر کا بھی اسے اختیار ہے اور یو اول
کی شادی بھی وہی کر دے۔

لیکن جس غیر اسلامی ملک میں غیر اسلامی حکومت کا کوئی تسیلم شدہ مسلمان رہیں
نہ ہو تو اس کے متعلق یہ حکم ہے:-

وَإِمَّا فِي بِلَادِ عَلَيْهَا وَلَأَةُ كُفَّارٍ فَيُجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ إِقَامَةُ
الْعُجُمِ وَالْأَعْيَادِ وَيَصِيرُ الْقاضِيَ قَاضِيَاً بِتِرَاكِيَّةِ الْمُسْلِمِينَ
وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ طَلَبُ دَائِلٍ مُسْلِمٍ (صف ایضاً)

لیکن ایک ایسا ملک جہاں کے ولاء کفار ہیں تو مسلمان کو یہ جائز
ہے کہ اس شہر میں بھی خود جمہہ اور عیدین قائم کر دیں، قاضی مسلمان
باہمی سمجھوتے سے مقرر کر لیں، لیکن ان پر مسلمان رہیں کی تلاش واجب
ہے۔

اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن مسائل میں مسلمانوں کو "قضاء شرعی" کی ضرورت
پیش آتی ہے، "دین کامل" نے غیر اسلامی ممالک میں اس کا کیا چارہ کارتبا یا ہے، اور
غالباً اس تفصیل کے بعد عہد حاضر کے اسلامی ممالک کے احکام واضح ہو گئے۔
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي الْأُذُنِ وَالْأَخْرَجَةِ وَحَسْلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْخَاتِمِ
الرِّسُلِ وَهَلَّى اللَّهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهَ أَجْمَعِينَ وَالْأُخْرَدُ عَوْنَانَ
أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

مولانا کے سابق مضمون کی اشاعت پر بعض اہل علم نے اعتراضات
یکیں تھے جن کے جواب میں مولانا نے یہ مضمون تحریرہ فرمایا تھا:-

مرتب

(۱) مسئلہ کی تحریر میں ضرور مسامحت ہوئی ہے جس سے شدید غلط فہمی کا اندریشہ

از قام فرمایا گیا ہے کہ ”غیر اسلامی حکومتوں کے ماتحت ربو، رب اونٹیں رہنا۔ الخ۔“ اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ فقہ حنفی میں ہر شخص خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کے ساتھ اس قسم کے معاملات جائز ہیں، اور ان کے اموال غیر مخصوص و مباح ہو جاتے ہیں حالانکہ مقصد یہ نہیں ہے بلکہ یہ حکم صرف ایسی غیر اسلامی اقوام مثلاً یہود و نصاریٰ سے بخوبی و ہندو دنیا کے ساتھ مخصوص ہے جن کی ذمہ داری کسی اسلامی حکومت نے نہیں لی ہے۔ میں نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں امام محمد کی ”بیکری“ کا مشہور فتویٰ نقل کیا ہے اُسی سے غایت الحینان کے لیے اس قانون کی یہ دفعہ بھی نقل کر دیتا ہوں۔

وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْعِمَالَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مُسْتَأْمِنٍ
وَإِسْرَيْنَ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَانَ بِاطْلَأْ مَرْدَوْ دَلَالَ نَهْمَا يَلْتَزِمَانَ
أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ مَكَانٍ۔ دسیر کبیر ج ۲ - ص ۲۲۶)

اور اگر یہ معاملہ دو مسلمانوں کے درمیان ہو تو دارالحرب (غیر اسلامی طبق) میں معابرہ امن کر کے مقیم ہوں، یا قیدی ہوں، تو یہ معاملہ باطل و مردود ہو گا کیونکہ یہ دونوں اسلامی قوانین کے ہر جگہ ذمہ دار ہیں۔

لہ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کے دو شہری علاقہ غیر میں ایک دوسرے سے سود نہیں لے سکتے۔ لیکن دارالاسلام کی رعایا کا کوئی مسلمان فرد اگر دارالحرب میں امان لے کر جائے تو وہ دارالحرب کے مسلمان باشندے سے سود لے سکتا ہے کیونکہ فقہ حنفی میں کافر جنپی کی طرح اس مسلمان کا مال بھی مخصوص نہیں ہے بھرالرائق میں ہے و حکم من اسلام فی دارالحرب و لم یهاجر کالحربی عندا بی حنیفة لان ماله غیر مخصوص عند الظاهر فیجوز للمسلم الریامعہ (جلد ۴ ص ۱۳۷) اس لحاظ سے مولانا کی تعبیر کے مطابق اگر ہندوستان دارالحرب ہے تو سرحدی پٹھانوں کے لیے ہندوستان نہ صرف ہندوؤں سے بلکہ مسلمانوں سے بھی سود لینا حلال و طیب ہو گا۔ یہی نہیں بلکہ وہ یہاں کے مسلمانوں سے بھی کھیل سکتے ہیں اور حرام چیزوں بھی ان کے ہاتھ فروخت کر سکتے ہیں، کافی الفتح ج ۵ ص ۳۰۰۔ (مودودی)

قیدی اسیر کے لیے فقہی طور پر ضروری نہیں کہ وہ جیل خاتمہ میں ہو بلکہ ہر وہ شخص جو کسی
لکھ سے دوسرا سے لٹک میں بغیر اجازت یا پاسپورٹ کے نہیں جا سکتا وہ اسیہ رہے
والتفصیل ان شاعر اہلہ فی وقت اخراج۔

(۲) دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ بلاشبہ میں نے ذرا عجلت سے کام لئے کہ
اس مضمون کو قبل از مشورہ شائع کر دیا۔ اس عد غاطی و عاجز کو اپنے اس قصور کا اعتراف
ہے۔ لیکن میں نے جن جذبات اور ہیجانات سے مجبور ہو کر اس مضمون کو لکھا تھا اس
سے خدا شے خبیر و بصیر خوب واقف ہے۔ ماسو اس کے اس مسئلہ کی غیاد جن
مقدمات پر ہے وہ کل دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان دارالکفر ہے۔ دوسرا یہ کہ دار
الکفر میں عقود فاسدہ فی الاسلام کے ذریعہ سے اموال غیر معصومہ کا لینا مباح ہے۔

ان میں سے پہلے مقدمہ کے متعلق میں نے ہندوستان کے اکثر علماء ثقاوت و
ارباب فہم و تقویٰ کو متفق پایا۔ البتہ دوسرے مقدمہ کے متعلق میں نے ان کرام و اکابر
علماء سے بالتفصیل نہیں دریافت کیا، جن کے اسمائے گرامی آپ نے درج کیے
ہیں، اور جن میں سے اکثر اس غاکسار کے اساتذہ یا فی حکم الاساتذہ ہیں۔ صرف مولانا
امرشت علی صاحب تھانوی مدظلہ العالی کی رائے گرامی کا مجھے علم تھا کہ وہ اس مسئلہ میں
فقہ حنفی کے اس جزو تیرہ کے متعلق مطابق نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے فتاویٰ نیز تفسیر

لئے اگر اسیر کی تعریف صرف اتنی ہی ہے تو ہندوستان کے تمام مسلمان مستامن نہیں بلکہ اسیر قرار پائیں
گے، اور اسیر کے احکام مستامن کے احکام سے بالکل مختلف ہیں۔ اسیر جنگ کے لیے قانون ملک
کی پابندی بھی لازم ہیں۔ وہ پوری اور قتل اور روشنوت دہی کا بھی حق رکھتا ہے بحر الرائق میں ہے
لأنَّ الْأَسِيرَ يَا مُؤْلَهَ التَّعْرُضِ وَإِنَّ اطْلَقُوهُ طَوْعًا لَا إِنْتَهَىٰ غَيْرَ مُسْتَأْمِنٍ فَهُوَ كَا التَّاصِحِ
فِجُوزَ لَهُ أَخْذُ الْمَالِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ دُونَ اسْتِبْلَاحَةِ الْغَرِيمِ (رج ۵ ص ۷۰۱)، اگر قانون کے
مقاصد سے قطع نظر کر کے صرف اس کے الفاظ سے غرض رکھی جائے تو اگر ادی کی اس سے بھی
زیادہ گنجائشیں نہ کیں جسکتی ہیں۔

میں دوسرے مقدمہ کی صحت میں حدیثاً و اصولاً کلام کیا ہے۔ لیکن جہاں تک اس ناچیز کی رسائی تھی امام ابوحنیفہ رحمہ کے مسلک کو میں نے اوفقاً الکتاب والشیعہ پایا۔ امام صاحب نے یہ سمجھا ہے کہ جس طرح ”لَا تَقْتُلُوا النُّفُسَ كُمْ“ ”اپنی جانوں کو نہ مارو“ کا منصوص اور بظاہر عام حکم صرف مسلمانوں تک محدود ہے ورنہ قانون جہاد بے معنی ہو جاتا ہے، اسی طرح ”لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ كُمْ بِيَمِنْكُمْ يَا أَيُّهُوا طَاغِيْلِ“ تم اپنے مالوں کو اپنے درمیان ناجائز ذرائع سے نہ کھایا کرو۔ اور اسی کی ایک ذیلی تفصیل ”لَا تَأْكُلُوا السَّرَّابِو“ ”سو بڑے کھاؤ“ کا بظاہر عام حکم بھی صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ خصوصاً جب ”اموال حرمہ“ کے حکم نہیں میں ”بیتکم“ کی تصریح بھی ہے تو وہ قانون قتل کی عمومیت سے اور بھی زیادہ خاص ہو جاتا ہے۔

مولانا کے اس بیان سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خون کا احترام اور کسب اموال میں حرام و حلال کی تمیز، اور سودگی حرمت سب کچھ مسلمان اور مسلمان کے درمیان ہے۔ دائرة اسلام کے باہر ملتونوں مسلم انسانوں کے خون کی کوئی وقعت ہے اور نہ ان سے مالی معاملات میں حلال و حرام کی کوئی تمیز۔ اس سے بڑھ کر اسلامی قانون کی غلط نمائندگی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ ﴿لَا تَقْتُلُوا النَّفَسَاتِ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا إِنْ هُنَّ مُنْهَقَةٌ﴾۔ اس آیت کی رو سے ہر انسان کی بجائے اصلًا قابل احترام ہے۔ اس کے حلال ہونے کی صورت صرف یہ ہے کہ حق اس پر قائم ہو جائے۔ جہاں میں یہ حرام اسی طرح ”حق“ کی خاطر حلال ہو جاتا ہے جس طرح تصاص میں خود مسلمان کا حرام خون بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اگر اصولاً کافر غیر فرقی کو اسلام نے ”حری“ فراہدیا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ امام اور جماعت سے الگ ہو کر ہر مسلمان ہر خیر ذاتی کافر پر جب چاہے ”حق“ قائم کر دے اور جہاں چاہے قتل کر دے اور لوٹ لے۔ اگر ایسا ہو تو ایک مسلمان اور ایک انارکسٹ میں کیا فرق باقی رہا؟ اسی طرح مال کافر کرنے کے طریقے اسلام نے حرام کیے ہیں وہ سب قطعی طور پر حرام ہیں۔ ان ہیں یہ امتیاز نہیں ہے کہ مسلمان سے مال لینے کا جو طریقہ حرام ہو، کافر سے مال رہا قص ۷۶ پر

یہ سچ ہے کہ ”مربو“ کا قانون سخت ہے۔ لیکن کیا قتل سے بھی زیادہ سخت؟ قرآن نے ایک شخص کا قتل عام بنی آدم کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے جس کی جزا عیں جہنم کے عذاب، خلود ایدی کی دھمکی دی گئی ہے۔ لیکن کون نہیں جانتا کہ اسلام نے اس سخت قانون کے ایک رُخ کو راسی رُخ کو جو امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک ”اموال“ کے متعلق ہے، ثواب اور برہاثواب قرار دیا ہے۔ آخر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے؟ قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔

(ریقیہ حاشیہ ص ۴۴ سے) یعنی کا وہی طریقہ حلال ہو۔ **وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُوْنِيْكُمْ**
إِنَّمَا أَطْلِيلُ وَتَدْلُوْإِهَا إِلَى الْحُكَمَمِ إِنَّمَا كُلُّكُمْ إِنْتَمْ
بِالْأَذْلِمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور آحلَ اللہُ الْبَیْعَمْ وَحَرَمَ الرِّبُّلُوْا اور انما الحرام
وَالْمَیْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَذْلَامُ یعنی عمل الشیطان۔ ان احکام میں سے کس حکم کو صرف مسلمانوں کے باہمی معاملات کے ساتھ مخصوص کیا جاسکتا ہے؟ اگر مسلمانوں کا یہی مسلک ہو کہ شراب کو حرام بھی کہیں اور پھر غیر مسلموں کے ہاتھ بھیں بھی، جوئے کو حرام بھی کہیں اور غیر قوموں سے کھیلیں بھی، سُور کو حرام بھی کہیں اور غیر قوموں سے کھیلیں بھی، سُور کو حرام بھی کہیں، اور شوہد کھانے والوں کے ہاتھ فروخت بھی کریں، شوہد کی حرمت میں تقریر بھی کریں اور پھر غیر مسلم قوموں سے مسخادی لین دین کو حلال و طیب بھی سمجھیں، تو دین اسلام ایک مضحكہ ہی جائے گا۔ اور کوئی صاحب عقل اپنے مذہب کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو گا۔ افسوس یہ ہے کہ مولانا اس غلط تعبیر کو امام ابو حنیفہ رحمہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے ان حام احکام میں بواستثناء تجویز کیا ہے وہ صرف خاص جنگی ضروریات میں ان لوگوں کے لیے ہے جو مبتلا ہئے جنگ ہوں۔ اس کا یہ منشاء ہرگز نہیں ہے کہ مسلمانوں کی پوری پوری آبادیاں مستقل طور پر غیر قوموں کے ساتھ تجارتی و مالی معاملات میں حرام و حلال کی تحریز اٹھادیں اور نسل در نسل اور پشت در پشت اسی حرام خودی پر زندگی بسر کرتی رہیں۔
 (مودودی)

وَعَدَنَا كُمْ أَنَّهُ مَغَافِرَ كِثِيرٌ أَّتَأْخُذُونَهَا۔

اہلہ تم سے مفہوم کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم لوگے۔

کیا اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اموال مسلمان خریدیں گے؟ یا وراشت میں پائیں گے؟ یا ان کو کوئی ہبہ کرے گا؟ پھر زور ہی نہیں بغیر زور و قوت کے بھی جو مال ملے اُس کے متعلق تصریح ہے کہ یہ وہ چیز ہے اکہ:-

وَمَا آتَاهُ اللَّهُ هُنَّا رَسُولُهُ مِنْهُمْ فَمَا آتَجَنْتُهُمْ عَلَيْهِ
مِنْ خَيْرٍ إِلَّا يَرَكَابُونَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْتَطُعُ مَا شَاءَ عَلَى مَنْ
يَشَاءُ۔ (العشر: ۱)

جو پشا یا خدا نے اپنے رسول کے پاس تو تم نے اس پر اونٹ دوڑا شے نہ کھوڑے لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے سلطنت کر دیتا ہے۔

صرف جنگ کے موقع پر اس کا وعدہ نہیں کیا گیا، بلکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ

إِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ رَاحْدَانِ الظَّالِمِينَ أَنَّهَا كُمْ۔

جب اللہ نے تم سے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کے متعلق یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارے لیے ہے۔

ان طائفوں میں کون نہیں جانتا کہ خدا نے اس طائفہ کا بھی وعدہ کیا تھا جو صحیح یعنی قابلہ تجارت تھا؟ اور کیا وعدہ کیا تھا؟ ”درانَهَا كُمْ“ وہ تمہارے لیے ہے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے وہ بذریعہ بیع و فروخت، تجارت، ہبہ، وراشت، ہدایہ، صدقۃ، خیرات، آخر کس طور پر وعدہ کیے گئے تھے؟ یہی ذریعہ اگر مسلمانوں کے لیے اموال

سلیم یہ ایک بر سر جنگ قوم کا تجارتی قابلہ تھا، گو بالفعل مقابل نہ تھا بلکہ انہیم کی تجارتی میں مزاحمت کرنا، اس کے تجارتی جہازوں یا قافلوں کو بکڑ لینا اور اس کے اموال پر قبضہ کر لینا قانونی جنگ میں بالکل جائز ہے۔ مولانا کوئی ایسی مثال پیش فرمائیں جس میں مساوا حالت جنگ کے در باقی ص ۲۶۹ پر)

کے حصول کا قرار دیا جائے تو کیا وہ ذریعہ باطل اور لاتاکلو اموال کم بینکم
باہر باطل کے نیچے داخل ہو گا؟ بخاری میں ہے کہ حضرت ابو بصیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ کو صلح خدمیہ کی رو سے جب مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں تو وہ سمندر کے
کنارے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جم گئے اور ان کا مشغله کیا تھا؟ امام بخاری
راہی ہیں:-

فَوَاللَّهِ مَا يَسْهُمُ عَوْنٌ بِعَيْرٍ بَجْرَ جَمْتُ لِقْرَبِشِ إِلَى الشَّامِ
إِلَّا أَعْشَرَهُمُوا لَهَا قَتَلُوهُمْ وَأَخْذُوا أَمْوَالَهُمْ.

بحدا قریش کے جس قافلے کے متعلق وہ سننہ کہ شام کی طرف نکلا
ہے اس سے وہ تعریض کرتے اور اہل قافلہ کو قتل کر کے ان کے اموال
چھین لیتے۔

کیا اس سے بھی زیادہ تشریح کی ضرورت ہے؟ قرآن میں تو صرف "عیر" کا عددہ
تھا، لیکن یہاں تو وقوع ہوا۔ کیا یہ قانون فقہ حنفی کا ہے یا نصوص مدینہ کا قفقضی ہے؟ بعیوب
بات ہے کہ جس قانون کے ذیل میں امام صاحب نے اس جزئیہ یاد فعہ کو پیدا فرمایا ہے
(یعنی قانون غنیمت) وہ تو صرف انتہی تحریر کیے ہوئے ہے وہ آیات صحیحہ مخصوص
ماناجا تا ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہے جاتے ہیں کہ اگر "ربو" کا کار و بار خیر اقوام کے
ساتھ جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق قرآن مجید میں کیوں فرمایا:-
وَأَخْذِهِمُ الْرِّبُوَ وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْثُرُهُمْ
أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَى الْبَاطِلِ۔

اور یہودیوں کے سود دینے کی وجہ سے جس سے وہ روکے گئے اور
لوگوں کے اموال کو باطل و ناجائز ذرائع سے کھانے پڑے۔

نقیبہ عاذیر م ۴۸ سے) غیر ذائقی کا فرد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہریں مطہرا مباح الدم والاموال
قرار دیا گیا ہو، اور فرد افراد اہل مسلمان کو یہ حق بخشائی ہو کہ جس غیر ذائقی کو وہ جب اور جس پائیں تو طے۔
(مودودی)

جب یہودیوں پر غنیمت ہی حرام تھی تو پھر کس بنابر ان کے لیے مُود جائز ہوتا۔ اور یہ بھی اسی وقت کہا جائے گا جب یہ ثابت ہو لے کہ وہ صرف غیر یہودیوں سے اس کا کار و بار کرتے تھے مولانا شبلی نے اپنی سیرت میں ابو داؤد کی روایت کو متعدد بار نقل فرمایا ہے۔ اس سے غلط فہمی میں نہ پڑ جانا چاہئے۔ کیونکہ اس تشذیب کی بنیاد مسئلہ غلوں ریعنی قبل تقیم کے اموال غنیمت میں تصرف کرنے پر ہے جیسا کہ خود حضرت سیدہ بن جندب نے "کابل" کی جنگ میں اس کی توضیح فرمادی۔ ابو بیہد رادی ہیں کہ ہم لوگ کابل میں سیدہ بن جندب کے ساتھ تھے۔ لوگوں کو مال غنیمت میں ہاتھ آیا تو لوگ لوٹنے۔ حضرت سیدہ رضی اس پر تقدیر کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاکم ہم پر نہیں منع فرمایا۔ لوگوں نے سب مال واپس کر دیا۔ پھر حسب تقیم شرعی انہوں نے بانٹ دیا (مجمع الفوائد) اس میں یہ نہیں ہے کہ اصل مالکوں کو واپس دے دیا بلکہ قبل تقیم کے لوبٹ مار کرنے سے ممانعت کی گئی تھی بوجلوں تھا۔

"ربو" کا قانون کب سے نازل ہوا یہ مسئلہ فیروزے دولا تا کلو الربیا اضعافاً مضاعفة" تو بہت پہلے نازل ہوا۔ لیکن اس کو شراب کی طرح تدریجی غیر قطعی حکم قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن "ربو" کی جزوی فروع کی حرمت پر عمل درآمد مسلمانوں میں سکھ سے شروع ہو گیا تھا۔ مؤطا امام مالک میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں چاندی کے ایک درجن کی فرودخت کے معاملہ میں فرمایا۔

اَرْسِيْمَةَ فَرَدْوَا

تم دونوں نے ربوب کا معاملہ کیا، پس انہوں نے واپس کر دیا۔

اس سے ثابت ہوا کہ "دارالاسلام" میں یہ قانون سکھ سے نافذ ہو چکا تھا۔ لیکن سارے عرب میں کب نافذ ہوا؟ سب کو معلوم ہے کہ عام فتح میں بھی نہیں بلکہ صحیۃ الوداع میں ربیا الجاہلیۃ کے سقوط کا اعلان حکومت نبویہ کی جانب سے کیا گیا۔۔۔۔۔ اس سے کیا یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جس ملک میں اسلامی اقتدار قائم

نہ ہو وہاں ان معاملات کی نوعیت وہ نہیں رہ سکتی جو اسلامی اقتدار کے بعد ہو جاتی ہے، ورنہ کم از کم حضرت عباس و مسیح مجھہ الوداع سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے، ان کے روکو کو قطعاً سخت ہے سے پہلے ساقط ہو جانا چاہیے تھا تو کہ جمۃ الوداع میں۔ تجھب یہ ہے کہ بعض اکابر کو اسی صحیۃ الوداع کی روایت سے شہر ہوا کہ اگر غیر مسلموں سے ربو جائز ہوتا تو قبل اسلام کا جو سودی بقا یا تھا اس کو شارع علیہ السلام نے کیوں

لے اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کسی ملک میں سودی کار و بار کی ممانعت کا عام حکم صرف اسی وقت جاری کریں گے، جب کہ وہ اس ملک پر قابض و منصرف ہوں اور اپنے احکام کو غیر مسلموں پر بھی نافذ کرنے کی قوت رکھتے ہوں۔ ہر قری فہم سمجھ سکتا ہے کہ ملک پر قبضہ ہونے سے پہلے ملک میں قانون کے نفاذ کا حکم دینا صریح غیر معقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح یہ امید کی جاسکتی ہے کہ رب الجماہیت کے سقوط کا اعلان فرمادیتے جب کہ درحقیقت رب الجماہیت یعنی اور دینے والے آپ کے تحت حکم آئے ہی نہ ہوں۔ البته جو لوگ آپ کے تحت حکم تھے (یعنی مسلمان) ان کو آپ نے سودی لین دین سے منع فرمادیا تھا قبل اس کے کہ ملک عرب میں سودی کار و بار مسدود ہو۔ (مودودی)

لہ حضرت عباسؓ کے متعلق ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد مگر واپس چلے گئے تھے اور وہاں مسلمان ہونے کے بعد وہ سود کا جو کار و بار کر رہے تھے اس کی کوئی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تھی (ملا حظہ ہو کتاب المبسوط الامام السخنی ج ۲ ص ۲۵) یہ نہیں کہا گی سکتا کہ حضورؐ کو کب اس کی اطلاع ہوئی۔ بہر حال جب صحیۃ الوداع کے موقع پر آپ نے احکام الہی کے تحت رب اکی عام ممانعت کا اعلان فرمایا تو سب کے سامنے حضرت عباسؓ کے سودی بقا یا بھی ساقط کیے گئے۔ یہ واقعہ اس باب میں قطعی الثبوت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس و مسیح مجھہ الوداع کے اس سودی کار و بار کو جائز رکھا تھا۔ (مودودی)

ساقط کیا؟

بلاشبہ اگر مسئلہ یہ ہوتا کہ نفس عقدہ بلو سے سود کا مستحق مسود خوار ہو جاتا ہے تو یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ حقوق ثابتہ کے استقطاب کے کی معنی ہو سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کی بنیاد استحقاق بوساطہ الربو پر نہیں ہے اباحت کا حکم باقی رہے گا۔ جب تک اسلامی ہو جائیگا تو غیر مخصوص مخصوص ہو جائے گا۔ پھر اس مخصوص کو غیر مخصوص کس طرح قرار دیا جاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بخراں کے لوگوں نے اسلامی حکومت کی ذمہ داری قبول کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ اب اس کار و بار کو ترک کر دیں، کیوں کہ عہد ذمہ کی وجہ سے ان کے اموال مخصوص ہو چکے تھے۔

لئے حکم قرآنی کی یہ توجیہ درست نہیں۔ اباحت کے مسئلہ کا اس مسئلہ سے کیا واسطہ؟ قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ یہ ہے: ﴿فَهُنَّ جَاءُوا مُؤْعِظَةً مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَمَّا مَأْسَأَتْهُمْ بُو شَحْنَمُ خَرَا كَنْصِيْحَتْ مَانَ كَرْمُودُ خواری سے باز آجائے وہ پہلے جو کچھ مسود کھا چکا ہے وہ اس کے لیے معاف ہے، اب وہ اس سے واپس نہیں دلا�ا جائے گا۔ وَذَرُوهُ مَا يَقِيْرُ مِنَ السِّرِّ بِلَوْ، اور اب جو مسود تمہارے ہو گئے ہوئے ہیں ان کو تم چھوڑ دو۔ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَآذْنُوا بِهِرْ زِبْرِ، مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اس حکم کی پابندی تم نے نہ کی تو، اللہ تعالیٰ اور رسول سے رہنمے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بات سراسر حکمت عملی پر مبنی تھی اور ہر حکومت کسی معاملہ احکام امنی نافذ کرتے وقت ایسا ہی کیا کرتی ہے۔ قانون کے اعلان سے قبل جو سود لیا اور دیا جا چکا تھا اگر اس کی واپسی کا حکم دیا جاتا تو مقدمات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا جو کبھی ختم ہی نہ ہو سکتا۔ اور اگر اعلان کے بعد پہلے مسودی تقاضا وصول کرنے کی اجازت دے دی جاتی تو قانون بے اثر ہو کر دو جاتا، اور نہ معلوم کہ تک ان کا بقایا کی تھیں کا سلسلہ جاری رہتا۔ لہذا ایک وقت مسودا اور اس کے معاملات کا سلسلہ منقطع کر دینا ہی حکمت تشریع کے نقطہ نظر سے ایک کارگر تدبیر ہو سکت تھا۔

وگ پوچھتے ہیں کہ کیا صحابہ کے طرزِ عمل میں بھی ایسا کوئی خصوصی اثر ہے جس سے معلوم ہو کہ انہوں نے غیر مسلموں سے ربوکا خاصی کر کے معاملہ کیا ہو؟ امام محمد نے اس کے جواب میں "سیر کبیر" میں حضرت عباس رضی کا عمل پیش کیا ہے کہ وہ فتح مکہ سے پیشتر اسی کاروبار کے لیے مدینہ سے عکہ جاتے تھے جو اس وقت تک دارالاسلام نہ تھا۔ اسی طرح ربوکو نہیں، لیکن یہ توحیدیوں سے ثابت ہے کہ قمار کا معاملہ ابو بکر صدیق رضی نے کیا اور بعد اس کے بعد اس کی آمد نی انہوں نے لی۔ یہ کہنا کہ یہ فعل حکم میسر و قمار کے نزول سے پہلے کا ہے، بہت مشکل ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایران نے روم سے شکست اپنی ایام میں کھائی جب کفار قریش کو مسلمانوں سے ہزیست ہوئی۔ حضرت صدیق رضی کا اس معاملہ میں فرق نافی اُبیہ ابن علیف تھا جو بدیں مارا گیا۔ شرط سوانشوں کی تھی۔ حضرت صدیق رضی کے اس کے

لہ بالفرض اگر حضرت عباس رضی کا یہ مودی کاروبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و اجازت سے بھی ہوتا بھی یہ حقیقت ہے کہ عام الفتح سے پہلے تک تک اور اس کے اطراف کے تمام قبائل مسلمانوں سے بریجنگ تھے۔ عام الفتح کے بعد اگرچہ کہ اسلامی حکومت کے تحت آگیا مگر نواحی علاقوں میں جو مشرکین آباد تھے ان سے جنگ کا سلسلہ جاری تھا پس یہ مثال نریادہ سے زیادہ اس امر کے ثبوت میں پیش کی جاسکتی ہے کہ حالت جنگ میں دشمن سے عقود فاسدہ پر معاملہ ہو سکتا ہے (مودودی)

لہ یہ "فعل سے کیا مراد ہے؟ اس فعل کے دو جزو میں ایک شرط کرنا۔ دوسرے شرط کمال وصول کرنا۔ پہلا جزو تو یقیناً میسر و قمار کی حرمت ناصل ہونے سے پہلے کا ہے کیونکہ وہ محبت سے چھ سال قبل کا واقعہ ہے اور میسر و قمار کی حرمت کے احکام محبت کے بعد ناصل ہوئے ہیں۔ رد و سراج: رباعی شرط کے اونٹ وصول کرنا تو یہ جنگ بدی کے بعد کا واقعہ ہے۔ غالباً تحریم قمار کا حکم ناصل ہونے کے بعد ہی کا ہے۔ مگر اس کا کیا جواب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی کو یہ مال اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہ دی بلکہ صدقہ کرنے کا حکم دیا؟ (مودودی)

ورثہ پر دعویٰ کیا اور وہ دعویٰ مسموع ہوا۔ سو اونٹ ان کو ملے۔ مدینہ آئے۔ یہ صحیح
ہے کہ شیک طور پر یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اونٹ بدر سے کتنے سال بعد وصول
کیے گئے لیکن بعید از قیاس ہے کہ غم و خصت کے بھرے ہوئے قریش نے شیک
بدر کے بعد انصاف کو اتنی راہ دی ہو گی کہ سو اونٹ اصل شرط لگانے والے سے
نہیں بلکہ اس کے ورثے سے حضرت صدیق رضی کو دلوائے ہوں گے۔ بلکہ صاف معلوم
ہوتا ہے کہ یہ بات اگر طے ہوئی ہو گی تو صلح حدیبیہ کے بعد طے ہوئی ہو گی اور مسلم
ہے کہ خرد شراب، اور میسر (قمار) کی تحریم کا حکم احمد کے قریب قریب نامل ہوا تھا۔
بنخاری کی روایتوں سے یہ ثابت ہے۔ پس غالب قریشی ہی ہے کہ واقعہ حرمت قمار
کے نزول گئے بعد کا ہے۔ تاریخی طور پر اگر ان واقعات کی جستجو کسی میز نظر ہو تو سیرۃ
نبی، مولانا شبیل مرحوم سے میرے بیان کی توثیق کر سکتے ہیں، خصوصاً جن لوگوں کی عربی
تک رسائی نہیں ہے۔ بہر حال سیر و آثار نہ بھی ہوں تو کیا اثر سے زیادہ وذن دار اسنخت
صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہیں بلکہ قانونی قول نہ ہو گا جس کے راوی خود امام ابو حنیفہؓ
ہیں؟ امام شافعیؓ نے فاضی ابو یوسفؓ کے حوالہ سے برداشت ابو حنیفہؓ اس روایت
کو نقل کیا ہے:-

عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا يُبَيِّنُ الْمُشْبِّهُ وَالْحَرْبِيُّ۔
(كتاب الإمام الشافعی)

مکحول سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مردی
ہے کہ مسلمان اور حربی کے درمیان ربوائیں۔

میں مانتا ہوں کہ یہ روایت مرسل ہے لیکن کیا اثر صحابہ کے ڈھونڈنے والوں کے
لیے ایک مرسل حدیث نہیں ہے؛ عجیب بات ہے کہ ابن سعد یا اصحابہ سے
اگر کوئی اثر نقل کر دیا جائے تو لوگ اس کی وقعت کرتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہؓ اپنے
اعتماد پر ایک مرفوع مرسل قولی حدیث پیش کرتے ہیں تو اس کو صرف مرسل کہہ کر مالنا
چاہتے ہیں۔ اس روایت کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خبر واحد ہے اس سے نص کی

شخص جائز نہیں لیکن کیا نص کی تائید بھی اس سے نہیں ہو سکتی؟ کیا اس کی وقعت ائمہ
صحابہ کے برابر بھی نہیں؟ غالباً اس تفصیل کے بعد یہ مسئلہ صرف فقه حنفی کا نہیں رہ جاتا۔
بہر حال میں اور بھی تفصیل کرتا لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے۔ ذرا ان لوگوں کا
انتظار ہے جو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ کو اس مسئلہ میں محل بنا ناچاہتے ہیں۔

اسی کے ساتھ شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے فتاویٰ میں ایک سے زائد
مقامات پر اس کے متعلق صریح فتویٰ صادر فرمائے تھے۔ اگر ان کے فتویٰ میں کلام
ہے تو کیا ہندوستان میں کسی کے پاس حدیث کی سند محفوظ رہ سکتی ہے؟ جمیعتہ العلماء
کے اخبار "المجعیۃ" میں بھی اس کا فتویٰ شائع ہو چکا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی
صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواہ کسی وجہ سے ہو لیکن بنک کے مسودے لیتے کا
فتاویٰ دیا تھا۔ حرام مال میں کر صدقہ کرنے کی اجازت کون دے سکتا ہے؟ جہاں تک
میرا خیال ہے ان کے سامنے مسئلہ کی وسعت موجود تھی۔ ورنہ کم از کم میں ان کے اس فتویٰ
کی توجیہ سے عاجز ہوں۔ مولانا عبدالمحی صاحب مرہوم نے اپنے فتاویٰ میں گوہن دستان
کی تصریح نہیں کی لیکن مطلقاً دارالکفر میں انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا ہے اور متعدد بار۔
دیا ہے۔ بریلی اور بدلابوں کے علماء کو بھی اس سے کم از کم میرے علم میں اختلاف نہیں۔
باہم ہمہ میں نے اپنے مضمون میں اقتداء کارنگ نہیں اختیار کیا ہے بلکہ مسئلہ کی تصریح
کرنے کے بعد استفتاد کیا ہے علماء سے پوچھا ہے کہ کیا ہندوستان میں اس مسئلہ کے
نفاذ کا وقت آگیا ہے؟

مگر سچ پوچھتے ہیں تو ذاتی طور پر اسی شبہ کی وجہ سے جسے آپ نے نقل فرمایا
ہے میں اس کے لکھنؤ میں متعدد تھا۔ پھر کیا کہوں کن مظالم بے جانے آخر میرے ہاتھ
سے صبر کر کے دامن کو چھڑا لیا۔ مسلمان جلاسے گئے، نٹے گئے، برپا دیکھے گئے اور کیے جا رہے ہیں۔
میں ان حالات کو دیکھ دیکھ کر بے اختیار ہو گیا۔ کوئی اور صورت نظر کے سامنے نہ تھی۔

آگے چل کر مولانا نے خود ہی اپنے اس ارشاد کا جواب دے دیا ہے۔ (مودودی)

مالی مدافعت، یا مالی جملہ کی صورت سامنے تھی، پیش کر دی گئی اور اسی وجہ سے اس کا نام
یعنی نے فی رکھا، کیونکہ شاخی میں جزویہ موجود تھا۔

**وَقَاتِيُّوكَهُذَا مِنْهُمْ بِلَا حُكْمٍ وَلَا قَهْرٍ كَانُهُمْ نَاسٌ وَالْعِصْلُمُ
نَهُوا لِأَغْنِيَمُهُ وَلَا فِي وَحْكَمَةِ حَكْمُ الْفَقَى - (ص ۲۵۰-۲۵۱)**

اور ان سے جو کچھ بغیر جگہ اور قہر کے لیا جائے شلاماں صلح تو وہ
غیرمحلت ہے اور نہ فی البتہ اس کا حکم فی کا حکم ہے۔

پس جو حکم فی میں ہو اگر مجاہد اُسے "فی" کہا جائے تو کیا حرج ہے؟ اور اگر
اجازت ہو تو کیا اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ "زنا" کے خطرے سے کیا ترک نکاح کا فتویے
دیا جاسکتا ہے؟ واقعی مسلمان جو بعد میں باہم لڑپڑے کیا وہ قانون قتال کا نتیجہ تھا؟ کیا
یہ خطرات بھی واقعی ہیں؟

لیکن اس کے ساتھ مجھے ان مولویوں سے ضرور خطرہ ہے جو زوالی حکومت کے
بعد معمولی باتوں پر تکفیر کا فتوی صادر کر کے فسخ نکاح و نابوائزی اولاد کا حکم لگا رہے
ہیں۔ اس صورت میں بالکل ممکن ہے کہ ہر مسلمان دوسرے کے کفر کا فتوی لے کر کپسہ
میں اُس فعل کو شروع کر دے گا جو اس کے لیے قطعاً مورث عذاب جہنم ہے۔ لیکن
کاش اس فتوی کو عملی شکل دینے کے لیے یہ علماء ان گروہ طریقوں سے باز آئیں، ورنہ
شخص اپنی نیتوں کا خود ذمہ دالے ہے۔

**إِنَّكُلَّ أَمْرِ عِصَمِيٍّ مَا نَوْيَ فَمَنْ حَكَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ مَقْدِرَةٌ
وَسُولُهُ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دِينَنَارٍ يُصِيبُهَا وَأَمْرَأَةٌ شَكَحَهَا
فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَرَأَ إِلَيْهَا.**

ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کر رہے۔ چنانچہ جس کی
ہجرت خدا اور رسول کی طرف ہو، اور جس کی ہجرت دنیا کے فائدے کی
خاطر ہو، اور جس کی ہجرت کسی عورت کی خاطر ہو ان میں سے ہر ایک کی
ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی اُس نے نیت کی ہے۔

یوں تو نہاد بھی دو ترخ کی کلید بھی سکتی ہے۔ اگر اسی طرح فتویٰ دے کر لوگ آپس میں ایک دوسرے کی گردان مارنے لگیں تو کیا اس کی وجہ سے قانون جہاد کی حرمت کا فتویٰ صحیح ہو گا؟

ایک شبہ اور بھی ہے کہ سینونگ بنیک میں تو نہیں لیکن عام بینکوں اور کو اپرٹمنٹ بینکوں کے مالکوں میں بعض بعض مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ یہ صحیح ہے کہ بنیک کا کار و باری عالم جس سے لوگ یہیں دین کرتے ہوئے اغیراً قوام کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن مالکوں کی جماعت میں جب مسلمان بھی ہیں تو عمل کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟

کاش علماء غور کرتے۔ مسئلہ ہوا اہل اسلامیں میں فقہاء نے کیا لکھا ہے؟ بہر حال میری غرض کچھ نہیں۔ صرف ایک مسئلہ کے متعلق علماء کو چونکا نہ ہے۔ یا تو وہ انسداد سود کے لیے ایسی آواز بلند کریں جیسی کہ "مانع مکرات" کی سوسائٹی نے بلند کی ہے۔ یا کم انکم قانونی حدود میں رہ کر اتنا توکریں جتنا گائے واسے کرتے ہیں۔ شاید حکوم تو جلد کرے یا وطن واسے کچھ رحم کھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ "سود" کا تصفیہ قرباتی گاؤں کی قرباتی سے ہو جائے۔ ورنہ پھر سرمایہ دار مسلمانوں کو کسی باضابطہ نظام کے تحت اس پر آمادہ کیا جائے کہ جو سلوک غیراً قوام کے لوگ غریب مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہی وہ دوسریں کے ساتھ کریں۔

فَهُنَّ أَعْتَدَاهُنَّ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدَاهُنَّ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدَاهُنَّ عَلَيْكُمْ

پس جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جتنی کہ اس نے کی۔

مقصد صرف اس قدر ہے۔ ورنہ جو لوگ بعض شکم پر وری یاد ولت مندی کے لیے اس مسئلہ کے جواز کی فکر میں ہیں اور اس فکر میں استنے دیوائے ہو رہے ہیں کہ صحیح، غلط، جس طرح بن پڑتا ہے قرآن کے ایک منصوص حکم کے تواریخ میں زور لگا رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی بنیاد امارۃ و دولت پر نہیں بلکہ جس کا فخر و فخر تھا، اسی حقیقت مقدسہ کبریٰ نے اس کے ستون قائم کیے ہیں۔ بلندی صرف

ایمان کے ساتھ ہے۔ افتم الاعلوں کا دعہ محسن "ان کنتم مومنین" کے ساتھ مشرد طبے شریت دولت واسطے پہلے بھی وہی تھے جواب یہی ماس وقت بھی قرآن کی یہی ہدایت تھی۔

قَلَّا تُعْجِبُكُمْ أَمْوَالُهُمْ وَأَذْوَادُهُمْ رَبُّهُمْ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ اللَّهَ
أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِمَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْزُقُهُمْ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ
كَافِرُونَ۔

پھر ان کے اموال اور اولاد مردم شماری، تم کو پسندیدہ نہ معلوم ہوں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے انہیں دُکھ پہنچائے اور ان کی جان فرسودہ ہو کر نکلے ایسی حالت میں کہ وہ ناٹکرے ہوں۔

اور اب بھی ہم مسلمانوں کے لیے اسی حکم میں قوت ہے۔ ہم اُمتيوں کو کیا، خود ہمارے پیشواد سردار آقا و امام صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گی۔

وَلَا تَمْدَنْ عَيْنَيْكَ إِلَى مَتَعْنَتِنَا إِنَّهُ أَذْوَاجَ أَمْثَلِهِمْ رَبُّهُمْ كَالْحَيَاةِ
الْدُّنْيَا لَنْفَتِنَهُمْ فِيهِ وَدِرْزُقُ رَبِّكُمْ خَيْرٌ وَآبَقٌ۔

اور اپنی آنکھیں ان کی طرف اونچی کرو جنہیں میں نے قسم کی تازگی دے دیکھی ہے۔ میں اس میں انہیں آزماتا ہوں۔ پیرے رب کی روزی تیرے لیے بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔

آج جو یورپ کے خداوں کو دیکھ دیکھ کر حق رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی اس قسم کے "اللہ" ہونے چاہئیں کیا ان کو یہ سنایا جائے کہ تم جس کی اُمت کے لیے روتے ہو، اس نے ارشاد فرمایا اور قسم کھا کر فرمایا۔ بخاری میں ہے :-

قَوَّا اللَّهُ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْفَقْرُ وَلَكُمْ أَخْشَى أَنْ تَبْسُطُ
عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بَسَطْتُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَّا فَسُوهَا
حَمَّا تَنَّا فَسُوهَا وَتَهْلِكُمْ كَمَا أَلْهَمْتُمْ۔ (بخاری)

پس قسم خدا کی میں نقریا افلاس سے تمہارے لیے نہیں ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا پھیلائی جائے گی جس طرح تم سے پہلوں پر پھیلائی گئی پھر جس طرح

انہوں نے اس میں باہم تک دنناقص کیا۔ اسی طرح کہیں تم بھی نہ کرو اور تم بھی غافل نہ ہو جاؤ جس طرح وہ ہوتے۔

تم کہتے ہو کہ مسلمانوں کے پاس روپیہ نہیں ہے، لگنیاں نہیں ہیں، احمدہ کوٹ نہیں ہیں، احمدہ کپڑے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمان جن کے ہیں انہوں نے جو فرمایا ہے، دیلو انو! اس کی تمہیں خبر بھی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، بخاری میں ہے:-

تَعْصِيْسُ عَبْدِ اللَّٰهِ يَٰٰتَارِ وَعَبْدِ الْوَرْهَمِ وَالْقَطِيْفَةِ وَالْخَيْصَةِ.

الشُّرْقِيُّوْنَ اُوْرَرْپُوْنَ وَالْمَلَكُوْنَ جَهَالَرِ دَارِ بَيْاسَ وَالْمَلَكُوْنَ سِيَاَهَ عَبَادَيَّ

سب گرسے، ہلاک ہوئے۔

تم کہتے ہو کہ مفلس قوم تباہ ہوئی جاتی ہے۔ لیکن جس کی قوم ہے وہ فرماتا ہے کہ در ہم و دینار کے بندے سے تباہ ہوئے۔ اب تمہیں بتاؤ کہ ہم مسلمان کس کی نہیں؟ اور سچ ہے کہ جس قوم میں افلاس کار و نا ہے انہوں نے جب سوود کھایا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا، تیرہ تیرہ برس کے اندر بائیس بائیس روپیہ کو بائیس بائیس لاکھ روپیہ تک بنا کر رہے ان کے افلاس کے مرثیہ خوانوں کو دنیا میں کیا کمی ہے۔ کیا دنوں وقت پیٹ بھر کر کھانا اسی قوم کو پہنچ جاتا ہے جو سوود کے میدان میں بازی مارے ہوئے ہے؟ فی کس تین پیسے کن قوموں کی آمدی ہے؟ اور ان کو تو جانے دو، حکومت کے زور سے جو سوود کھار ہے ہیں ان کے مزدوروں کا حال اخبارات میں کیا تمہاری نظر وہ نہیں گزرتا ہے، سچ فرمایا امتت کے ہادی صلی اللہ علیہ وسلم تے:-

لَوْلَّاْ بَنَ اَدَمَ فَادَبَيَانِ مِنْ مَالِ لَدُجَّةِ شَالِثًا وَلَدُجَّةِ لَوْلَوْهُ
جَوْفُ ابْنِ اَدَمَ (وَفِي دَوَامِهِ) عَيْنِ ابْنِ اَدَمَ اِلَّا اسْتَرَابَ.

(بخاری)

اگر آدم کے پتوں کے پاس مال کی دو دادیاں ہوں تو وہ تیسری کی تلاش میں مصروف ہو گا اور آدم کے بچتے کا پیٹ (یا آنکھ) مٹی کے سوا

کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔

پس سے

سر منزل قناعت نتوالِ زدست دادن
اسے سارے باں فرد کش کیں رہ کر ان ندارد!

مسلمان کے لیے تو وہی نعمت کافی ہے جو آج سے تیرہ سو برس پیشتر گایا گیا۔

اللَّهُمَّ لَا يَعِيشُ الْأَعْيُشُ إِلَّا خَرَةً -

(ترجمان القرآن۔ شعبان شہر۔ رمضان شہر)

دو مہر شہر۔ دسمبر شہر

تَقْيِيدٌ

(ائز:- ابوالاعلیٰ مودودی)

مجھ کو مولانا ناظر احسن صاحب کی رائے سے جن جن امور میں اختلاف تھا، ان کا اظہار خincer طور پر حواشی میں کر دیا گیا ہے۔ لیکن جن اصولی مسائل پر مولانا نے اپنے استدلال کی بنارکھی ہے ان پر روشنی ڈالتے کے لیے محض اشارات کافی نہیں ہیں۔ لہذا یہ مفصل تَقْيِيد مکتھی جا رہی ہے۔ مولانا کے استدلال کی بناء پر ذیل امور پر ہے۔

مولانا کے دلائل کا خلاصہ

(۱) ان کا دعویٰ ہے کہ نہ صرف تمہرے رب کا حکم، بلکہ تمام عقود فاسدہ اور ناجائز معاشی وسائل کی ممانعت کے احکام بھی صرف ان معاملات سے تعلق رکھتے ہیں جو مسلمان اور مسلمان کے درمیان ہوں۔ بالفاظ دیگر غیر قوموں کے ساتھ تو معاملات پیش آئیں ان میں حرام و حلال اور جائز و ناجائز کی کوئی تمیز نہیں۔

(۲) ان کے نزدیک شریعت نے تمام ان غیر مسلموں کو مباح الدم والاموال قرار دیا ہے جو فتنی نہ ہوں، لہذا اسی سے غیر مسلموں کا مال جس طریقہ سے بھی لیا جائے جائز ہے عام اس سے کروہ سوڑ ہو، یا قمار ہو، یا ان کے ہاتھ شراب اور لحم خنزیر اور مردار فروخت کیا جائے یا اور دوسرے وہ طریقے اختیار کیے جائیں جنہیں اسلام نے "مسلمانوں کے معاملہ میں" اختیار کرنے کو حرام ٹھہرایا ہے مسلمانوں کے معاملہ میں"

اختیار کرنے کو حرام ٹھہرایا ہے۔ مسلمان جس طرح بھی ان کا مال یہیں گے، اس کی حیثیت مال کی غنیمت یا فَرَیْضَت کی ہوگی۔ اور وہ ان کے لیے حلال و طیب ہے۔

(۳) ان کی رائے میں ہر وہ ملک جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے دارالحرب ہے اور اس کے غیر مسلم باشندے سے حرbi یہیں۔ وہ دارالکفر کو دارالحرب کا اور کافر غیر ذمی کو حرbi کا نام معنی سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک تمام وہ ممالک جن پر غیر اسلامی سلطنتیں قابضی ہیں پورے معنوں میں دارالحرب ہیں، اور وہاں علی الدوام وہی احکام مسلمانوں پر جاری رہنے پاہیں جو دارالحرب کے متعلق کتب فقیہ ہیں مذکور ہیں۔

(۴) دارالحرب کی جو تعریف فقہائے متقدمین نے کی ہے وہ مولانا کی رائے میں ہندوستان پر چیپاں ہوتی ہے اور اس ملک کے مسلمانوں کی فقہی پوزیشن ان کی رائے "مستامن" کی ہے۔ دوسرے الفاظ میں مسلمان اس دارالحرب میں اس حیثیت سے رہتے ہیں کہ انہوں نے یہاں کی حرbi سلطنت سے امان لی ہے۔

(۵) مستامن کے متعلق اسلامی قانون یہ ہے کہ وہ اُس غیر اسلامی سلطنت کے قانون کی خلافت ورزی نہیں کر سکتا جس سے امان لے کر وہ اس کے ملک میں رہتا ہو۔ لہذا مولانا کی رائے ہندوستان کے مسلمانوں پر غیر اسلامی حکومت کے قانون کی اطاعت تو ایسی فرض ہے کہ اگر یہ سروانس سے انحراف کریں گے تو عذاب جہنم کے سحق ہوں گے۔ لیکن اسلام کے اکثر احکام اور قوانین کی اطاعت سے وہ بالکل آزاد ہیں، اس لیے کہ وہ دارالحرب میں مقیم ہیں۔ قتل، غارت گری، چوری، ڈکیتی، رشوٹ، ہلگی اور ایسے ہی دوسرے ذرائع سے حرbi کفار کو نقصان پہنچانا اور ان کا مال لینا ہندوستانی مسلمانوں کے لیے صرف اس وجہ سے ناجائز ہے کہ ملکی قانون ہی کو ناجائز کہتا ہے، نہ اس لیے کہ یہ افعال بجائے خود اسلامی شریعت میں حرام ہیں یعنی کہ تمدن اور معیشت اور اخلاق کے بیشتر معاملات میں ہندوستان کے اندر اسلامی شریعت اُس وقت تک منسوخ ہے جب تک یہاں غیر اسلامی حکومت قائم ہے۔ اب شریعت کے قوانین میں سے صرف قانون معاہدہ کا اخلاق یہاں کے مسلمانوں پر

ہوتا ہے، اور اس کی رو سے لین دین اور کسب مال کے جو ذرائع ملکی قانون میں ناجائز ہیں ان کو اختیار کرنا تو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے شرعاً حرام ہے، بخلاف اس کے جن ذرائع کو شریعت نے حرام ٹھہرا لیا ہے اور ملکی قانون حلال ٹھہرا تا ہے وہ سب کے سب قانوناً بھی حلال ہیں اور شرعاً بھی حلال، نہ دنیا میں ان پر کوئی تغیری، نہ آخرت میں کوئی مواخذه۔

دلائل مذکورہ پر محمل تبصرہ

میرے نزدیک ان میں سے ایک بات بھی صحیح نہیں۔ خود حقیقی قانون بھی، جس کے نہائت سے کی جیشیت سے مولانا نے پر تمام تقدیر فرمائی ہے، ان بیانات کی تائید نہیں کرتا۔ اس مضمون میں مولانا نے اسلامی قانون کی جو تصویر پیش کی ہے۔ وہ صرف غلط ہی نہیں بلکہ بھی ہے۔ اس کو درکیجہ کہ اسلام اور مسلمانوں کے متعلق ہرگز کوئی اچھی رائے تقامم نہیں کی جاسکتی۔ اگر کوئی ناواقف شخص اس تصویر کو درکیجے گا تو وہ اسلام کو دنیا ہا بدنیا ہب اور مسلمانوں کو ایک نہایت خطرناک قوم سمجھے گا، اور خدا کا شکر ادا کرے گا کہ غیر مسلم حکومت کے قانون نے ان "مستامتوں" کے ہاتھ سے دوسری قوموں کی جان و مال اور آبرو کو بچا رکھا ہے۔ دوسری طرف، اگر شریعت کی اسی تعبیر کو قبول کر کے ہندوستان کے مسلمان اس لئے میں نہ دیگر بس کرنا شروع کر دیں تو شاید بچا س بس کے اندر ان میں پرائے نام بھی اسلام باقی نہ رہے۔ بلکہ اگر خدا نہ کر دے کفار کے تسلط کے آغاز سے ہندوستان میں انہی اصولوں پر علیحدہ درآمد کیا گیا ہوتا تو آج جو کچھ رہی سہی اسلامیت ہندوستان کے مسلمانوں میں نظر آتی ہے۔ یہ بھی نہ ہوتی اور وہ طبع سو بس کے اندر ہندوستان کے مسلمان بالکل مسخ ہو چکے ہوتے — البتہ یہ ضرور ممکن تھا کہ ان کی جائیدادوں کا ایک حصہ محفوظ رہ جاتا اور ان میں بھی مادر اڑیوں اور بنیوں اور سیطھوں کا ایک طبقہ پیدا ہو جاتا۔

حاشا و کلام، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولانا نے بالقصد اسلام کی غلط نمائندگی کی ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ انہوں نے قانون اسلامی کو جیسا کچھ سمجھا ہے غایت درجہ

دیانت اور نیکیتی کے ساتھ دیساہی ظاہر فرمادیا ہے۔ مگر مجھے اعتراض دراصل ان کے مفہوم اور ان کی تعبیری پڑھے ہے۔ میں نے قانون اسلامی کا جو تجویز ابہت مطالعہ کیا ہے اس کی روشنی میں یہ کہنے کی وجہت کروں گا کہ خاص اُن مسائل کی حد تک جو اور پہ مذکور ہوئے ہیں، مولانا نے شریعت کے اصول اور احکام کو ٹھیک ٹھیک نہیں سمجھا ہے۔ اس غلط فہمی کے دروجہ قرین قیاس ہیں۔

اولاً، آئندہ مجتہدین نے جس زمانہ میں سلطنت اسلامی کے دستوری قانون (Constitutional Law) اور بین الاقوامی معاملات کے متعلق کتاب و صفت کی ہدایات اور خود اپنے اجتہاد سے یہ احکام مدون کیے تھے، اس زمانہ میں فقہاء کی حیثیت مخصوص اصحاب درس و تدریس ہی کی نہ تھی بلکہ وہی سلطنت کے قانونی مشیر اور عدالتوں کے صدر نشین بھی تھے۔ راست دن اسلامی سلطنت میں نہ تھے دستوری اور بین الاقوامی مسائل پیش آتے تھے اور ان میں انہی بزرگوں کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ ہمسایہ قوموں سے جنگ و صلح کے معاملات ہوتے رہتے تھے، اسلامی سلطنتوں کی رعایا کے درمیان معاملات اور تعلقات کی گوناگون صورتیں پیش آتی تھیں اور ان سے جو قانونی مسائل پیدا ہوتے تھے ان کا تصییر کرنے والے یہی حضرات تھے۔ یہ لوگ اپنے فیصلوں اور تجویزوں میں جو قانونی اصطلاحات و عبارات استعمال کرتے تھے، ان کے مفہومات کا تعین مخصوص لفظی تشریحات پر منحصر تھا، بلکہ ان کی اصلی شرح وہ واقعی حالات تھے جن پر یہ اصطلاحات و عبارات منطبق ہوتی تھیں۔ پس اگر کسی اصطلاح یا عبارت میں کوئی ابهام رہ جاتا، یا ایک چیز کے مختلف مدارج پر ایک ہی اصطلاح استعمال کی جاتی اور ظاہر الفاظ میں فرقی مدارج پر دلالت کرنے والی کوئی چیز نہ ہوتی، یا ایک وسیع مفہوم پر ایک لفظ بولا جاتا اور صرف موقع و محل کے لحاظ سے اس کے مختلف مفہومات میں تمیز ہوتی، تو اس سے عمل اقتضائی کے انطباق اور استعمال میں کوئی قباحت واقع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا۔ نہ یہ اندانزیشہ تھا کہ کوئی قانون دا شخص کسی حکم کو مخصوص الفاظ کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے بالکل مختلف

صورت حال پر چیز کر دے گا۔ اس لیے کہ اُس وقت اسلامی قانون کی اصطلاحات اور مخصوص قانونی عبارات کی چیزیت رائج وقت سکون کی سی تھی عملی دنیا میں ان کا چلن تھا۔ ان کے مفہومات کو سمجھنے اور ٹھیک موقع پر استعمال کرنے والہ ہر ایک کی صحیح حد معلوم کرنے میں کوئی دقت نہ تھی۔ ہر قانون والی شخص کو شب و روز ان حالت سے بالاواسطہ یا بلا واسطہ دوچار ہونا پڑتا تھا جن میں یہ زبان برتی جاتی تھی۔ مگر اب ایک ترتیب سے وہ صورت حال مفقود ہے۔ دستوری مسائل اور میں الاقوامی معاملات سے بالفعل علماء کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ اسلامی سلطنتیں مدت گئیں اور یہ سلطنتیں باقی ہیں ان میں بھی یہ مسائل علمائے شریعت سے متعلق نہیں ہیں۔ عملی دنیا میں اسلامی قانون کی اصطلاحات و عبارات کا چلن بھی متقوں سے بند ہو چکا ہے۔ اب یہ پڑانے تاریخی سکے ہیں جن کی قیمت کا وہ حال نہیں کہ رواج کی وجہ سے بازار میں ہر آدمی کے لیے وہ ایک جانی پہچانی چیز ہو، بلکہ ان کی پرانی قدر رائج (Market value) معلوم کرنے کے لیے پڑانے دیکارڈ کی جوانی میں کرنا اور زمانہ حال کے عملی بر تاثر پر قیاس کر کے اُس زمانے کے واقعی حالات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں تک مسائل سیاسی و دستوری کا تعلق ہے فقه اسلامی کے احکام کو سمجھنا، مسائل نکاح و وراثت وغیرہ کو سمجھنے کی پہلیت زیادہ مشکل ہے۔ خصوصاً جہاں ہماری کتب فقہ میں عبارات مبہم رہ گئی ہیں یا اصطلاحات میں توسع پایا جاتا ہے وہاں علماء کے لیے قانون کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا اور اس کی صحیح تعبیر کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اب ان کے صرف

لہ اس کی ایک دلچسپ مثال مولانا ہی کے مضمون میں اوپر گزد رچکی ہے، جہاں انہوں نے شاہی کی ایک عبارت نقل کر کے یہ حکم بیان کیا ہے کہ سمندر پورے کے پورے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غیر اسلامی مقبول ہیں جس زمانہ میں ابتدائی کسی مجتہد نے یہ بات کھی تھی اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ درست ہو گی۔ لیکن بعد کے لوگوں نے جب انکوں کی رباتی حاشیہ (ص ۲۸۶ پر)

الفاظ ہی الفاظ اور گئے ہیں، کتابوں کے متون بھی لفظی ہیں اور ان کی شروع
بھی لفظی۔

دوسری وجہ جس کی طرف خود مولانا نے بھی اشارہ کر دیا ہے، یہ ہے کہ گذشتہ
صدی قریب تھی صدی سے مسلمانوں پر جو معاشی تباہی سلطنت ہو گئی ہے، اور جس طرح
دیکھتے ہیں دیکھتے ان کی کروڑوں اور اربوں روپے کی جائیدادیں کوڑیوں کے مول نکلی
ہیں، اور جس طرح مسلمانوں کے بڑے بڑے خوش حال گھرانے رہیوں کو محتاج ہو
گئے ہیں، اس کو دیکھو دیکھ کر ہر درمند مسلمان کی طرح مولانا کا دل بھی دُکھا ہے اور
انہوں نے غایبت درجہ دل سوزی کے ساتھ کوشش کی ہے کہ شریعت میں اس
مصیبیت کا کوئی حل تلاش کر دیں۔ اس جذبہ کے اثر سے اکثر مقامات پر ان کا قلم اعتدال
اور فقیر ہانہ اختیاط سے ہٹ گیا ہے۔ مثلاً ان کا یہ ارشاد کہ ہندوستان میں سودا نہ لینا گا
ہے، یا یہ بیان کہ عقود فاسدہ کی ممانعت کے جملہ احکام صرف مسلمانوں کے باہمی
معاملات تک محدود ہیں۔ جہاں تک مسلمان ان ہندو کے موجودہ روح فرسا حالات کا
تعلق ہے کون مسلمان ایسا ہو گا جس کا دل ان کو دیکھ کر نہ دُکھتا ہو، اور کون اس کا
خواہش مند نہ ہو گا کہ ان مصائب سے مسلمان سنجات پائیں۔ اس باب میں ہمارے
اوہ ان کے درمیان ذرہ برا بر بھی اختلاف نہیں۔ مگر یہ ماننے سے قطعی انکار کرتا ہوں
کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی تباہی کسی حیثیت سے بھی، بالواسطہ یا بلا واسطہ

(بقیہ حاشیہ ص ۲۸۵ سے) کتابوں میں یہ بات لکھی پائی تو تقید اسے اسلامی قانون کا مستقل فصلہ
سمجھیا جائے۔ حالانکہ سمندر میں الاقوامی تعلقات کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں اور کوئی طاقت عالمگیر
اڑوا قنوار کی مالک ہیں جو سکتی جب تک سمندر وی پر اس کا اقتدار نہ ہو۔ اگر اسلامی فقہ کا پڑا حصہ
پڑھانا صرف مدرسون تک محدود نہ ہوتا اور علماء کا عملی تعلق دنیا کی سیاست سے رہتا تو وہ محسوس
کر سکتے تھے کہ سمندر وی سے کفار کے حق میں خود مستبردار ہو جانا اور اپنے سیے خشکی میں سمٹ رہے
کا آپ ہی فیصلہ کر لینا کتنی بڑی غلطی ہے۔

سُود نہ کھانے کی وجہ سے ہے، اور اس حالت کا بد لانا سُود کی محیل پر موقوف ہے۔ بلکہ میں یہ بھی تسلیم نہیں کرتا کہ تمہرے سُود کسی ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ میں بھی مسلمانوں کی معاشی ترقی میں مانع ہے۔ جو شخص یَمْحَقَ اللَّهُ الرِّبُوْ وَيُؤْرِي الْحَدَّاقَاتِ پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اس ارشاد ربانی کو معاش اور معاد دنوں میں ایک اٹل حقیقت سمجھتا ہو، اس کو کبھی اس کو کبھی اس قسم کے شہزادت میں مبتلا نہ ہونا چاہئے۔ اگر مولانا خور فرمائیں گے تو ان پر یہ حقیقت منکشت ہو جائے گی کہ مسلمانوں کی معاشی تباہی کا اصل سبب سود نہ کھانا نہیں ہے، بلکہ سُود کھلانا اور اداۓ زکوٰۃ سے جی چڑانا، اور اسلامی نظمِ معيشت کو بالکل مغطیل کر دینا ہے۔ جن گناہوں کی سزا مسلمانوں کو مل رہی ہے وہ اصل نہیں ہیں۔ اگر وہ ان گناہوں پر قائم رہے اور اس پر سُود خواری کا اضافہ اور ہو گیا تو ممکن ہے کہ چند افراد قوم پر مالی آماس چڑھ جائے اور اس سے چند سیدھے سادے مسلمان دھوکہ کھا جائیں، لیکن وہ حقیقت اس سے بھیتیزتِ مجموعی قوم کی معاشی حالت میں کوئی اصلاح نہ ہو گی اور دوسری طرف مسلمانوں کی اخلاقی حالت اور ان کی باہمی اتفاق و مواتست اور ان کے تعاطف و تراحم اور تعاون و تناصر میں شدید انحطاط رونما ہو گا یہاں تک کہ ان کی قومیت مضمحل ہو جائے گی۔

اپ سُود کا نام "پھاؤ" کہ دیجئے یا اسے مَاشَدَةً^۱ من السَّمَاءِ کہہ کر بچا رہی ہے، اس کی حقیقت اور فطری خاصیت میں بال برابر بھی تغیر واقع نہ ہو گا۔ سُود اپنی عین فطرت کے لحاظ سے زکوٰۃ کی ضد ہے اور اس نفیاتی حقیقت میں کسی لام کے دارِ الحرب یا دارِ الایلام ہونے سے کوئی تفاوت نہیں ہوتا۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی معاشی زندگی میں یہ دونوں جمع ہو جائیں۔ ایک وہ ذہنیت ہے جس کو دو پیہ کرنے اور گین گن کر سنبھالنے اور ہفتلوں اور ہپتوں کے حساب سے برداشت نے، اور اس کو بڑھوڑی کے حساب لگانے میں مزا آتا ہے۔ دوسری وہ ذہنیت ہے جس کو قوتیت بازو سے کھانے اور کماکر کھانے اور کھلانے اور راہ خدا پر لٹا دینے میں مزا آتا ہے۔ کیا کوئی عاقل یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ دونوں ذہنیتیں ایک ہی دل و دماغ میں جمع ہو سکیں گی؟ یا یہ

امید کی جا سکتی ہے کہ مسلمان کو سود پر دوپیہ لگانے اور یوم افیوماً اس کے نشوونما پر نظر رکھنے کا چسکا گا جائے گا تو اس کے بعد بھی اس کی جیب سے زکوٰۃ و صدقات کے لیے ایک پیہ نحل سکے گا؛ کیا اس کے بعد بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قرض حسن دینا گوارا کرے گا؟ کیا اس کے بعد مسلمانوں کی حالت بھی اُس قوم کی سی نہ ہو جائے گی جس کے متعلق قرآن میں کہا گیا ہے کہ **شَهَدَ قَسْتَ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهُنَّ كَالْجَاهِيَّةُ أَذَا آشَدُوا قُسْطًا** اور **وَلَتَجْحِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ النَّاسَ إِلَى الْحَيَاةِ**؟ چند قاروں اور چند شاہلاک پیدا کرنے کے لیے پوری قوم آخر کیوں خود کشی کرے؟ اور اس خود کشی کو جائز ثابت کرنے کے لیے خدا اور رسول ﷺ کے قانون کی غلط تاویل کیوں کی جائے؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ کو اس ذمہ داری میں کیوں شرپک کیا جائے۔

پھر میں کہتا ہوں کہ دُنیا میں صرف مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جو تیرہ سو برس سے نظام سرمایہ داری کی خلافت پر قائم ہے اور جس نے عملًا اس فاسد نظام کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ اس قوم کو جو چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نظام سرمایہ داری کی عدالت پر قائم رکھنے والی اور اس میں جذب ہونے سے بچانے والی ہے وہ زکوٰۃ کی فرضیت اور سود کی تحریم ہی ہے۔ سو شلسٹ اور کیونست اور نہلسٹ سب سرمایہ دار سے سمجھوتہ کر سکتے ہیں، مگر جب تک یہ دوزبر دست رکاوٹیں قائم ہیں، مسلمان کبھی اس سے سمجھوتہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام وہ قویں نظام سرمایہ داری میں جذب ہو گئیں جن کے مذہب نے سود سے منع کیا تھا، مگر مسلمان تیرہ صد یوں سے اس کے مقابلے میں جم ہوا ہے۔ اب کہ خود دنیا والوں میں بھی بعارات پیدا ہو رہی ہے اور وہ اس نظام کو مٹانے کے لیے فوج در فوج جمع ہو رہے ہیں، یہ کیسی بدینکنی ہو گی کہ مسلمان خود میدان مقابلہ

لے پھر تھارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے اور ان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ پتھر کی طرح بلکہ اس سے زیادہ سخت ہیں۔

تھے تم ان کو سب سے بڑا دکر زندگی کا حریض پاؤ گے۔

یے ہٹ جائے اور اپنے ہاتھوں اپنے قلعہ کے ستحکم بوجوں کو مسماڑ کر کے نظام سرمایہ داری کی طرف مصالحت کا ہاتھ بڑھانے لگے۔

اس ضروری تہذید کے بعد اب ہم اصل قانونی بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

کیا عقود فاسدہ صرف مسلمانوں کے درمیان ممنوع ہیں

مولانا کے پہلے دعوے کی بنایہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کسب مال کے ناجائز

ذرائع سے روکا گیا ہے وہاں "بَيْتَكُمْ" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان آپس میں عقود فاسدہ پر معاملات نہ کیا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ یا ایسا **الَّذِينَ أَمْتَوْا إِلَاتَّا كُلُودَآمْوَأَكُوْدَ بَيْتَكُمْ بِإِلْبَاطِلِ إِلَّا إِنْ شَكُونَ تِجَارَةً فَعَنْ شَرَاطِنِ مُشْكُمْ** النساء: ۲۹) اب یہ ظاہر ہے کہ سُود بھی کسب مال کے ناجائز طریقوں میں سے ایک طریقہ ہی ہے۔ لہذا قرآن میں آخِلَّ اللَّهُ الْبَيْتَعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوْجَو فرمایا گیا ہے، یہ بھی اگرچہ ظاہر الفاظ کے لحاظ سے عام حکم ہے، مگر جس اصل کی فرع ہے اس کے ساتھ بالتبیح اس کو بھی صرف مسلمانوں کے باہمی معاملات تک ہی محدود سمجھنا چاہیے۔ اس کی مزید تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو مکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ دلار بوبین المسلم والجنبي، یعنی مسلمان اور جنوبی کافر کے درمیان تفاصل کے ساتھ جو لین دین ہو اس پر لفظ "سود" کا اطلاق ہی نہ ہو گا۔ بالفاظ دیگر لار بلو کے معنی یہ ہیں کہ غیر ذمی کافر سے جو سود لیا جائے وہ سود ہی نہیں۔ پھر وہ حرام کیسے ہوا؟

یہ مولانا کے استدلال کا خلاصہ ہے۔ اس میں پہلی اور بیانادی غلطی یہ ہے کہ قرآن کے مقاصد سے قطع نظر کر کے صرف ظاہر الفاظ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ قرآن کا عام انداز بیان یہ ہے کہ وہ اخلاق اور معاملات کے متعلق جتنی بیاناتیں دیتا ہے ان میں صرف اہل ایمان کو مخاطب کرتا ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ تم آپس میں ایسا کیا کرو دیا کرو۔ اس طرز بیان میں کچھ دوسرا حکم تھیں ہیں جن کے ذکر کا یہ موقع نہیں۔ بہاں صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اس قسم کے انداز بیان میں اخلاق اور معاملات

کے متعلق جتنے احکام اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں، ان کو فقہاءِ اسناد سے کسی نے بھی صرف مسلمانوں کے باہمی معاملات تک محدود قرار نہیں دیا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان اور مسلمان کے درمیان جو افعال حرام ہیں مسلمان اور کافر کے درمیان وہی حلال یا مستحب ہیں۔ اگر ایسا ہو تو درحقیقت اسلامی اخلاقی قیامت اور اسلامی قانون تمدن کی جڑ ہی کٹ جائے۔ مثلاً:-

ارشاد باری ہے وَلَا تَتَخَذُ دُنْدُبًا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا وَبَيْتَكُمْ (النحل: ۹۷)

کیا اس کا یہ مطلب یہ جائے گا کہ مسلمان صرف مسلمان سے جبوٹی قسم کھائے ہے رہے غیر مسلم تو ان سے دروغ حلقوی کرنے میں کوئی ممانع نہیں؟

فَرْمَانَ اللَّهُ ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا تَخُونُونَا وَالرَّسُولَ وَتَخُونُونَا أَمَانَتُكُمْ (انفال: ۲۷) کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان صرف اُن امانتوں کی حفاظت کریں جو مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہوں؟ باقی رہی کافر کی امانت تو اس میں سے تکلف خیانت کرڈالی جائے؟

پھر یہ جو فرمایا فیان آمنَ بِعُصْكُمْ بِعَضًا فَلَيُؤَدِّيَ الَّذِي أَوْتُمْ أَمَانَتَهُ وَالْيَتَقِنُ اللَّهُ تَرَبَّطُهُ (بقرہ: ۲۸۳) کیا اس کی یہ تاویل کی جائے گی کہ مسلمان کے سچائے کوئی کافر اگر کسی مسلمان پر بھروسہ کر کے بغیر کھا پڑھی کیسے اپنا کچھ مال اس کے پاس رکھوادے تو وہ ”بچاؤ“ سمجھ کر اس کو کھا سکتا ہے؟

پھر یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ وَأَشْتَهِدُوا شَهِيدًا مِنْ مِنْ تِجَالِكُمْ اور کَلَّا يَأْبَ الشَّهَدَةَ إِذَا مَا دُعُوا اور وَلَا شَكُونَوا الشَّهَادَةَ وَأَشْهِدُوا إِذَا أَتَيْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدًا (بقرہ: ۲۸۴) تو کیا یہ سب احکام صرف مسلمانوں کے باہمی معاملات ہی کے یہی ہیں؟ کیا کافر کے حق میں شہادت دینے سے انکار کرنا، یا پچھی شہادت چھپا کر جبوٹی شہادت دینا یا دستاویز کے غیر مسلم کا تب یا گواہ کو خوفزدہ کرنا یہ سب جائز افعال ہیں؟

اس کے بعد یہ جو حکم دیا گیا ہے کَرَآنَ الَّذِينَ يُحِبُّونَ آنَ تَشِيمَ الْفَاجِشَةِ

فِي الْذَّاِيْنَ اَمْنُوا لَهُمْ عَدَّاً بِكَلِمَاتِ النُّورِ :۱۹) تو کیا اس سے یہ استدلال کیا جاسکتا ہے کہ غیر قوموں کے اندر فحش اور بد کاری پھیلانا مسلمان کے لیے جائز ہے؟

اور یہ بھو فرمان ہے وَا إِنَّ الْذَّاِيْنَ يَسُوْمُونَ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ لِعِنْدِهِنَّا وَالْأَخْرَقَ (النور: ۲۷) تو کیا اس کی یہی تاویل کی جائے گی کہ کفار کی حور توں پر جھوٹی تہمتیں دل کھول کر لگاؤ۔

اور یہ بھوار شاد ہے اکہ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَبَيَّنَ كُمْ عَلَى الْبَغَاءِ رَبَّنَ أَرْدُنَ تَحْصِلُ
كُلَّتِبَيْتَ غُرَّاضَ الْحَيَوَةِ الْدُّنْيَا ر (النور: ۲۳) تو اس کو یہ معنی پہنائے جائیں گے کہ کافر عورتوں کو حرام کاری پر مجبور کرنا اور ان کی خرچی کھانا جائز ہے؟ کیا اس طرح کی تاویل کر کے کسی مسلمان کے لیے علاں ہو گا کہ پیرس میں سرکاری لائنس لئے کر ایک تجھہ خانہ کھول دے سے؟

پھر یہ بھوار شاد ہے اپنے کہ لا یَعْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا آیُحِبُّ اَحَدًا كُمْ آث
يَا حَلَّ لَخْمَهُ آخِيشِهِ مَيْتَاتَكَرْهُمُودُهُ۔ (الحجروات: ۱۲) تو کیا اس کی یہ تاویل ہو گی کہ صرف مسلمان کی غیبت ناجائز ہے؟ باقی رہا کافر تو اس کی غیبت کرنے میں کوئی بُرا ٹی نہیں؟

اگر اسی اصول پر قرآن اور سنت کے احکام کی تاویل کی جائے اور مسلمان ہی کا اتباع شروع کر دیں تو اندازہ فرمائیجئے کہ یہ قوم کیسے بن کر رہے گی۔

بالفرض اگر بلا دلیل یہ مان لیا جائے کہ صرف لَأَتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ
بِالْبَاطِلِ ہی کا حکم مسلمانوں کے باہمی معاملات کے لیے مخصوص ہے اور یہ قاعدہ دوسرے احکام میں جاری نہ ہو گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ذقی کافروں کو سودی لین دین سے کیوں روکا گیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم جماعتیوں سے اس قسم کے معاملات کیوں کیے کہ وہ سودی کارو بار چھوڑ دیں ورنہ معاملہ کا عدم ہو جائیگا؟ اور کتب فقیہہ میں یہ تصریح کیوں ہے کہ اگر کوئی حربی کافر دار الاسلام میں امان لے کر

آئے تو اس سے بھی سُود پر معاملہ کرنا حرام ہے؟

رہی حدیث لَأَدْبُوْ بَيْنَ الْمُسِلِّمِ وَالْحَرْبِیِّ، تو أولاً اس میں لفظ حربی سے
مراد مخصوص غیر ذمی کافر نہیں بلکہ بر سر جنگ قوم کا فرد ہے جیسا کہ خود فقہاء حنفیہ
کی تصریحات سے آگے چل کر ثابت کیا جائے گا۔

ثانیاً لاربُو کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ حربی کافر سے بوسود لیا جائے گا وہ سود
ہی نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ گودہ صورۃِ حقیقتہ سُودہ ہی ہے ایکیں اس
قانون میں حوصلت سے مستثنی کر دیا گیا ہے اور اس کی حیثیت ایسی ہو گئی ہے کہ
گویا وہ سود نہیں ہے۔ ورنہ کسی سود کو یہ کہنا کہ وہ سود ہے ہی نہیں، اس قدر
چہل اور بے معنی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب
کرنے کو میں گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ بالکل ایک معقول بات ہے کہ کسی خاص حالت
میں سُود کو تعزیہ اور حوصلت نہیں مستثنی کر دیا جائے، جس طرح خود قرآن نے اضطرار
کی حالت میں مردار اور سُور اور ایسی ہی دوسری حرام چیزوں کھایتے کو مستثنی کیا ہے
یعنی یہ ایک نہایت غیر معقول بات ہے کہ سُود کی حقیقت جوں کی توں باقی ہو اور ہم
ایک جگہ اس کو ربو کہیں اور دوسری جگہ سرے سے اس کے ربو ہونے ہی سے انکار
کر دیں۔ اس طرح تو دنیا کے ہر عمل حرام کو مخصوص تغیراً سُم سے حلال کیا جاسکتا ہے۔
جس خیانت کو جی چاہے کہہ دیجیے کہ یہ خیانت ہی نہیں۔ جس بھوٹ کو جائز کرنا ہو کہہ
دیجیے کہ اس پر لفظ بھوٹ کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ جس غیبت اور فحش اور حرام خوری
کی طرف طبعیت مائل ہو اس کا نام بدل کر سمجھ دیجیے کہ اس کی حقیقت بدل گئی۔ بزرگار
رسالت مائب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اس سے بہت بلند تھا کہ آپ اس قسم کے لفظی
جیلے اپنی اُممت کو سکھاتے۔

ثالثاً اس حدیث میں جو حکم بیان ہوا ہے اس کی حیثیت مخصوص ایک خصوصیت
اور رعایت کی ہے، نہیں کہ اس کو مسلمانوں کا عام دستور العمل بنانا مقصود ہو۔
یہ اس بحث کو بالکل غیر ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث کس درجہ کی ہے کیونکہ حدیثوں

کے رد و تقبیل میں فقیرہ کے اصول محمد بن حنفیہ کے اصول سے ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ امام عظیم اور امام محمد جبیسے آئمہ مجتہدین نے جس حدیث کو قابل استئاد سمجھا ہواں کو بالکل ناقابل اعتبار قرار دینا درست نہیں۔ مگر اس مختصر اور غیر واضح اور مختلف فیہ جبرا واحد کو اتنا پھیلا نا بھی درست نہیں کہ قرآن اور حدیث اور آثار صحابہ کی متفقہ شہزادتہ ایک طرف ہو اور دوسری طرف یہ حدیث ہو، اور بچھراں ایک حدیث کی تاویل ان سب کے مطابق کرنے کے بجائے، ان سب کو اس ایک حدیث پر ڈھلنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن اور تمام احادیث صحیحہ میں مطلقاً بلوکو حرام کہا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان نہ آپس میں اس کالیں دین کر سکتے ہیں نہ خیر قوموں کے ساتھ ایسا کار و بار کرنا ان کے لیے جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نحران سے جو معاپدہ کیا تھا اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان نہ صرف خود سودی لیں دین سے پر ہیز کریں گے بلکہ جن غیر مسلموں پر ان کا بس چلے گا ان کو بھی بچھراں فعل سے روک دیں گے۔ تحریم ربوک کے بعد ایک واقعہ بھی ایسا پیش ہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و اجازت سے کسی مسلمان نے کسی ذمی یا غیر ذمی کافر کے ساتھ سودی معاملہ کیا ہو۔ خلافاء راشدین کے دور میں بھی اس کی کوئی نظر پیش نہیں کی جاسکتی۔ اور یہ بات صرف سودہی پر موقوف نہیں، عقود فاسدہ میں سے کوئی ایک عقد فاسد بھی ایسا نہیں جس کی تحریم کا حکم نازل ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انعقاد کی کسی مسلمان کو اجازت دی ہو۔ نظری اور اصولی اہل حرب تو درکنار اجولوگ عملابربر جنگ سے، انہوں نے عین معرکہ جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عقد فاسد پر معاملہ کرنا چاہا اور کافی رقم پیش کی مگر آپ نے اس کو لیٹھے سے انکار

لے یہ بات نظر انداز نہ کرنی چاہئی کہ امام ابو یوسف، امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور اکثر اصحاب حدیث نے اس روایت کو رد کر دیا ہے۔

کر دیا۔ ایک طرف آیت قرآنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صریح و صحیح اقوال اور عہد نبوی کا ثابت شدہ عمل درآمد ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے نہ صرف سُود بلکہ تمام عقود فاسدہ مطلقًا ناجائز ہیں اور اس میں مسلم و غیر مسلم یا حربی یا ذمی کا کوئی امتیاز نہیں۔ دوسری طرف صرف ایک مُرسَل حدیث ہے جو ان سب کے خلاف حربی اور مسلم کے درمیان صرف سُود کو حلال ثابت کر رہی ہے۔ آپ نے اس حدیث کو اتنی اہمیت دی کہ اس کی بنیاد پر نہ صرف سُود کو بلکہ تمام عقود فاسدہ کو تمام غیر ذمی کفار کے ساتھ جمویت کے ساتھ حلال کر ڈالا۔ مگر ہم اس کو صحیح تسلیم کر کے اس سے صرف اتنی اجازت نکالتے ہیں کہ جنگ کی اضطراری حالتوں میں اگر کوئی مسلمان دشمن سے سُود لے لے یا کسی اور عقد فاسد پر معاملہ کر لے تو اس سے موافذہ نہ ہو گا۔

لہیہ واقعہ غزہ خندق کا ہے اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں — مشرکین میں سے ایک بڑے آدمی کی لاش خندق میں گر پڑی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو روپیرے کروہ لاش ان سے خرید لیتی چاہی۔ مسلمانوں نے حضور مسیح سے دریافت کیا تو آپ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا کتاب المزاج لامام ابی یوسف۔ طبع امیریہ حصہ ۴۲۳۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر جنگ کے موقع پر مسلمان کو دشمنوں سے عقود فاسدہ پر معاملہ کرنے کی اجازت دی بھی گئی ہے تو وہ کراہ است سے خالی نہیں اور یہ بات مسلمان کے شاید شان نہیں ہے کہ شاید حالت اضطرار کے بغیر اس سے فائدہ اٹھائے۔ اسی بات پر وہ واقعہ بھی دلالت کرتا ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا انہوں نے تکہ میں تحریم قمار سے پہلے مشرکین سے ایک شرط کی تھی۔ پھر اس کا رد روپیرہ انہوں نے اس زمانہ میں ان سے وصول کیا جب مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان عالمیت جنگ قائم تھی اور صرف عارضی احوال میں جنگ ہوا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حلال و طیب نہیں بھرا یا اور صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس سے صدقہ کر دو۔

یہ محض ایک رخصت ہے اور ایسی رخصت ہے جس سے اولوں العزم مسلمانوں نے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اسلامی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کسی حال میں بھی حرام کی کمائی سیئے پر آمادہ نہ ہو۔ خصوصاً کفار اور دشمنوں کے مقابلہ میں تو اس کو اپنے قومی اخلاق کی بلندی اور بھی زیادہ شان کے ساتھ ظاہر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ مسلمان کی لڑائی دو اصل تیر و تفنگ کی نہیں اصول اور اخلاق کی لڑائی ہے۔ اس کا مقصد زبردست میں حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ وہ دنیا میں اپنے صول پھیلانا چاہتا ہے۔ اگر اس نے اپنے مکارم اخلاقی ہی کو کھو دیا، اور خود ہی ان اصولوں کو قربان کر دیا جن کو پھیلانے کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے، تو پھر دوسری قوموں پر اس کی فویت ہی کیا باقی رہی؟ کس چیز کی بنا پر اس کو دوسروں پر فتح حاصل ہوگی اور کس طاقت سے وہ دلوں اور روحوں کو سخت کر سکے گا؟

دارالحرب کی بحث

ابدیں دوسرے سوال کی طرف توجہ کرنی چاہیئے اور وہ یہ ہے کہ دارالحرب اور دارالاسلام کے فرق کی بنیاد پر مسودا اور تمام عقود فاسدہ کے احکام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور اس بیان کی اصلاحیت ہے کہ تمام غیر ذمی کافر مباح الدم والاموال ہیں اس لیے ہر ممکن طریقہ سے ان کا مال لے لینا جائز ہے؟ اور اس تحریز کے لیے شریعت میں کیا گنجائش ہے کہ جس مکاہ پر کسی معنی میں اصطلاح دارالحرب کا اطلاق ہوتا ہو وہاں کے باشندوں پر دامادہ تمام احکام جاری ہونے چاہیئیں جو دارالحرب سے تعلق رکھتے ہیں؟

قانون اسلامی کے تین شعبے

اس سلسلہ میں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ شریعت یعنی قانون اسلامی کے تین شعبے ہیں:-

- (۱) اعتقادی قانون جو علی الاطلاق تمام مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے،
- (۲) دستوری قانون جس کا تعلق صرف سلطنت اسلامی سے ہے،

(۳) بین الاقوامی قانون، یا صحیح الفاظ میں تعلقات خارجیہ کا قانون جو مسلمانوں اور غیر قوموں کے تعلقات سے بحث کرتا ہے۔

ہماری کتب فقیریہ میں ان قوانین کو الگ الگ مرتب نہیں کیا گیا اور ان کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا گیا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں اسیے واضح اشارات ہو جو دریں جن سے قدرتی طور پر اسلامی قوانین کا ارتقاء نہیں الگ الگ راستوں پر ہوا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ جس فقیرہ اعظم کی قانونی بصیرت اور فقیرہ اندیشی نے سب سے برطانیہ کراں اشارات کو سمجھا اور ان کی بنیاد پر قانون کے ان تینوں شعبوں کی حدود میں ٹھیک ٹھیک امتیاز کیا، اور پیغمبر سے سچیدہ مسائل میں اس امتیاز کو ملحوظ رکھا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیٰ ہے۔ فقیرہ اسلام میں سے کوئی بھی اس معاملہ میں ان کا ہمسر نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ امام ابو یوسف جیسے بالغ النظر فقیرہ کی رسائی بھی اس مقام تک نہ ہو سکی۔ امام اعظم کے کمال کا ایک ادنیٰ ثبوت یہ ہے کہ ۷۰ سال پہلے انہوں نے قرآن اور سنت سے استنباط کر کے دستوری اور بین الاقوامی قوانین کے جواہر حکام مدقن کیے تھے، آج تک دنیا کے قانونی افکار کا ارتقاء ان سے ایک انجی بھی آگے نہیں بڑھا ہے، بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ دراصل یہ ارتقاء ہوا ہی اُن خطوط پر ہے جو ۱۷ صدی قبل کوفہ کے ایک پارچہ فرش نے کمینج دیتھے۔ فقیرہ اندیشی کی بیانات جدید زمانہ کے قوانین میں بظاہر جو ترقی نظر آتی ہے وہ کسی حد تک تندی احوال کے تغیر کا، اور ذریادہ تر بین الاقوامی معاہدات کا تیجہ ہے۔ تاہم اصولی جیشیت سے جدید زمانہ کے قوانین بڑی حد تک جتنی فقہ کا پچرہ ہیں اور ان کے مطالعہ سے جتنی فقہ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔

اعتقادی قانون

اعتقادی قانون کے لحاظ سے دنیادومندوں پر منقسم ہے۔ اسلام اور کفر تمام مسلمان ایک قوم ہیں اور تمام کفار دوسری قوم۔ اسلام کو مانتے والے سب کے سب اسلامی قومیت کے افراد ہیں اور اخوت دینی کی بنیاد پر کو ایک دوسرے پر حقوق

حاصل ہیں فَإِن شَاءُوا دَأْتَهُمُوا الْعَلَوَةَ وَإِنْ وَالرَّكُونَةَ فَلَا خَوَافِجُكُمْ
 فِي الْذِي يُدْعَى وَتَوْبَةً ۝ (۱۱) مسلمان کی جان اس کا مال اس کی عزت ہر چیز مسلمان
 کے لیے حرام ہے۔ ان دماء کم و اموال کم و اعراض کم علیکم حرام
 رجیلة الوداع) اسلام کے جملہ احکام کی اطاعت ہر مسلمان پر واجب ہے خواہ وہ
 دنیا کے کسی کو نے میں بستا ہوا جو کچھ فرض کیا گیا ہے وہ سب کے لیے فرض ہے،
 جو کچھ ملال کیا گیا ہے سب کے ملال ہے، اور جو کچھ حرام ٹھہرایا گیا سب کے
 لیے حرام ہے۔ کیونکہ جملہ احکام کے مخاطب آلَذِي شَنَّ أَمْثُوا یُسْ، کسی حال اور
 مقام کی قید اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے مقابلہ میں کفر ایک دوسری ملت ہے
 جس سے ہمارا اختلاف اصول اور اعتقاد اور قومیت کا اختلاف ہے۔ اس پر
 اختلاف کی بنیاد اصل ہمارے اور ان کے درمیان جنگ قائم ہے، الایہ کہ اس پر
 صلح یا معاہدہ یا ذمہ کی کوئی حالت عارض ہو جائے۔ پس اسلام اور کفر، اور مسلم اور
 کافر کے درمیان صلح اصل نہیں بلکہ جنگ اصل ہے اور صلح اس پر عارض ہوتی ہے۔
 مگر یہ جنگ بالفعل نہیں بالقوہ ہے، عملی نہیں نظری اور اصولی ہے اس پر کے معنی

لہ پھر اگر وہ کفر سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی
 بھائی ہیں۔

تم پر ایک دوسرے کے خون اور اموال اور عزتیں حرام ہیں۔
 تھوڑا واضح رہے کہ اس جگہ ہم "قومیت" کا لفظ اسلی اور وطنی قومیت کے معنی میں نہیں بلکہ
 تہذیبی قومیت کے معنی میں بول رہے ہیں، اور تہذیبی قومیت ہی پر اسلام تقدیمی اور سیاسی
 قومیت کی عمارت اٹھاتا ہے۔ ایک ماں کے دو بیٹے نسل ایک قومیت سے تعلق رکھتے ہیں۔
 ایک محلہ کے دو باشندے وطنی چیزیت سے ایک قومیت کے افراد ہیں۔ لیکن اگر ان میں
 سے ان میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر ہے تو ان کی تہذیبی قومیتیں الگ الگ ہو جائیں گی
 اور اصولی چیزیت سے وہ اختلاف رو نہ ہو گا جس پر بحث کر رہے ہیں۔

صرف یہ ہیں کہ جب تک ہماری اور ان کی قومیت الگ ہے اور ہمارے اور ان کے اصول ایک دوسرے سے متصادم ہیں، ہم یہی اور ان میں حقیقی و دائمی صلح اور دوستی نہیں ہو سکتی۔
 إِنَّا بُوَءَاءُ دُوْمَكْمَ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَفَرُ شَامِكْمَ
 وَبَدَا أَبْيَنَتَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَا وَذَلِكَ أَبْدَأَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ
 (المتحنہ: ۲۴)

اس مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر حدیث میں بتام و کمال بیان فرمایا ہے:-

أَمْرَتُ أَنْ أَقْاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهُدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَسْتَقِبِلُوا بِقِبْلَتَنَا وَأَنْ
 وَأَنْ يَأْكُلُوا ذَبِيْحَتَنَا وَأَنْ يَصِلُّوا صَلَوةَنَا فَإِذَا فَعَلُوا
 ذَلِكَ حُرْمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا مَحْقَهُمْ أَلَّا
 مَالُ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ۔

(ابوداؤد باب علی ما یقاتل المشرکین)

مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کریں اور ہمارا ذبحہ کھائیں اور ہماری طرح نماز پڑھیں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو ہمارے اوپر ان کے خون اور ان کے اموال حرام ہو جائیں گے بجز اس کے کہ کسی حق کے بدھیں ان کو لیا جائے۔ ان کے حقوق وہی ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں

له حضرت ابراہیم علیہ کفار سے کہا کہ ہم تم سے اور ان معبودوں سے جن کی تم خدا کے سوا عباد کرتے ہو، بے تعلق ہیں۔ ہم تم سے الگ ہو گئے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور دشمنی ہو گئی۔ تا اقتیادکم خدا ہے واحدر پر ایمان نہ رہے آؤ۔

اور ان پر فرائض وہی عائد ہوں گے جو مسلمانوں پر ہیں۔

اس اعتقادی قانون کی رو سے اسلام اور کفر کے درمیان ابدی جنگ ہے، مگر یہ جنگ محض نظری (Theoretical) ہے۔ ہر کافر حربی (Enemy) ہے، مگر اس معنی میں کہ جب تک ہماری اور اس کی قومیت الگ ہے ہمارے اور اس کے درمیان بنائے نزاع قائم ہے۔ ہر دارالکفر ہے محل جنگ ہے۔ یا بالفاظ دیگر جنگیت کا کلی ارتقایع صرف اختلاف قومیت ہی کے منش جانے سے ہو سکتا ہے۔ اس قانون نے محض ایک نظر پر اور قاعدة اصلیہ واضح طور پر مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا ہے جس پر ان کی حکومت عملی کی بناء قائم ہے۔ باقی رہے حقوق و واجبات اور جنگ و صلح کے عملی مسائل تو ان کا اس قانون سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ دستوری اور بین الاقوامی قانون سے تعلق رکھتے ہیں۔

دستوری قانون

دستوری قانون کی رو سے اسلام دنیا کو دو حصوں پر تقسیم کرتا ہے۔ ایک دارالاسلام۔ دوسرا دارالکفر۔ دارالاسلام وہ علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو اور اس حکومت میں اسلامی قانون بالفعل نافذ ہو، یا حکمرانوں میں اتنی قوت ہو کہ اس قانون کو نافذ کر سکیں۔ اس کے مقابلہ میں جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں اور اسلامی

لہ دارالاسلام کی یہ تعریف تھوڑی سی تشریح کی محتاج ہے۔ درحقیقت صحیح معنوں میں دارالاسلام صرف وہ علاقہ ہے جہاں اسلام بھیتیت ایک نظام زندگی کے حکمران ہو اور جہاں اسلامی قانون ملکی قانون کی جیتیت سے نافذ ہو۔ لیکن اگر کبھی ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ کسی طبق مقتدار حکومت ہو تو مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں مگر وہ اسلام کے بجائے کوئی اور نظام زندگی قائم کر دیں اور اسلامی قانون کے بجائے کوئی اور قانون نافذ کرنے لگیں، تو قبہائے اسلام ان سے مایوس ہو کر دفعہ اس طبق کے "دارالکفر" ہونے کا اعلان کر دینا مناسب نہیں سمجھتے بلکہ وہ اسے بالقوۃ "دارالاسلام" ہی قرار دیتے چلے جاتے ہیں (باقی حاشیہ ص ۳۰۰ پر)

قانون نافذ نہیں وہ دارالکفر ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے تمام وہ ممالک جن میں انگریزی حکومت ہے انگریزی علاقہ کھلا میں گے، اور جو علاقوںے ان حدود سے باہر

(لیقیر ماشیہ ۲۹۹ سے) جیسے تک کہ وہ مسلمان خود اسلام سے اپنا برائیتی نام تعلق بھی منقطع نہ کر لیں۔ فقہاء کا یہ محتاط طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کی کسی با اختیار حکومت کا اپنے اصول اور قوانین میں نامسلمان ہونا لامحالہ و وہی وجہ میں ہے کسی ایک ویر پر مبنی ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ ملک کے مسلمان باشندے تو بدستور اسلام ہی کے معتقد ہوں اور اسی کی پیروی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہوں مگر کسی نہ کسی سبب سے ایک گمراہ طبقہ نہ امام کا پر قابض ہو گیا ہو۔ دوسرے بکہ ملک کے باشندوں میں عام طور پر جہالت اور گمراہی پھیل گئی ہو اور ان کی اپنی پسند سے وہ ضال اور مضل طبقہ بر سر اقتدار آیا ہو جو غیر اسلامی طریقوں پر قوحی معاملات چلا رہا ہو پہلی صورت میں تو یہ ہیں متوقع ہے کہ عامہ مسلمین کا اسلامی شعور آخر کار بیدار ہو گا اور وہ اُس گروہ کے اقتدار کو اٹ پھینکیں گے جو اسلام کے گھر میں کفر کا کار و بار چلا رہا ہے۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس عارضی غلبہ کفر کو دیکھ کر مایوس ہو جائیں اور جلد بازی سے کام لے کر اس گھر کو خود ہی کفر کا گھر قرار دے مجھیں۔ یہی دوسری صورت تو وہ بلاشبہ مایوسی کا مقام ہے، لیکن جس قوم نے جہالت اور گمراہی کے باوجود ابھی تک اسلام سے اپنا تعلق نہیں توڑا ہے اور جو اس قدر بگڑ جانتے پر بھی اپنا ذہب ابھی تک اسلام ہی بتائی جا رہی ہے، اس کی طرف سے ہم بھی استثنے مایوس نہیں ہو سکتے کہ اصلی اور حقیقی اسلام کی طرف اس کی واپسی کی ساری امیدیں منقطع کر لیں۔ لہذا ہم اس کے گھر کو بھی دارالکفر نہیں کہیں کے بلکہ دارالاسلام ہی کہتے رہیں گے لیکن یہ ابھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ عمل اسلامی قانون کا تعلق صرف دارالاسلام سے ہے جو بالفعل دارالاسلام ہو۔ رہا وہ عالمی دارالاسلام، جس نے خود ہی اسلام سے اپنا قانونی تعلق توڑ رکھا ہو تو اسلام اس کے سیاسی نظام کو وہ دستوری حقوق دیتے کے لیے تیار نہیں ہے جو اس نے صرف ”اسلامی حکومت“ کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔

ہوں گے ان کو علاقہ غیر کہا جائے گا۔ اسلامی حکومت اسلام کے احکام کو صرف ان لوگوں پر نافذ کر سکتی ہے جو اس کے اپنے حدودِ عمل (Jurisdiction) میں رہتے ہوں۔ اسی طرح وہ صرف اُمنی اموال اور اعراض اور نفوس کی حفاظت کر سکتی ہے جو اس کے اپنے حدودِ اختیار یا علاقہ مقبوضہ (Territory) میں واقع ہوں۔ ان حدود کے باہر کسی چیز کی حفاظت کی وجہ ذمہ دار نہیں ہے۔

(Protected) اس قانون کے محافظ سے ہر وہ جان اور مال اور عرضت "معصوم" ہے جو دارالاسلام میں اسلامی حکومت کی حفاظت کے اندر واقع ہو، عام اس سے کوہ مسلمان کی ہو یا کافر کی۔ اور ہر وہ جان اور مال اور عرضت "غیر معصوم" (Non-protected) ہے جو دارالکفر میں ہو اور جس کی محافظ اسلامی حکومت نہ ہو، عام اس سے کوہ مسلمان کی ہو یا کافر کی غیر معصوم ہونے کا آئل صرف اس قدر ہے کہ اگر اس کی جان و مال یا عرضت پر کسی کا حملہ کیا جائے تو اسلامی حکومت اس پر کوئی موافقہ نہ کرے گی، کیونکہ یہ فعل اس کے حدودِ عمل سے باہر واقع ہوا ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ خدا کے نزدیک وہ فعل گناہ ہو یا نہ ہو اور خدا کے ہاں اس پر موافقہ ہو یا نہ ہو۔ پس کسی چیز کا غیر معصوم ہونا اس امر کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ مباح بھی ہے، نہ اس کی عدم عصمت کو اس معنی میں لیا جاسکتا ہے کہ اُس سے نقصان پہنچانا یا اس پر تبعید کر لینا احمد اللہ بھی جائز اور حلال ہے۔ اسی طرح دستوری قانون کے نقطہ نظر سے اگر کسی ایسے فعل کو جائز ٹھہرا�ا جائے جس کا ارتکاب دارالکفر میں کیا گیا ہو تو اس کا مفہوم صرف اس قدر ہو گا کہ اسلامی اسلامی حکومت کو اس سے کوئی تعریض نہیں، وہ اس پر کوئی سزا نہیں دے گی۔ لیکن اس کا یہ طلب نہیں ہے کہ اس فعل حرام پر خدا کے ہاں بھی کوئی گرفت نہ ہو گی۔

یہاں اعتقادی قانون اور دستوری قانون کے حدود الگ ہو جاتے ہیں۔ اعتقادی قانون جس مسلمان کو بھائی کہتا ہے اور جس کی جان و مال کو حرام ٹھہرا تا ہے وہ دستوری قانون کی نگاہ میں غیر معصوم ہے، اس لیے کہ وہ سلطنت اسلامی کے

حدود اختیار سے باہر رہتا ہے۔ اور جس کافر کو اعتقادی قانون دشمن قرار دیتا ہے دستوری قانون اسے معصوم ٹھہرا ستا ہے صرف اس بنا پر کہ وہ اسلامی سلطنت کی حفاظت میں آگیا ہے جس فعل کو اعتقادی قانون سخت گناہ اور جرم ٹھہرا تا ہے، دستوری قانون اس پر کوئی گرفت نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے حدود کے عمل سے باہر رہتا ہے۔ دونوں میں کھلاہٹ اُفرق یہ ہے کہ اعتقادی قانون کا تعلق آخرت سے ہے اور دستوری قانون کا تعلق صرف دنیا اور اس کے معاملات سے۔ لیکن امام ابوحنیفہؓ کے سواتمام فقہا نے کم و بیش ان دونوں میں غلط ملط کیا ہے اور وہ ان کے حدود میں پوری طرح تمیز نہیں کر سکے ہیں۔

چند مثالوں سے ہم اس پحیدہ مسئلہ کی توضیح کروں گے۔

(۱) فرض کیجیے کہ ایک مسلمان تاجر امان لے کر دارالحرب میں جاتا ہے اور وہاں سے کچھ مال چڑالاتا ہے۔ یہ فعل اعتقادی قانون اور بینالقوای قانون کی رو سے حرام ہے کیونکہ اس شخص نے عہد شکنی کی ہے۔ لیکن دستوری قانون اس شخص کو اس مال کا جائز مال قرار دیتا ہے اور اس سے کوئی بانہ پُرس نہیں کرتا۔

(ب) (باب المستامن)

(۲) فرض کیجیے کہ دارالاسلام کی رعایا کا ایک شخص دارالحرب میں قید تھا۔ وہ وہاں قید سے چھوٹ گیا یا اچھوڑ دیا گیا۔ اب وہ وہاں خواہ پوری کرے، اشراب پیئے، زنا کرے، سب کچھ دستوری قانون کی رو سے ناقابل موافق ہے (بحراۃ الرائق ج ۵ ص ۱۰۰) یعنی اسلامی حکومت اس پر نہ اس کا ہاتھ کاٹے گی، نہ حد نہ ناد و شراب جاری کرے گی نہ قصاص ہے گی۔ گرعتقادی قانون کی رو سے وہ خدا کے ہاں گناہگار ہو گا۔

فرض کیجیے کہ ایک شخص دارالحرب میں مسلمان ہو اور وہاں سے پیرت کر کے

دارالاسلام میں نہیں آیا۔ اعتقادی قانون کی رو سے وہ مسلمان کا بھائی ہو چکا ہے۔ اس کا خون اور مال حرام ہو چکا ہے۔ مگر دستوری قانون کی رو سے وہ پونکہ اسلامی سلطنت کے حدودِ عمل سے باہر ہے اس لیے اس کی کوئی چیز معصوم نہیں۔ اس کی جیشیت وہی ہو گی جو دشمن سلطنت کی رعایا کی ہے۔ اگر کوئی مسلمان دارالاسلام کے حدود سے باہر اس کو قتل کر دے تو اسلامی عدالت نہ اس پر قصاص لے گی نہ انہوں پر ادا کوئی گی۔ بطور خود دہ کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان اس سے مُود لے یا اس کے مال پر کسی دوسرے ناجائز طریقے سے قبضہ کر لے تو دستوری قانون کی رو سے یہ ناقابل گرفت ہے کیونکہ اس کا مال غیر معصوم ہے۔ اس باب میں فہرست کی تصریحات نہ ہیں۔

وَإِذَا شَكِمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ
 مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُ إِلَى دَارِ الْأَسْلَامِ خَطَاءً فَعَلَيْهِ
 الْكُفَّارُ وَلَا دِيَةٌ عَلَيْهِ وَفِي الْأِمْلَادِ عَنْ أَبِي حِنْفَةَ رَحِيمٍ
 اللَّهُ لِآتَهُ لَا كُفَّارَةَ عَلَيْهِ أَبْهَنَ لِأَنَّ وُجُوهَهَا يَا عَنْبَارِ
 تَقْوِيمِ الدَّامِ لَا يَبْعِثُهَا حُرْمَةُ الْقَتْلِ
 وَتَقْوِيمِ الدَّامِ يَكُونُ بِالْأَحْرَازِ بِدَارِ الْأَسْلَامِ

(شرح السیر الکبیر مطبوعہ دائرة المعارف ج ۱ ص ۸۸)

(دقیقہ حاشیہ میں ۴۰۰ سے) اور بدرا خلاقوں کا ارتکاب کرنے ان سے دارالاسلام کی حکومت اس ہات پر تو ضرور یا زیر پوس کر سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے روپ سے اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا سامان کیا، اور اس نبیاد پر بھی وہ ان سے موافذہ کر سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے غلط طرز عمل سے اپنی ریاست کے لیے بین الاقوامی معاملات میں انجمنیں پیدا کیں۔ لیکن ان پر نفس اس جرم مثلاً قتل یا پوری کے بارے میں کوئی مقدمہ نہیں چلا یا جائے گا جس کا ارتکاب انہوں نے دارالاسلام کے حدود سے باہر کیا ہو۔

اگر اہل حرب میں سے کوئی شخص مسلمان ہو چکا ہو اور قبل اس کے کہ وہ ہجرت کر کے دارالاسلام میں آئے، کسی مسلمان نے اسے بلا ارادہ قتل کر دیا تو اس پر کفارہ ہے مگر خون بہا واجب نہیں۔ اور ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں یہ مسئلہ منقول ہے کہ اس پر کفارہ بھی نہیں ہے کیونکہ کفارہ کا درجوب نہیں کے باقیت ہو جلتے کے اعتبار سے ہے نہ کہ حرمت قتل کے اعتبار سے..... اور نہیں صرف اس وقت باقیت ہوتا ہے جب کہ وہ دارالاسلام کی حفاظت میں آچکا ہو۔

وَلَمَّا شَدَّتِ الْمَأْفَادُ مُنَاهَةً لِرِقْبَةِ الْمَدِيمِ
فِي دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ إِلَيْنَا...
أَجْرَوْهُ أَصْحَابِنَا بِحَرْبِ الْحَرْبِ فِي إِشْقَاطِ الصَّمَانِ عَنْ مُتَلِّفِ
مَالِهِ... وَأَنْ يَكُونَ مَالُهُ كَمَالُ الْحَرْبِ مِنْ هَذَا
الْوَجْهِ وَلِذَلِكَ أَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ مُبَايِعَتَهُ الْحَرْبِ مِنْ
بَيْمِ الدِّارِ هُمْ بِالِدَارِ هُمْ بِيْنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ.

(أحكام القرآن الحنفی، ج ۲۶- ص ۲۹۷)

اور جب ہماری کچلی تقریر سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو شخص مسلمان ہو کر ہجرت کرے اور دارالحرب میں مقیم رہے اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں۔

لہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان کسی اسلامی حکومت کی حفاظت میں نہیں ہے بلکہ اس کے حدود اختیار سے باہر رہتا ہے اس کا خون بجا گئے خود خواہ لکھنی ہی بڑی قیمت رکھنا ہو، لیکن اسلامی حکومت کے ساتھ اس کی قانونی قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے کوئی گز نہ پہنچے تو اسلامی حکومت اس کی کوئی دادرسی نہیں کر سکتی۔ اسے کوئی قتل کر دے تو اسلامی حکومت پر اس کا قصاص یا خون بہادلو اسے کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس کے مال یا ابرو سے کوئی سبے بخاری حقیقتی حاشیہ جو بھی ہے

.... تو اسی بنابرہ ہمارے اصحاب رحمۃ الرحمہنے اپنے مسلمان کی جیشیت حربی ہی کی قرار دی ہے یعنی اس کے مال کو تلف کرنے والے پر کوئی ضمان نہیں..... اس جیشیت سے اس کا مال گویا حری کامل ہے اور اس بنابرہ ابو حنیفہ نے اس کے ساتھ بھی اسی طرح خرید و فروخت کرنا جائز ٹھہرایا ہے جس طرح حربی کے ساتھ جائز ہے۔ یعنی دارالحرب میں ایک درہم کو دو درہم کے عوض بچنا۔

وقال الحسن بن صالح اذا اسلم الحربي فاقام ببلادهم وهو يقاد على الخروج فليس ب المسلم يحكم على اهل الحرب في ماله ونفسه.
(احکام القرآن)

حسن بن صالح کا قول ہے کہ جب دارالحرب کا ایک باشندہ مسلمان ہوتے کے بعد دارالحرب ہی میں رہا۔ در آنکھا ایک وہ ہجرت کی قدرت رکھتا تھا تو اس کی جیشیت مسلمان کی شہیں۔ اسی کی جائی مال کا

(لیقیہ عاشیہ صفحہ ۲۰۷ سے) تعریض کرے تو اسلامی حکومت پر یہ فرض عامد نہیں ہوتا کہ وہ اس ظلم کا تکارک کرے۔ مگر یہ سب کچھ قانونی جیشیت سے ہے۔ ورنہ اعتقادی طور پر تو مسلمان کی جان مال اور اُب و مسلمانوں کے لیے دنیا جہان سے زیادہ قیمتی ہے اور دارالاسلام کے مسلمانوں کی دینی ہمیت کا تقاضا ہے کہ وہ دارالکفر کے مسلمانوں کی جتنی اخلاقی مدد کر سکتے ہیں۔

لہ موجودہ زمانہ میں اس حکم کے لیے "ہجرت کی قدرت رکھنے" کے ساتھ ایک شرط اور بھی لگائی ہوگی، اور وہ یہ کہ دارالاسلام نے جما جریں کے لیے اپنے دروازے کھول دکھے ہوں اور اسلامی حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہو کہ مطلقاً دارالحرب اور دارالکفر کے، یا کسی خاص دارالحرب اور دارالکفر کے مسلمان اس کی طرف سمت ہیں۔ اس صورت میں جو لوگ قدرت کے باوجود ہجرت نہ کر سکے ان کے ساتھ دارالاسلام کے مسلمان ہر جیشیت سے وہی معاملہ کر سکے جو اس دارالکفر یا دارالحرب کے دوسرے باشندوں کے ساتھ ہو گا۔ (باقی صفحہ ۶ پر)

وہی حکم ہے جو اہل حرب کی جان و مال کا ہے

وَإِذَا أَسْلَمَ الْخَرْبِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَتَلَهُ مُسْلِمٌ
عَمَدًا أَوْ خَطَأً وَكُلَّهُ دَرَشَةٌ مُسْلِمُونَ هُنَاكَ فَلَا شَيْءٌ عَلَيْهِ
إِلَّا الْكُفَّارَةُ فِي الْخَطَاءِ۔

رہنمائیہ کتاب السیر

جب کوئی حربی دار الحرب میں مسلمان ہو چکا ہو اور کوئی مسلمان اسے
حمد़اً یا خطأً قتل کر دے اور اس کے مسلمان و رشاد بھی دار الحرب میں موجود
ہوں تو اس پر کوئی قصاص یا دیت نہیں ہے۔ خطأ کی صورت میں محض
کفارہ ادا کر دے۔

وَحُكْمُهُ مَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُ مِنْهَا جَرَأَ كَاذِبَ الْحَرْبِ
عَشْدَابِيْ حَنِيفَةَ لَا نَمَالَهُ غَيْرَ مَغْصُومٍ عِنْدَهُ۔

(بحر الرائق ج ۵ ص ۱۲۷)

اور جو شخص دار الحرب میں مسلمان ہو اور ہجرت نہ کرے اس کی

والقبیہ حاشیہ ص ۲۳۴ سے) اور جو لوگ صریح طور پر ہجرت سے معذور ہوں گے اگرچہ دستوری حیثیت
سے ان کے حقوق کچھ بھی نہیں ہیں، تاہم ان کے ساتھ بالکل غیر مسلم کا سامنا ملنے نہیں کیا جائے گا
 بلکہ فوج کے سپاہیوں اور دوسرے مسلمانوں کو ہدایات دے دی جائیں گی کہ جنگ میں ان کو پہنانے
کی جس حد تک کوشش ممکن ہو کریں، اور حالت صلح میں بھی ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فوجی د
رعایت کا برنا ڈکرتے رہیں۔ لیکن جب کہ دارالاسلام کی حکومت کی طرف سے باہر کے مسلمانوں کے
لیے نہ تو ہجرت کی دعوت ہو اور نہ اس نے ان کی آمد کے لیے اپنادر واڑہ کھلا رکھا ہو، تو اس
صورت حال میں بیرونی مسلمانوں پر حسن بن صالح کا یہ قول چسپاں نہیں ہوتا کہ ان میں سے جو ہجرت
کی قدرست رکھتا ہو اور ہجرت نہ کرے۔ اس کی حیثیت مسلمان کو نہیں ہے۔ البته دستوری قانون کا یہ
اصول بہر حال اپنی جگہ اٹل ہے کہ جو مسلمان دارالاسلام کی دعا یا نہ ہوں اور اس کے حدود اقتدار سے باہر
ہوں ان کی جان، مال اور آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری دارالاسلام کی حکومت پر نہیں ہے۔

جیشیت ابوحنیفہ رح کے نزدیک حربی کی ہے کیوں کہ اس کا مال ان کی راستے میں غیر معصوم ہے۔

(۳) فرض کرو کہ ایک مسلمان امان سے کردار الحرب میں گیا اور وہاں اس نے کسی حربی سے قرض لیا یا اس کا مال غصب کر لیا۔ پھر وہ دارالاسلام واپس آگئا اور وہ حربی بھی دارالاسلام میں امان سے کر آیا۔ یہاں وہ حربی مستامن اس قرض یا اس مال مخصوص ہر کے لیے دارالاسلام کی عدالت میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اسلامی عدالت اس کو ایک پیسہ واپس تردلاستے گی۔ اسی طرح اگر دارالحرب میں میں حربی نے مسلمان کا قرض مار لیا ہو اس کا مال غصب کر لیا ہو، پھر وہ حربی امان سے کردارالاسلام میں آئتے ثبیت بھی اسلامی عدالت اس حربی کے خلاف اس مسلمان کی کوئی دادرسی نہ کر سکے گی۔ — (المجامع الصغیر لامام محمد علی بامش کتاب الخراج الام ابی یوسف ص ۵۵)

(۴) اگر باپ دارالاسلام میں ہو اور اس کی نابالغ اولاد دارالحرب میں ہو تو اس اولاد پر سے باپ کی ولایت ساقط ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر مال کا مالک دارالاسلام میں ہو اور مال دارالحرب میں ہو تو مالک کی جانب معصوم ہو گی مگر مال معصوم نہ ہو گا۔ (فتح القدير ج ۳۔ ص ۳۵۵)

(۵) دارالاسلام کی رعایا میں سے دو مسلمان امان سے کردار الحرب میں چلے گئے اور وہاں ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اگر قاتل دارالاسلام میں واپس آئے تو اس سے قصاص نہ لیا جائے گا۔ صاحب ہدایہ نے اس کی جو وہہ بیان کی ہے وہ قابل غور ہے۔

وَإِنَّمَا الْأَبِيَّ حِبُّ الْقَصَاصُ لِأَمْتَهِ لَا يُمُكِّنُ إِسْتِيْفَاءُهُ
الْأَمْتُهُ لَا مُنْعِنَهُ دُونَ الْأَمْمَامِ وَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُ
يُوجَدْ ذَلِكُ فِي دَارِ الْحَرْبِ۔ (هدایہ۔ کتاب السیر)

اس پر قصاص اس لیے واجب نہیں کہ قصاص بغير حفاظت

(Protection) کے واجب نہیں آئتا اور حفاظت بغیر امام اور جماعت

مسلمین کے نہیں ہوتی۔ اور یہ چیز دار الحرب میں موجود نہیں ہے۔

(۲) دار الاسلام کی رعایا میں سے دو مسلمان دار الحرب میں قید تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ یا کوئی مسلمان امان لئے کر دار الحرب گیا اور وہاں اس نے کسی مسلمان اسپر کو قتل کر دیا۔ دونوں صورتوں میں قائل پر نہ قصاص ہے بلکہ خون بہا۔ علامہ ابن ہبام نے اس کی بحوث شریح کی ہے وہ اور بھی زیادہ معنی خیز ہے۔ فرماتے ہیں:-

فَلَا شَيْءٌ عَلَى الْقَاتِلِ مِنْ أَخْكَامِ السُّدُنْيَا إِلَّا الْكُفَارَةِ فِي
الْخَطَايَا عِنْدَ أَبِي حَيْنَةَ وَأَنَّهَا عَلَيْهِ عِقَابُ الْآخِرَةِ فِي
الْعُمَدِ... لَوْلَاهُ صَارَ بِالْأَسْرِ بَعْدَ الْهُمَّ... وَصَارَ
كَالْمُسْلِمِ الَّذِي لَمْ يُهَاجِرْ إِلَيْنَا فِي مَقْوِطِ عَصْمَتِهِ الدُّنْيَا.

فتح القدير (۲۲ ص ۷۵)

ابوحنیفہ کے نزدیک قائل پر احکام دنیا میں سے کچھ نہیں بجز اس کے کروہ خطا کی صورت میں کفارہ ادا کر دے۔ رہا قتل عمد رتو اس پر کفارہ بھی نہیں، البتہ آخرت کا عذاب ہے۔۔۔ قصاص اور دیت کے ساقط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قید ہونے کی وجہ سے وہ اہل حرب کا تابع ہو گیا۔۔۔ اور اس کی چیختیت اس مسلمان کی سی ہو گئی جس نے ہماری طرف ہجرت نہ کی ہو، اور اس چیختیت سے اس کی دنیوی عصمت ساقط ہو گئی۔

دیکھیے ان مثالوں میں اعتقادی قانون اور دستوری قانون کا فرق کس قدر نہیں ہے۔ اعتقادی قانون مسلمانوں کو ایک قوم اور کفار کو دوسری قوم قرار دیتا ہے اور اس کا اقتضاء یہ ہے کہ مسلمان کی جان، مال اور عزت کو کافر کی جان و مال اور عزت پر ترجیح دی جائے۔ لیکن دستوری قانون اس غالمگیر تقسیم کے بجائے اپنے حدود عمل (Territorial Limits) کو حدود دارضی (Territorial Limits) تک محدود کرتا ہے سلطنت اسلامیہ کے حدود میں جو جان ہے، جو مال ہے، جو شے مہے وہ "معصوم" ہے،

خواہ وہ مسلمان کی ہو یا سماں کافر کی، کیونکہ سلطنت کا قانون اس کی حفاظت کا ذمہ لے چکا ہے۔ اور ان حدود کے باہر تو چیز ہے ”غیر معصوم“ ہے، خواہ وہ مسلم کی ہو یا کافر کی۔ اسلامی حدود کے اندر کوئی چوری کرے گا تو ہم ہاتھ کاٹیں گے، قتل کرے گا تو ہم قصاص یا دیت وصول کریں گے، ناجائز ذرائع سے مال لے گا تو وہ اپنے دلائیں گے۔ اور ان حدود کے باہر کوئی مسلمان یا ذمی ایسا فعل کرے جو ہمارے قانون کی رو سے جرم ہو تو ہم نہ علاقہ غیر میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں نہ اپنے علاقہ میں واپس آنے کے بعد اس لیے کہ فعل ان حدود میں ہوا ہے جہاں قیامِ امن اور حفاظتِ بیان و مال کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہے دنیوی چیزیں سے ہے۔ حدود اسلامی سے باہر جو گناہ کیا جائے گا وہ دنیوی حکومت کے حدود عمل سے باہر ہونے کے باعث صرف دنیوی موافقہ سے چھوٹ جائے گا۔ البته اللہ کے موافقہ سے نہ چھوٹے گا، کیونکہ اللہ کی عملِ داری حدودِ رضی سے نہ آتا۔

(Ultra territorial) ہے، اس نے جو کچھ حرام ٹھہرایا ہے وہ ہر جگہ حرام ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کامن گھر طرت قانونی نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث سے مانو ہے۔ وہی قرآن جو ایک طرف فیان اقْامُوا الْحَسْلَوَةَ وَ اتُّوَالُرْزَكُواً فیا خَوَاشِكَمْ فِي الْأَقْيَانِ اور مَنْ يَقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَجِّبٌ أَفَجَزَ أَهْدَى جَهَنَّمَ خَالِدًا أَفِيهَا كہتا ہے، دوسری طرف وہی قرآن حدود اسلامی کے اندر رہنے والے مسلمان اور علاقہ غیر میں رہنے والے مسلمان کے خون میں فرق بھی کرتا ہے۔ اول الذکر کو دانتہ قتل کرنے والے پر کفارہ بھی ہے اور دیت بھی — اور موثر الذکر کے قاتل پر صرف کفارہ ہے۔

لَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيَثَاقٌ لَهُ سَبَبَ بِهِ مَرَادٌ ہے کہ اگر علاقہ غیر میں رہنے والے مسلمان کسی ایسی قوم سے ہو جس سے خون بھاکے باب میں مسلمان کا معافہ ہو چکا ہو تو جس طرح اس قوم کے ایک غیر مسلم فرد کا خون بھاڈیا جائے گا اسی طرح اس کے ایک مسلمان فرد کا بھی دیا جائیگا۔ پس یہ خون بھا معاہدہ کی بنابر ہے نہ کہ مخصوص اسلامی کی بناء پر (طلاحظہ ہو سورہ نساء مکوئ ۱۲)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُسامہ بن زید کو ایک سریہ کا افسر بنائے کر حرقات کی طرف بھیجنے ہیں۔ وہاں ایک شخص لا الہ الا اللہ کہہ کر جان بچانا چاہتا ہے۔ مگر مسلمان اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضور مسیح کو اس کی اطلاع ہوتی ہے تو اُسامہ کو بلا کر آپ بار بار فرماتے ہیں ”من لاث بلا اللہ الا اللہ یوم القيمة“، ”قیامت کے روز تجھے لا الہ الا اللہ کے مقابلہ میں کون بچائے گا؟“ مگر اس مقتول کی دیت ادا کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ ایسے ہی ایک دوسرے موقع پر حدود اسلامی سے باہر رہنے والے چند مسلمان مارے جلتے ہیں تو حضور مسیح فرماتے ہیں ”انتا برئٰ“ من کل مسلم یقین بین اظہر المشرکین؟“ یہی ہر ایسے مسلمان کی حفاظت سے بری الذمہ ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہوئے، ”خود قرآن میں بھی ایسے مسلمان کی ذمہ داری سے برآست کا اظہار کیا گیا ہے:-

وَالَّذِينَ أَمْتُوا ذَلِكَ مُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا
مِنْ شَيْءٍ وَحْتىٰ يُهَاجِرُوا۔ (الانفال - ۴۲)

اور جو لوگ ایمان تو لے آئے مگر بھرت کر کے (دارالاسلام میں) نہ آگئے ان سے تمہارا ”ولایت“ کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک وہ بھرت کر کے نہ آ جائیں۔

لہابوداود، باب علی، یقائل المشرکین۔

لہابوداود کتاب الجہاد، باب مذکورہ اس دوسرے واقعہ میں حضور مسیح مقتولوں کی نصف دیت دوائی تھی۔ اغلب ہے کہ آپ کا یہ فعل اُس آیت کے نزول سے پہلے کا ہو گا جس میں ایسے مقتول کی دیت ساقط کی گئی ہے۔

تھی یہ آیت اسلام کے دستوری قانون کی نہایت اہم دفعات میں سے ہے۔ اس میں یہ اصول مقرر کیا گیا ہے کہ ”ولایت“ کے تعلقات صرف ان مسلمانوں کے درمیان ہوں گے جو دارالاسلام کے باشندے ہوں جو باہر سے دارالاسلام میں بھرت کر کے (باقي حاشیہ ص ۳۴)

اس طرح قرآن اور حدیث نے خود ہی دنیوی عصمت کو دینی عصمت سے
اگلے کر دیا ہے اور دلوں کے حدود بتا دیئے ہیں۔ تمام فقهائے اسلام میں
صرف امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہی ایسے فقیہ ہیں جنہوں نے اس نازک اور
پیغمبرؐ کا قانونی مسئلہ کو تھیک سمجھا ہے۔ امام ابو یوسف، امام محمد امام مالک،
امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جیسے جلیل القدر مجتہدین بھی ان دلوں قسم کی
عصموں میں پوری پوری تمیز نہیں کر سکے۔ چنانچہ مثال کے طور پر اگر دارالکفر میں
اسلامی رعایا کا ایک فرد دوسرے کو قتل کر دے تو یہ سب حضرات بالاتفاق فرماتے
ہیں کہ قاتل سے قصاص لیا جائے گا کیونکہ اس نے ایک شخص کو قتل کیا جو "معصوم
بالاسلام" تھا۔ پس جب استثنے برٹے سے برٹے سے آئہ اس مسئلہ میں مختلف ہو گئے ہیں تو کچھ

و تقبیہ سفرہ ۱۴ سے) آجاتیں۔ باقی رہے وہ مسلمان جو دارالاسلام سے باہر رہتے ہوں، یا دارالاسلام
میں آئیں جیسی توجہ تکر کے نہ آئیں بلکہ دارالکفر کی رعایا ہونے کی جیشیت سے آئیں، تو ان کے
اور اہل دارالاسلام کے درمیان عدم ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ "ولایت" کا الفاظ عربی زبان
میں حمایت، نصرت، امدادگاری پشتیبانی، دوستی، اقربت، صبر، رستی اور اس سے متعلقہ مفہوم تما
ببر بولا جاتا ہے اور اس آیت کے سیاق و سبق میں صریح طور پر اس سے مراد وہ رشتہ ہے جو ایک
ریاست کا اپنے شہریوں سے اور شہریوں کا اپنی ریاست سے اور خود شہریوں کا آپس میں
بپ دوسرے سے ہوتا ہے۔ پس یہ آیت دارالاسلام سے باہر کے مسلمانوں کو دینی انوت کے باوجود
اس سیاسی و تمدنی رشتہ سے خارج کر دیتی ہے، اور اس سے وسیع قانونی نتائج نکلتے ہیں جن
کی تفصیلات فقہ کی مبسوط کتابوں میں موجود ہیں۔ مثلاً اسی "عدم ولایت" کا نتیجہ ہے کہ دارالاسلام
اور دارالکفر کے مسلمان آپس میں شادی بیان نہیں کر سکتے۔ ایک دوسرے کے وارث نہیں
ہو سکتے۔ ایک دوسرے کے قانونی ولی (Guardian) نہیں بن سکتے۔ اسلامی حکومت
کسی ذمہ داری کے منصب پر کسی ایسے مسلمان کو مامور نہیں کر سکتی جس نے رعیت ہونے کا
تعلق دارالکفر سے نہ توڑا ہو۔

لہ لاحظہ ہوا الجامع الصغیر اور فتاویٰ قاضی خاں۔

بعید نہیں کہ فقہ حنفی کے متاخر شارحین کو بھی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی بات سمجھنے میں بھی خلط پیش آیا ہو۔

دارالحرب اور دارالکفر کا اصطلاحی فرق

امام اعظم کے متعلق ہم کو تحقیق ہے کہ اوپر جتنے مسائل بیان ہوئے ہیں ان میں اور اسی قبیل کے دوسرے مسائل میں انہوں نے دارالحرب کے بجائے "دارالکفر" کی اصطلاح استعمال کی تھی، ایکونکہ درستوری قانون کے نقطۂ نظر سے دارالاسلام کا مقابل دارالکفر بمعنی علاقۂ غیر (Foreign territory) ہی ہو سکتا ہے، حرب اور غیر حرب کا اس میں کوئی دخل نہیں جو حمالک اسلامی سلطنت سے صلح رکھتے ہوں وہ بھی دارالکفر ہیں۔ اور ان سے بھی وہ سب احکام متعلق ہیں جو اوپر بیان ہوئے۔ لیکن چونکہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں جتنے دارالکفر اسلامی سلطنت سے متصل تھے وہ عموماً دارالحرب ہی میں رہتے تھے، اس لیے بعد کے فقہاء نے دارالکفر کو بالکل دارالحرب کا ہم معنی سمجھ دیا اور ان دونوں اصطلاحوں کے بارے کے باہر یہ قانونی فرق کو نظر انداز کرے گئے۔ اسی طرح امام ابوحنیفہ رحم کے کلام میں ہم کو کسی چکر کو ایسا لفظ نہیں ملا جو اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ وہ "غیر معصوم" کو "مباح" کے معنی میں لیتے ہیں۔ وہ حدود اسلام سے باہر کی اشیاء کو دغیر مخصوص کہتے پر اتفاق کرتے ہیں، اور ایسی اشیاء پر دست درازی کرنے والے کے لیے صرف اتنا کہتے ہیں لاشی علیہ۔ یا لم یقعن علیہ وغیره۔ یعنی اس پر کوئی گرفت نہیں، یا اس کے خلاف کوئی عدالتی فیصلہ صادر نہ کیا جائے گا۔ لیکن بعد کے فقہاء نے اگر مقاتات پر "عدم عصمت" اور "اباحت" کو خلط لٹک کر دیا جس سے یہ خلط فہمی ہوتی ہے کہ حدود اسلامی سے باہر جتنے منوع انعام لیکے جائیں ان پر جس طرح حکومت اسلامی باز پرس نہیں کرے گی اسی طرح خدا بھی باز پرس نہیں کرے گا۔ حالانکہ یہ دونوں چیزوں بالکل الگ الگ ہیں۔ آپ ہندوستان میں کسی کامل چڑا لیجیے۔ ظاہر ہے کہ افغانستان کی عدالت میں آپ پر مقدمہ نہ چلا دیا جائے گا۔ دارالاسلام کے

قانون کی رو سے آپ بڑی الذمہ ہیں۔ مگر اس کے یہ معنی کب ہیں کہ خدا کی عدالت سے بھی آپ پہ چھوٹ گئے۔

اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتب فقہ میں دارالحرب کے اندر سودا اور قمار اور دوسرے عقود فاسدہ کی اباحت کا جو مسئلہ اس بنابر لکھا گیا ہے کہ حربی کے لیے کوئی "عصمت" (Protection) نہیں تو اس کے دو پہلو ہیں:-

ایک یہ کہ دارالحرب سے مراد مخصوص "علاقہ غیر" ہو۔ اس لحاظ سے یہ مسئلہ دستوری قانون سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی نوعیت یہ ہے کہ "حربی" یعنی رعیت غیر کے مال کی حفاظت کا ذمہ پونکہ ہم نے نہیں لیا ہے اس لیے ہمارے حدود و عمل سے باہر ہماری سلطنت کا کوئی شہری اگر اس سے سودا کرے کریا جو اکھیل کریا کسی اور ناجائز ذریعہ سے مال لے کر ہمارے علاقہ میں آجائے تو ہم اس پر کوئی مقدمہ قائم نہ کریں گے، قطع نظر اس سے کہ دین و اعتقاد کے نقطہ نظر سے وہ مجرم ہو یا نہ ہو۔

دوسرا پہلو یہ ہے کہ دارالحرب سے مراد وہ ملک لیا جائے جس سے بالفعل ہماری جنگ برپا ہو یعنی (Enemy Country) اس لحاظ سے یہ مسئلہ تعلقات خارجیہ کے قانون سے تعلق رکھتا ہے جس کو ہم آگے بیان کرتے ہیں۔

تعلقات خارجیہ کا قانون

اسلامی قانون کا یہ شعبہ اُن لوگوں کے جان و مال کی قانونی چیزیات سے بحث کرتا ہے جو اسلامی حکومت کے حدود سے باہر رہتے ہوں۔ اس کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے چند امور کی توضیح ضروری ہے۔

فقہی اصطلاح میں لفظ "دار" قریب قریب انہی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے جن میں انگریزی لفظ (Territory) بولا جاتا ہے۔ جن حدود ارضی میں مسلمانوں کو حقوق شاہی حاصل ہوں وہ "دارالاسلام" ہیں، اور جو علاقہ ان حدود سے خارج ہو وہ "دارالکفر" یا دارالحرب ہے۔ تعلقات خارجیہ کا قانون تمام ان راہی مسائل سے بحث کرتا ہے جو اس ارضی تفرقی یا اختلاف دارین سے نفووس اور موال کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں۔

جبیبا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں اعتقدادی جمیعت سے تو تمام مسلمان اسلامی قومیت کے افراد (National) ہیں۔ لیکن اس شعبۂ قانون کی اغراض کے لیے ان کو تین اقسام پر منقسم کیا گیا ہے۔ ایک وہ جو دارالاسلام کی رعایا (Citizens) ہوں۔ دوسرے وہ جو دارالکفر یا دارالحرب کی رعایا ہوں، تیسرا وہ جو رعا یا تو دارالاسلام ہی کی ہوں بلکہ مستامن کی جمیعت سے عارضی طور پر دارالکفر یا دارالحرب میں جائیں اور مقیم ہوں۔ ان سب کے حقوق اور واجبات الگ الگ منعین کیے گئے ہیں۔

اس کے مقابلہ میں کفار اگرچہ سب کے سب اعتقداد اسلامی قومیت سے خارج ہیں، مگر قانون ان کو بھی ان کے حالات کے لحاظ سے متعدد اقسام پر منقسم کیا گیا ہے ایک وہ پیدائشی ذقی (Natural Born subjects) ہوں یا ونیع جو زیور اخراج کے ذریعہ سے جن کو ذقی بنالیا گیا ہو (Naturalised subjects)، دوسرے وہ جو دارالاسلام کی رعایا نہ ہوں، بلکہ مستامن کی جمیعت دارالاسلام میں آئیں اور سڑیں (Domiciled Aliens)۔ تیسرا وہ جو دارالکفر یا دارالحرب کی رعایا ہوں اور امان کے بغیر دارالاسلام میں داخل ہو جائیں۔ پوتھے وہ جو اپنے ہی دار میں ہوں۔ پھر اس آخری قسم کے کفار کی بھی متعدد اقسام ہیں ایک وہ جن سے اسلامی حکومت کا معاهده نہ ہو بلکہ دشمنی بھی نہ ہو۔ دوسرے وہ جو اسلامی حکومت کو خراج دیتے ہیں مگر ان کی حدود میں احکام اسلامی جاری نہ ہوں تیسرا وہ جن سے کوئی معاهده نہ ہو بلکہ دشمنی بھی نہ ہو پوتھے وہ جن سے مسلمانوں کی دشمنی ہو۔

اس طرح حدود ارضی یعنی دار (Territory) کے لحاظ سے اشخاص اور املاک کی جیشیات میں جو فرق ہوتا ہے اور اس فرق کے لحاظ سے ان کے درمیان احکام میں جو تمیز کی جاتی ہے اس کو تدقیق کھانا قانون اسلامی کی صحیح تعبیر کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جبکہ جو اس فرق اور امتیازات کا لحاظ کیے بغیر محض قانونی عبارت کے الفاظ کی پیروی کی جائے گی تو صرف ایک ٹوڈ کے مسئلہ ہی میں نہیں بلکہ بکثرت

فقہی مسائل میں ایسی غلطیاں پیش آئیں گی جن سے قانون منع ہو جائے گا اور اپنے مقاصد کے خلاف استعمال کیا جانے لگے گا۔

ان ضروری توصیحات کے بعد ہم ان سوالات کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ دارالحرب کا اطلاق دراصل کتنے علاقوں پر ہوتا ہے، کن مرتبہ کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر مرتبہ کے حکام کیا ہیں، حریتیت کے کتنے مدارج ہیں اور ہر درجہ کے لحاظ سے ابادیت نفوس و اموال کی نوعیت کس طرح بدلتی ہے۔ پھر اختلاف دارین کے لحاظ سے خود مسلمان کی حیثیات میں کیا فرق ہوتا ہے اور ہر حیثیت سے ان کے حقوق و واجبات کس طرح بدلتے ہیں۔

کفار کی اقسام

کفار کی بواقسام ہم نے اپر بیان کی ہیں ان میں سے اہل ذمہ کے متعلق تو شخص جانتا ہے کہ بجز خمر و خنزیر اور نکاح محارم اور عبادت خیراللہ کے اور تمام معاملات میں ان کی حیثیت وہی ہے جو مسلمانوں کی ہے۔ اسلام کے ملکی قوانین ان پر جاری ہوتے ہیں، وہ ان سب چیزوں سے روکے جاتے ہیں جن سے مسلمان روکے جاتے ہیں، اور ان کو عصمتِ جان و مال و آبرو کے وہ تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں متناہی کافروں کا معاملہ بھی ذمبوں سے مختلف نہیں ہے، کیونکہ ان پر بھی اسلامی حکومت کے احکام نافذ ہوتے ہیں اور دالاسلام ہوتے کی وجہ سے ان کو بھی عصمتِ جان و مال حاصل ہوتی ہے۔ ان کو الگ کرنے کے بعد اب ہمیں صرف ان کفار کے حالات پر نظر ڈالنی چاہیے جو دارالکفر میں مقیم ہوں۔

۱۔ پارچ گذار

وہ کفار جو اسلامی حکومت کو خراج دیتے ہوں اور جن کو اپنے ملک میں احکام کفر جاری کرنے کی آزادی حاصل ہو۔ ان کا ملک اگرچہ دارالکفر ہے مگر دارالحرب نہیں۔ اس لیے کہ جب مسلمانوں نے ادائی خراج پر انہیں امان دے دی تو حریت مرتضیٰ ہو گئی۔ قرآن میں آیا ہے کہ قَاتَلُوكُمْ فَلَمَّا يُقَاتَلُوكُمْ أَلْقَوْا يَدِكُمْ

السَّلَامُ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا رَأَى النَّاسُ : ۹۰) یعنی «اگر وہ جنگ سے
بانہ آ جائیں اور صلح پیش کر دیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست در رازی کی سبیل
نہیں رکھی ہے اسی بنابرہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ ان کے اموال اور نفوس اور اعراض
سے تعرض نہیں کیا جاسکتا۔

وَإِنْ وَقَعَ الْفَسْلُمُ عَلَىٰ أَنْ يُؤْدِدُ إِلَيْهِمْ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةٍ
دَأْسٌ فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمِائَةُ السَّرَّاسٌ يُؤْدِدُهُمْ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةٍ
وَأُولَادُهُمْ لَمْ يَصُلُّمُوهُمْ هَذَا إِلَّا نَصْلُمُ وَقَعَ عَلَىٰ جَمَاعِهِمْ
فَهَكَانُوا جَمِيعًا مُسْتَأْمِنُونَ وَاسْتَرْقَاقُ الْمُسْتَأْمِنِينَ
لَا يَجُودُ. (المبسوط للإمام السرخسي ج ۱۰۰ ص ۸۸)

اور اگر ان سے اس بات پر صلح ہوئی ہو کہ وہ ہر سال سو غلام دیں
گے تو یہ سو غلام اگر خود انہی کی جماعت بیں سے ہوں یا ان کی اولاد
ہوں تو ان کا لینا درست نہ ہوگا۔ کیونکہ صلح کا اطلاق ان کی پوری جماعت
پر ہوا ہے اور وہ سب مستامن ہیں اور مستامن کو غلام بنانا جائز نہیں۔
وَلَوْ دَخَلَ مِنْهُمْ دَارَ حَرْبٍ إِخْرَى فَظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ
عَلَيْهِمْ لَهُمْ تَبَغْرِبُوا لَهُمْ فِي إِمَانِ الْمُسْلِمِينَ۔

(ایضاً ص ۸۹)

اگر ان میں سے کوئی شخص کسی دوسرے دارالحرب میں مقیم ہو
اور اسلامی قومیں اس ملک میں داخل ہوں تو اس سے کوئی تعرض نہیں
جائے گا کیونکہ وہ مسلمانوں کی امان میں ہے۔

وَإِنْ كَانَ الْمُدَّمِنُونَ سُبُّوْهُمْ قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَدَارُوا
بِأَهْلِ الْمَوَادِحَةِ لَهُمْ يَسِّمُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَشْتَرُوا أُمُّاً ذِيَّتٍ
الْبَيْعُ لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي إِمَانِ الْمُسْلِمِينَ۔ (ایضاً ص ۹۷)
اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت ان کے ساتھ غدر کر کے ان کے

آدمیوں کو غلام بنانے تو مسلمانوں کے لیے ان غلاموں کا خریدنا جائز نہ ہوگا اور اگر انہوں نے خرید لیا تو اس بیع کو رد کر دیا جائے گا۔ کیونکہ وہ مسلمانوں کی امانتی میں نہ ہے۔

اس قسم کے کفار اگرچہ نظری حیثیت سے اہل حرب ضرور رہتے ہیں لاتھم بہذہ المواد عۃ لا یلتزمون احکام الاسلام ولا یخرجون من ان یکوتوا اهل حرب ہی۔ (المبسوط ج۔ ۱ ص ۸۸) لیکن ان کے اموال مباح نہیں اور ان کے ساتھ عقود فاسدہ پر کوئی معاملہ نہیں کیا جاسکتا، خواہ وہ سود فوارہ کیوں نہ ہوں۔ بلکہ اگر وہ اپنے داریں بھی نہ ہوں، کسی ایسے داری میں ہوں جہاں بالفعل جنگ ہو رہی ہو تو بھی مسلمانوں کے لیے ان سے عقود فاسدہ پر معاملہ کرنا جائز نہ ہوگا۔

۲۔ معاملہ مبنی

وہ کفار جن سے دارالاسلام کا معاملہ ہو۔ ان کے متعلق قرآن کی تصریحات حسب ذیل ہیں:-

إِلَّا أَنَّ الَّذِينَ عَاهَدُنَا سُهْلَ قَنَ الْمُشْرِكِينَ لَهُمْ يَنْهَا فَصُدُّ كُفَّارٍ
شَيْئًا وَ لَمْ يُنْظَأْ هُرُوفًا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَإِنَّمَا الْيَهُودُ عَاهَدُوا لَهُمْ
رَأْيَ الْمُسَافَرِ تِهْمَةً۔ (التوبہ: ۲)

مگر وہ مشرکین جن سے تم نے معاملہ کر لیا اور انہوں نے تمہارے ساتھ وفا شے عہد میں کمی بھی نہ کی اور ن تمہارے سے خلاف کسی کو مدد دی، تو ان کے ساتھ تم معاملہ کی مدت مقررہ تک عہد پورا کرو۔

فَمَا اسْتَقَامُوا إِنَّ كُلَّ فَاشْتَقِيمٌ وَ إِنَّهُمْ
(التوبہ: ۱)

پھر جب تک وہ عہد پر قائم رہیں تم بھی قائم رہو۔

لئے کیونکہ اس صلح و معاملہ سے وہ احکام اسلام کی پیروی کے پابند تو ہو نہیں جاتے اس لیے وہ اہل حرب ہونے سے خارج نہیں ہوتے۔

وَإِنْ أَشْتَهِرُ وَكُلُّمٍ فِي الْأَيَّامِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى
قُوَّةٍ بَيْتَكُمْ وَبَيْتَهُمْ مِنْ شَاقٍ۔ (الانفال: ۷۲)

اور جو مسلمان دارالکفر میں رہتے ہوں وہ اگر دین کے حق کی بنابر
تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرو گر کسی ایسی قوم کے خلاف ان کی مدد
نہ کرو جس سے تمہارا معاملہ ہو۔

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ أَبْيَثَ كُلُّهُ وَبَيْتُهُمْ مِنْ قِيمَاتٍ فَلَا يَهِيَّهُ
مُشَبَّهَةً بِأَيِّ أَهْلٍ لَهُ (النساء: ۹۲)

اور اگر مقتول کسی ایسی قوم سے ہو جس کے اور تمہارے درمیان
معاملہ ہو تو اس کے وارثوں کو دیت دی جائے گی۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ معاملہ کفار اگرچہ نظری حیثیت سے حرbi ہیں اور ان
کے لئے پردار الحرب کا اطلاق ہو سکتا ہے، مگر جب تک اسلامی حکومت نے ان سے
معاملہ نہ تعلقات قائم رکھے ہیں، وہ مبالغ الدم والاموال نہیں ہیں اور ان کی جان و
مال سے تعریض کرنا شرعاً منوع ہے۔ اگر کوئی مسلمان ان کا خون بہائے گا تو دیت لازم
آئے گی، اور اگر ان کے مال سے تعریض کرے گا تو ضمان دریبا ہو گا۔ پس جب ان کے
اموال مباح ہی نہیں ہیں تو ان کے ساتھ عقود فاسدہ پر معاملہ کیسے کیا جاسکتا ہے کیونکہ
اس کا لواز تو باحست ہی کی اصل پر مبنی ہے۔

۳۔ اہل غدر

وَكَفَارٌ بِوْ مَعَاهِدِهِ كَيْ كَيْ بَأْ وَجْدٌ مَعَانِدَهِ زَوْجَهِ اخْتِيَارَهِ كَيْ كَيْ
یہ ہے کہ:-

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خَيْرَاتَهُ فَإِنْبِذْهُ إِلَيْهِمْ
عَلَى سَوَاءٍ۔ (الانفال: ۵۸)

اور اگر تمہیں کسی قوم سے بد عهدی کا اندیشه ہو تو
برابری کو ملحوظ رکھ کر ان کا معاملہ ان کی طرف پھینک

شمس اللامہ سرخسی اس صورت مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

وَلَكُنْ يَتَبَعِّدُ إِنْ يَتَبَعِّدَا إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ أَيْ عَلَى سَوَاءٍ
مُنْكِمٌ وَمِنْهُمْ فِي الْعَلْمٍ بِذَالِكَ قَعَدُوا تَأْتِمَةً لَا يَعْلَمُ قَاتِلُهُمْ
قَبْلَ النَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِذَالِكَ۔ رالمبسوط ج-۸۰۔ ص ۷۸

(ایسی صورت میں معاهدہ کو توڑ دینا جائز ہے) مگر لازم ہے کہ
نقص معاهدہ بر ابرحی کے ساتھ ہو، یعنی تمہاری طرح ان کو بھی معلوم ہو
جائے کہ تم نے معاهدہ کو کا عدم قرار دے دیا ہے۔ اس حکم سے ہم
یہ سمجھتے ہیں کہ اعلان و اطلاع سے پہلے ان کے ساتھ جنگ کرنا
حلال نہیں ہے۔

یہ آیت اور اس کی مذکورہ بالاتفاقی تعبیر یہ ظاہر کردہ ہی ہے کہ معاهد قوم اگر
بد عہدی بھی کرے تو بھی اعلانِ جنگ سے پہلے اس کے نفوس و اموال مباح
نہیں ہیں۔

لہ یعنی علی الاعلان معاهدہ ختم ہونے کی اطلاع اپنی دے دو تا کہ اس علم میں تم اور وہ برابر
ہو جائیں کہ معاهدہ اب باتی نہیں ہے۔

لہ اس حکم سے صرف وہ حالت منشأ ہے جب کہ کسی معاهد قوم نے علانیہ اپنا معاهدہ توڑ دیا
ہو اور صریح طور پر ہمارے حقوق پر کوئی دست درازی یا ہمارے خلاف کوئی مخارباد
کارروائی کی ہو۔ ایسی حالت میں ہم کو حق پہنچتا ہے کہ ہم بھی اس کے خلاف بلا اطلاع جنگی کارروائی
کریں۔ فقہائے اسلام نے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے استشہاد کیا ہے کہ
قویش نے جب بنتی خزراحمد کے معاملہ میں صلح حدیثیہ کو علانیہ توڑ دیا تو اس نے پھر اپنیں فتح معاهدہ
کا نوش دیئے کی کوئی ضرورت نہ سمجھی بلکہ بلا اطلاع لگہ پر چڑھائی کر دی۔ لیکن اس اجازت سے
فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام حالات کو سامنے رکھیں (باقي صفحہ ۲۴ پر)

۷۔ غیر معاہدین

وہ کفار جن سے معاہدہ نہ ہو۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس کو ہمیشہ بین الاقوامی تعلقات میں جنگ کا پیش خیمه سمجھا جاتا ہے۔ سیاسی تعلقات کا انقطاع (Rupture of Diplomatic Relations) دراصل یہ معنی رکھتا ہے کہ دونوں قویں اب

جن میں حضور نے بند عہد کو ضروری سمجھا اور اس پورے طرز عمل کی پیروی کریں تو ایسی حالت میں آپ نے اختیار کیا۔

اولاً: قریش کی خلاف ورزی عہد ایسی صریح تھی جس کے نقص عہد ہونے میں کسی قسم کا التباس نہ تھا۔ خود قریش کے لوگ بھی اس کے معتبر تھے کہ فی الواقع ان سے بعد عہدی کا فعل سرزد ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابوسفیان کو تجدید عہد کے لیے مدینہ پہنچا، جس کے صاف معنی یہ تھے کہ ان کے نزدیک بھی عہد باقی نہیں رہا تھا۔ ناہم یہ بات ضروری نہیں ہے کہ خود ناقص عہد قوم کی طرف سے بھی نقص عہد کا اعتراض ہو، البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کا نقص عہد بالکل غیر مشتبہ ہو۔

ثانیاً: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے عہد ٹوٹ جانے کے بعد پھر اپنی طرف سے عہد ٹوٹ جانے کے بعد پھر اپنی طرف سے صراحةً باشارۃ یا کنایۃ کوئی ایسا فعل نہیں کیا جسے یہ ایمان نکلتا ہو کہ اس بعد عہدی کے باوجود آپ ابھی تک قریش کو ایک معاہدہ قوم سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے معاہدہ دروا بیطاب بھی قائم ہیں۔ تمام روایات بالاتفاق یہ بتاتی ہیں کہ جب ابوسفیان نے مدینہ آگر تجدید معاہدہ کی درخواست پیش کی تو آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔

ثالثاً: قریش کے خلاف جنگی کارروائی آپ نے خود کی اور کھلکھلا کی کسی ایسی فریب کاری کا شائیہ تک آپ کے طرز عمل میں نہیں پایا جاتا کہ آپ نے بنظامِ صلح و باطن جنگ کا کوئی طریقہ استعمال کیا ہو۔ یہ اس معاملہ میں حضور مکہ اسوہ ہے۔ ہذا قرآن مجید کے حکم فاتحہ اللہ علی سواد سے ہٹ کر اگر کوئی کارروائی کی جاسکتی ہے تو صرف ان حالات میں اور اس طرح کی جا سکتی ہے جن میں اور جس طرح حضور نے ایسی کارروائی کی۔

باہمی احترام کی قیود سے آزاد ہیں۔ ایسی حالت میں اگر ایک قوم دوسری قوم کے ادمیوں کو قتل کر دے یا لوٹ لے تو کوئی دیت یا ضمان واجب نہ ہو گا۔ اس معنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ دونوں قوموں کے لیے ایک دوسرے کے نفوس و اموال مبلغ ہیں۔ مگر کوئی ہدایت حکومت باتفاق دو قوموں کے بینک کیے بغیر کسی انسانی جماعت کا خون بہانا یا مال لوٹنا پسند نہیں کر سکتی۔ اسلامی قانون اس باب میں یہ ہے:-

وَكُوْقَاتُهُمْ بِقَيْرَدَعْوَةٍ كَانُوا إِثْمِينَ فِي ذَلِكَ
وَلَكُنْهُمْ لَا يُضْمِنُونَ شَيْئًا مِمَّا اتَّلَفُوا مِنَ الْمَدَّ مَاءً وَ
الْأَمْوَالِ عَنْهُمْ۔ (المبسوط ج-۱ ص-۳۰)

اگر مسلمانوں نے دعویٰ کے بغیر ان سے جنگ کی تو گناہ کار ہوں گے۔ لیکن ایسی جنگ میں ان کی جان و مال کا بوجو اتفاق وہ کریں گے اس میں سے کسی چیز کا ضمان حنفیہ کے نزدیک مسلمانوں پر لازم نہ آئے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ضمان لازم آئے گا کیوں کہ جب تک وہ دھوست کو رذہ نہ کریں ان کی جان و مال کی حرمت و عصمت باقی ہے۔ مگر حنفیہ کہتے ہیں:-

وَلَكُنَّا نَقُولُ الْعُصْمَةُ الْمُقْوِمَةُ تَكُونُ بِالْأَحْرَازِ وَذَلِكَ
لَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّهِمْ وَلَكِنْ شَرْطُ الْإِبَاحَةِ تَقْدِيمُ
الدَّعْوَةِ فَبِذَلِكَ لَا يُثْبَتُ وَمَجْرِدُ حِرْمَةِ الْقَتْلِ لَا يُكْفَى
بِبُوْجُوبِ الْأَصْمَانِ۔ (ایضاً ص-۳۱-۳۰)

جس عصمت کی بناء پر جان و مال کی قیمت قائم ہوتی ہے تو وہ دارالاسلام

لے دھوست سے مراد ہے کہ ان کو الٹی میٹھ دیا جائے کہ یا تو ہم سے صلح و معاملہ کرو یا جزیرہ در دیا مسلمان ہو کر ہماری قومیت میں شامل ہو۔ اگر ان تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت تم قبول نہیں کرتے تو ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے۔

کی حفاظت میں ہونے پر بوقوف ہے اور یہ چیزان کے حق میں موجود نہیں ہے۔۔۔۔۔ یہ ضرور ہے کہ اباحت کے لیے تقدیم و عوت شرط ہے، اس کے بغیر اباحت ثابت نہیں ہوتی، لیکن محض خوستہ قتل، و بوب خلی کے لیے کافی نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حری کفار جو ذمی نہیں ہیں، جن سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، جن کا دار ہمارے دار سے مختلف ہے جن کی حصہت ہمارا قانون تسلیم نہیں کرتا، ان کے نفوس و اموال بھی ہم پر اس وقت تک حلال نہیں ہیں جب تک کہ تمام جنت نہ ہو اور ہمارے اور ان کے درمیان باقاعدہ اعلان جنگ نہ ہو جائے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں حضرت معاذ بن جبل کو جو ہدایات دی تھیں وہ قابل غور ہیں:-

لَا تَقْتُلُوهُمْ حَتَّىٰ شَدَّاعُهُمْ فَإِنْ أَبْوَا فَلَا تُقْسِلُوهُمْ
حَتَّىٰ يَبْدَأُو وَلَا يُؤْكِلُوهُمْ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا مِنْكُمْ
قِتْيَلًا وَشَمَادًا ذَلِكَ الْقِتْلَةُ وَقُولُوا لَهُمْ هَلْ أَلِ خَيْرٌ مِّنْ
هَذَا سَبِيلٌ فَلَمَنْ يَهْدِي إِلَيْهِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ يَدِيْكُ خَيْرٌ مِّمَّا
طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ۔

ان سے جنگ نہ کرنا جب تک کہ ان کو دعوت نہ دے لو۔ پھر اگر وہ انکار کریں تب بھی جنگ نہ کرنا جب تک وہ اپنداز کریں۔ پھر اگر وہ اپنداز کریں تب بھی جنگ نہ کرنا جب تک کہ وہ تمہیں سے کسی کو قتل نہ کر دیں۔ پھر اس مقتول کو دکھا کر ان سے کہنا کہ کیا اس سے زیادہ بہتر کسی بات کے لیے تم آمادہ نہیں ہو سکتے؟ اے معاذ اس قدر صبر و تحمل کی تعلیم اس لیے ہے کہ اگر اللہ تیرے باختر پر لوگوں کو ہدایت بخش دے تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تیرے قبضہ میں مشرق سے مغرب تک کا سارا ملک و مال آجائے۔

۵۔ مجاہدین

اب صرف وہ کفار باتی رو جانے ہیں جن سے مسلمانوں کی بالفعل جنگ ہو۔ اہل حرب بھی ہیں۔ انہی کے دارکو تعلقات خارجیہ کے قانون میں "وَالْمُحْرِبُ" کہا جاتا ہے۔ انہی کے نفوس اور اموال مباح ہیں اور انہی کو قتل کرنا، گرفتار کرنا، لوٹنا اور مارنا شریعت نے جائز فرار دیا ہے۔ لیکن حربیت (Enemy Character) تمام مجاہدین میں یکسان نہیں ہے اور نہ تمام اموال حربیہ ایک ہی حکم میں ہیں۔ حربی کافروں کی عورتیں، ان کے بچتے، ان کے بیمار، ان کے بوڑھے اور اپارسخ وغیرہ بھی اگرچہ حربی ہیں، مگر شریعت نے ان کو مباح الدم نہیں ٹھہرا دیا ہے بلکہ اباحت قتل کو صرف مقاتلین (Combatants) تک محدود رکھا ہے۔ اما یقتل من يقاتل۔ قال اللہ تعالیٰ وقاتلواهم والمفاعة تكون من الجانبين [المسوط ج ۱ ص ۴۷] اسی طرح اموال حربیہ میں بھی شریعت نے فرق مدارج کیا ہے اور ہر درجہ کے احکام الگ ہیں۔

اموال حربیہ کے مدارج اور احکام

اگرچہ اصولی جیشیت سے تمام وہ اموال و املاک بودھن کے علاقہ میں ہوں، مباح غنیمت (Confiscable) ہیں، لیکن شریعت اسلامی نے ان کو دو اقسام پر منقسم کیا ہے، ایک غنیمت دوسرے نے۔

غنیمت

دوامال منقولہ (Moveable Properties) جن پر رقبہ جنگ میں اسلامی فوج اپنے اسلوک کی طاقت سے قابض ہو، اموال غنیمت ہیں۔ ان کا ۱/۴ حصہ (یعنی خمس) حکومت کا حصہ ہے اور ۳/۴ ان لوگوں کا حصہ جنہوں نے انکو لوٹا ہو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ

علیہ قتل صرف وہ کیا جائے گا جو ہم سے مقابلہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وقاتلواهم (مقاتلہ کرو) فرمایا ہے، اور مقابلہ جانبین سے ہوتا ہے، نہ کہ صرف ایک جانب سے۔

کتاب المزاج میں غنیمت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں :-

فَهَذَا فِيمَا يُصْبِيْبُ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ عَسَارٍ كِرَأْهُ اَهْلُ الشَّرِّاْكِ وَمَا

أَجْلَبُواْ بِهِ مِنَ الْمَتَّاعِ وَالسَّلَاحِ وَالْكَرَاعِ - (ص - ۱۰)

خس ان اموال میں ہے جو مسلمانوں کو اہل شرک کے لشکروں سے ہاتھ لگیں اور جو ساز و سامان اور اور جانوروں کی قسم سے ہوں (یعنی اموال منقولہ)

دوسری جگہ پھر فرماتے ہیں :-

كَمَا أَصَابَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ عَسَارٍ كِرَأْهُ اَهْلُ الشَّرِّاْكِ وَمَا أَجْلَبُواْ بِهِ مِنَ
الْمَتَّاعِ وَالْكَرَاعِ وَالسَّلَاحِ وَغَيْرِ ذَالِكِ -

اس سے ظاہر ہوا کہ غنیمت کا اطلاق صرف ان اموال منقولہ پر ہوتا ہے جو جنگی کارروائی (War like operations) کے ذور ان میں غنیم کے لشکروں کے حدود سے باہر خام آبادیوں کو لوٹتے مارتے پھر ناشریعت کی نگاہ میں درست نہیں۔ اگر چہ دارالحرب کے تمام اموال مباح ہیں اور اگر کوئی شخص غیر مقاتلین کے لیے اموال سے تعریض کرے تو اس پر نہ کوئی ضمان لازم ہو گا، نہ ہوٹے ہوئے اموال والپس کیے جائیں گے، لیکن اس قسم کی لوٹ مار پسندیدہ نہیں ہے۔ امام مسلمین ہر ٹکن طریقہ سے اپنی فوجوں کو الیسی حکامت سے روکے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:-

مَنْ غَرَّ أَفْخُرَأً وَرَيَاءً وَسَعْيَةً عَصَى الْأَمَانَ وَافْسَدَ

فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ

(ابوداؤد باب فی من یغزو و یلتمس الدانیا)

لئے جس شخص نے فخر کی نیت سے، اور دنیا کو اپنی قوت و شجاعت و کھانس کے لیے اور ناموری حاصل کرنے کے لیے جنگ کی اور امام کی نافرمانی کی، اور زمین میں فساد برپا کیا، اسے اجر ملنا تو درکار وہ تو برابر بھی نہ چھوٹے گا۔

دوسری قسم ان اموال منقولہ وغیر منقولہ کی ہے جو غنیمہ کے شکر سے لڑاکر حاصل نہ کیے گئے ہوں، بلکہ نتیجہ فتح کے طور پر حکومت کے زیر تصرف آئیں، عام اس سے کہ وہ غنیمہ کی رعایا کے املاک ہوں یادشمن سلطنت کے ہوں۔ اسلامی اصطلاح میں ایسے اموال کو "نَفَقَةٌ" کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور یہ غنیمت سے بالکل مختلف چیز ہے۔ وَغَنِيَّةٌ الْمُعْسُكُونَ مُخَالَفَةٌ لِمَا أَفَارَ اللَّهُ مِنَ الْأَقْرَبِ وَالْحُكْمُ فِي هَذَا غَيْرُ الْحُكْمِ فِي تِلْكُ التَّائِبَةِ۔ (کتاب الحراج ص ۲۸) اس کے متعلق سورہ حشر میں تشریح کردی گئی ہے کہ یہ کسی شخص کی ملکیت میں نہ دی جائے گی بلکہ اس کا تعلق بیت المال سے ہو گا اور اس سے مصالح عامہ میں خرچ کیا جائے گا۔ وَمَا آتَاهُ اللَّهُ عَلَىٰ حَرَاسَوْلِهِ مِنْهُ هُدًى فَمَا أَنْجَفْتُمْ هَدِيَّتُهُ مِنْ حَيْثُ لِّمَدِّرِكَابِ رَأْلِيَّ أَخْرَالِيَّةِ۔ لفظ "نَفَقَةٌ" کا کوئی اور مفہوم اس کے سوا نہیں ہے اور کتب فقہیہ میں ہم کو کہیں بھی کسی ایسی نَفَقَةٌ کا نشان نہیں ملا جس کو ہر شخص بطور خود حاصل کر سے اور اپنی ہی جیب میں رکھ لے۔ جگہ جگہ فی الْمُسْلِمِينَ، فی بِوْصَمْ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي الجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ اور ایسے ہی دوسرے سے ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ متقدیں صرف اُس نَفَقَةٌ سے واقعہ نتھے جو جماعت کی لکھ ہوتی ہے اور حکومت اسلامی کے زیر تصرف ہو اکرتی ہے۔

غنیمت اور لوٹ میں امتیاز

غنائم حاصل کرنے کا شرعی حق صرف اُنہی لوگوں کو دیا گیا ہے جو اسلامی سلطنت کے زیر حفاظت ہوں اور جن کو امام مسلمین کی اجازت نصایا حکما ہو۔ ان کے سوا اگر عام مسلمان فردًا فردًا یا جماعت بنانے کے طور خود لوٹ مار کرنے لگیں تو ان کی جیشیت الشیروں کی

لہاگرائیے لوگ جن کو امام کی حمایت حاصل نہ ہو امام کی اجازت کے علاقہ میں غیر ذمہ دار اور طور پر داخل ہوں اور مال لوٹیں تو ہمارے زدیک اس مال میں سے خس نہ لیا جائیگا، بلکہ وہ مال اُنہی لوگوں کیلئے خصوصی

ہوگی۔ ان کی غنیمت "غینمۃ" ہوگی، لوث ہوگی۔ اس لیے اس میں سے اللہ کا حکم
(یعنی خمس) قبول نہ کیا جائے گا۔ البته وہ انہی کے پاس رہنے دیا جائے گا، کیوں کہ
دشمن کو واپس دلانا تو بہر حال ممکن نہیں ہے فان کان دخول القوم الظاہرين
لامنة لهم بغير اذن الامام علی سبیل التلاصص فلا خمس فيما اصابوا
عندنا ولكن من اصحاب منهم شیئاً فهو له خاصّه رالبسيط ج۔ ۱

ص ۲۷) اس کی وجہ پر کچھ علامہ سرخسی نے لکھی ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیجیے۔

فَالْخَنْثَى مَا يَئِنَّا أَنَّ الْغِنِيمَةَ إِنْمَّا تَكُونُ لِمَالِ مَصَابِ باشوف

الْجَهَاتِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ اعْلَاءٌ كَلِمَةً إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَهُ عَزَّاً وَالْدِيَنَ وَلَهُذَا جَعَلَ الْخَنْثَى مِنْهُ مُثْنَى تَعَالَى
وہذا المعنی لا یُحْصَل فِيمَا يَأْخُذُ وَالْوَاحِد عَلَى سِبِيل
التلاصص فِيهِ حَصْنٌ فَعَلَهُ اَكْتَسِبًا لِلْمُكَالِ۔ رایضا۔ ۲۷)

بات در اصل یہ ہے جیسا کہ ہم بیان کرچکے ہیں کہ غنیمت اس
مال کا نام ہے جو انتہاد رجہ کے پاک اور اشرف طریقے سے ہاتھ آئے
اور وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کے کلمہ کا اعلان اور اس کے دین کا
اعزاز ہو۔ اسی لیے اس میں اللہ کا پانچواں حصہ مقرر کیا گیا۔ یہ بات اُس
مال میں نہیں ہوتی جس کو ایک شخص پوروں کی طرح حاصل کرتا ہے کیونکہ
اس کا مقصد تو محض اکتساب مال ہے۔

اس کی نظریہ میں امام سرخسی وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں ذکر ہے کہ شرکن
ایک مسلمان لڑکے کو پکڑ لے گئے تھے۔ کچھ مدت بعد وہ لڑکا ان کے قبضہ سے
بھاگ نکلا اور ان کی کچھ بھر بیاں بھی پکڑ لایا۔ حضور نے یہ بکر بیاں اسی کے پاس رہنے
ویں اور ان میں سے خمس لینا قبول نہ کیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی اسی کی
تمثید میں ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کا مال لوٹ کر مدینہ حاضر ہوئے اور اسلام پر ایمان لائے
جب انہوں نے لوٹ کا مال حضورؐ کی خدمت میں پیش کیا تو اسپنے نے فرمایا کہ تمہارا

اسلام مقبول ہے مگر یہ مال مقبول نہیں۔
دارالحرب میں کفار کے حقوق ملکیت

غیرمیت پر تیسری قید یہ لگائی گئی ہے کہ غانمین جب تک دارالحرب میں مقیم ہیں اس وقت تک وہ اموال غیرمیت سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اس قید سے صرف سامان خوردنوش اور جانوروں کا چارہ مستثنی ہے۔ یعنی دورانِ جنگ میں جس قدر آذوقہ اور چارہ فوجوں کے ہاتھے گا اس شہ سے ہر جاہد بقدر حاجت لے سکتا ہے۔ اس کے سوا باقی تمام اموال غیرمیت سردار لشکر کے پاس جمع کر دیئے جائیں گے اور ان کو غانمین میں اس وقت تک قیمت نہ کیا جائے گا جب تک کہ وہ دارالاسلام کی طرف منتقل نہ کر دیئے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خفیہ کے نزدیک اموال غیرمیت جب تک دارالحرب میں ہوں غانمین کی ملک ان پر مکمل نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمہ کی راستے اس کے خلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حماری ہیں کامال مباح ہے اس لیے جس وقت مجاہدین اسلام ان پر قابض ہوئے اسی وقت ان کے مالک بھی ہو گئے۔ مگر امام ابوحنیفہ رحمہ اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں کہ یہ ملک ضعیف ہے۔ گوہمار اقبضہ ہو چکا ہے لیکن دارتوان کا ہے۔ جب تک مال اُن کے دار ہے ہمارے دار ہیں نہ چلا جائے ہم پوری طرح اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ تکمیل ملک کے لیے حصہ استیلاء (Occupation) کافی نہیں ہے۔ امام شری

اس مسئلہ میں خفیہ کے ملک کی توضیح اس طرح کرتے ہیں :-

فَأَمَّا عِنْدَنَا الْحَقُّ يُثْبِتُ بِنَفْسِ الْأَخْرِيِّ وَيُتَكَدِّدُ

بِالْأَخْرَى فَرِتَمْكِنْ بِالْقِسْمَةِ كَحْقِ الشَّفِيفِ يُثْبِتُ بِالْبَيْمِ

وَيُتَكَدِّدُ بِالظَّلْبِ وَيَقْتَمُ الْمَلْكُ بِالْأَخْرِيِّ وَمَادَامُ الْحَقُّ

ضَعِيقًا لَا تَجُوزُ الْقِسْمَةُ بِالْأَخْرِيِّ يَمْلُكُ الْأَرْضَنِيِّ

كَمَا يَمْلُكُ الْأَمْوَالَ ثُمَّ لَا يَتَكَدِّدُ الْحَقُّ فِي الْأَرْضِ الَّتِي

نَزَلَوا فِيهَا إِذَا هُمْ يَصِيرُونَهَا دَارَ الْإِسْلَامِ -

(المبسوط ج ۱ ص ۳۳)

ہمارے نزدیک نفس قبضہ سے حق صرف ثابت ہوتا ہے، دارالاسلام میں لے جانے سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور تقيیم غنیمت سے مکمل ہوتا ہے۔ اس کی مثال شعر کی سی ہے کہ شیفع کا حق بیع سے ثابت ہوتا ہے، طلب سے موکد ہوتا ہے اور قبضہ کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ پس جب تک حق ضعیف رہے تقيیم جائز نہیں ہوتی۔ جس طرح اموال (جائزہ امنقولہ) پر نفس قبضہ سے ملک ثابت ہوتی ہے اسی طرح اراضی (جائزہ غیر منقولہ) پر بھی قبضہ سے ملک ثابت ہو جاتی ہے، مگر جس سر زمین میں مسلمانوں کے لشکر اترے ہوں اس پر حق اس وقت تک پوری طرح قائم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو دارالاسلام نہ بنادیا جائے۔

اس تصریح سے معلوم ہوا کہ نہ صرف غنیمت، بلکہ فی میں بھی اسلامی حکومت اس وقت تک تصرف کا پورا حق نہیں رکھتی جب تک کہ علاقہ مقبوضہ (Occupied Territory) کو دارالاسلام نہ بنادیا جائے، یا باصطلاح جدید اپنے مقبوضہ کے ساتھ اس کے الحاق (Annexation) کا باقاعدہ اعلان نہ کر دیا جائے نبھی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزِ عمل اسی ملک کی تائید کرتا ہے، چنانچہ مکحول کا بیان ہے کہ ما قسم مامسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفتاثم الباقي دارالاسلام (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خدام کو دارالاسلام کے سوا کہیں تقيیم نہیں فرمایا)۔ محمد بن اسحاق اور قلبی کی روایت ہے کہ حضور نے ختنین کے خدام و اپسی حضرت انہیں تقيیم فرمائے تھے جو اس نہ مانیں دارالاسلام کی سرحد پر تھا۔ راستہ میں اعراب نے تقيیم کا سخت مطالبہ کیا اور حضور کو اس قدر پیشان کیا کہ آپ کی چادر پھٹ گئی، مگر اس ہنگامہ کے باوجود آپ نے دارالاسلام کے حدود میں پہنچنے سے پہلے مال غنیمت کا ایک جمہ تقيیم نہ فرمایا۔

رسولؐ خدا کے اس طرزِ عمل اور فقہاء کی ان توجیہات پر غور کیجیے۔ اس کا سبب مجرم اس کے اور کچھ نہ معلوم ہو گا کہ اسلامی قانون جس طرح اسلامی مقبوضات پر اہل اسلام کے حقوقِ ملکیت کو تسلیم کرتا ہے۔ اس طرح غیر اسلامی مقبوضات پر اہل حرب نکل کے حقوقِ مالکانہ کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ بلکہ کچھ جنگ ان کے اموال کو ہمارے لیے مباح کر دیتی ہے۔ مگر شریعت نے ہم کو اس اباحت سے فائدہ اٹھانے کی عام اور غیر مشروط اجازت نہیں دے دی ہے، بلکہ ان کی ملک سے ہماری ملک بیس اموال کے منتقل ہونے کی چند باضابطہ قانونی شکلیں مقرر کی ہیں اور وہ ایسی شکلیں ہیں جن میں ہمارے اور اہل کفر کے درمیان پوری مساوات ہے جنپی قانون کہتا ہے کہ ہم ان کے اموال کے مالک اس وقت ہوں گے جب باقاعدہ جنگ میں ان پر قبضہ کر کے انہیں اپنے "دار" میں لے آئیں۔ اسی طرح وہ بھی جب ہمارے اموال پر جنگ کے ذریعہ سے قابض ہو کر اپنے دار میں انہیں لے جائیں گے تو ان کے مالک ہو جائیں گے، اور ان کے دار میں ان کے حقوقِ مالکانہ کا احتراز کرنا ہم پر لازم ہو گا۔ اس بارے میں فقہاء کی مزید تصریحات، قابل غور ہیں۔

نَفْسُ الْأَخِذِيَا سَبِيلٌ مَلَكِ الْمَالِ إِذَا تَهَمَّ بِالْأَخْرَازِ وَيَنْتَهِ
وَبِيَمْهُمْ مُسَاواتٌ فِي أَسْبَابِ اصْرَابِ الدُّنْيَا بِلَ حَظِّهِمْ
وَفِرْمَنْ حَكَمْنَا لِأَنَّكُمْ أَهْمَدُونَ لَامْقُودَةِهِمْ
فِي هَذِهِ الْأَخِذِيَا سُوَىِ الْكِتَابِ الْمَالِ وَنَحْنُ لَا نَقْصِدُ
بِالْأَخِذِيَا الْكِتَابِ الْمَالِ (المبسوط ج ۱ ص ۳۵)

جب مال پر قبضہ کر کے اس کو دار میں پہنچا دیا گیا ہو تو یہ اس مال پر حقِ ملکیت کا پورا سبب ہے اور دنیا حاصل کرنے کے اسباب میں ہمارے اور کفار کے درمیان کامل مساوات ہے۔ بلکہ دنیا میں ان کا حصہ ہمارے حصہ سے کچھ زیادہ ہی ہے کیونکہ ان کے لیے تو دنیا ہی ہے اور اخذ مال سے ان کا مقصد بجز اکتساب مال کے اور کچھ نہیں۔ بخلاف اس کے ہمارا مقصد اکتساب مال نہیں ہے۔

فَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَالْحَرْبِ بِاِمَانٍ وَلِسَهْ فِي
أَيْدِيهِمْ جَارِيَةٌ مَاسُورٌ تَأْكِرُهُنَّ لَهُ غَصِيبَهَا وَ
وَطِيهَا لَا نِهْمٌ مَلْكُوْهَا عَلَيْهِ وَالْتَّحْقِيقُ بِسَائِرِ
اِمْلَاكِهِمْ - (ایضاً - ص ۶۵)

اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں امان لے کر داخل ہو تو وہاں
خود اسی کی بونڈی اس کے ہاتھ آئے جسے کفار پکڑ لے گئے تھے
تو اس کے لیے اس بونڈی پر قبضہ کرنا اور اس سے وظی کرنا جائز
نہیں کیونکہ اب کفار اس کے مالک ہیں اور وہ بونڈی ان کے مالک
میں داخل ہو چکی ہے۔

وَلَوْ خَرَبَ الْيَتَامَاءِ وَمَعْنَهُ ذَالِكَ الْمَالُ فَإِنَّمَا لَا
لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ فِيهِ - (ایضاً ص ۶۳)

اور اگر کافر حربی چمار سے داری میں امان لے کر آئے اور اس
کے ساتھ خود ہم ہی سے لوٹا ہوا مال ہو تو ہم اس سے وہ مال نہیں
چھین سکتے۔

فَإِنْ غَلَبَ الْعَدُو عَلَى مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَأَحْرِزَهُ وَهَنَاكُ
مُسْلِمٌ تَاجِرٌ مُسْتَأْمِنٌ حَلَّتْهُ إِنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُمْ فَيَأْكُلُ
الطَّعَامَ مِنْ ذَلِكَ وَيَطَّاَرِ الْجَارِيَةَ لَا نِهْمٌ مَلْكُرُهَا بِالْأَخْرَانِ
فَالْتَّحْقِيقُ بِسَائِرِ اِمْلَاكِهِمْ وَهَذَا بِخَلَافَ مَا لَوْدَخَلَ
رَأْيُهُمْ تَاجِرٌ بِاِمَانٍ فَشُرُقُ مِنْهُمْ جَارِيَةٌ وَاخْرِجَهَا
يَحْلِلُ لِلْمُسْلِمِ إِنْ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ لَاتَّهُ أَحْرِزَهَا هَلْ سَبِيلٌ
الْفَدُورُ وَهُوَ مَأْمُورٌ بِرَدْهَا عَلَيْهِمْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ
مَرِبِّهِ دَانَ كَانَ لَا يَجْبَرُهُ الْأَمَامُ عَلَى ذَالِكَ - (ایضاً ص ۶۴)
اگر دشمن مسلمانوں کے مال پر قابض ہو کر اسے اپنے داری میں لے

جائے اور وہاں کوئی مسلمان تاجر مستامن ہو تو اس کے لیے اس مال کو خریدنا اور کھانا حلال ہے اور وہاں سے خریدی ہوئی لونڈی سے وہی بھی کر سکتا ہے۔ کیونکہ اپنے داریش لے جانے کے بعد وہ اس کے ناک ہو گئے اور اب وہاں کے املاک میں شامل ہے۔

خلاف اس کے اگر کوئی تاجر اماں لے کر دارالحرب میں جائے اور ان کے قبضہ سے کسی لونڈی کو چڑا کر دارالاسلام میں لے آئے تو مسلمان کے لیے اس لونڈی کو خریدنا حلال نہیں کیونکہ وہ غدر کر کے اسے لایا ہے۔ اور فیما بیتہ و بین اللہ وہ اسے واپس کرنے پر مأمور ہے۔ اگرچہ امام اس کو واپس کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔

یہ مسلاک صحیک صحیک حدیث کے مطابق ہے۔ فتح مکہ کے روز جب حضرت علی رضیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنے اس مکان میں کیوں نہیں قیام فرماتے تو پیر حضرت سے پہلے آپ کا تھا تو حضور نے جواب دیا کہ هل تولاٹ لئا عقیل من دبم۔ عقیل نے ہمارے لیے چھوڑا ہی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جب آپ اسے چھوڑ کر تھل گئے تھے اور عقیل بن ابی طالب نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، تو اس پر سے آپ کی ناک ساقط اور عقیل کی ملکیت ثابت ہو گئی۔ اب ہا اور جو داں اس کے کہ آپ نے مکہ فتح کر لیا تھا، آپ نے اپنے سابق حقوق ملکیت کی بناء پر اس مکان کو اپنا مکان قرار دینے سے خود انکار فرمادیا۔

مباحثہ گزشتہ کا خلاصہ

یہ تمام قانونی تصریحات آپ کے سامنے ہیں ان پر غور کرنے سے سب ذیل مسائل متنبیط ہوتے ہیں:-

(۱) دارالحرب اگر مطلقاً دارالکفر (Foreign territory) کے معنی میں لیا جائے تو اس کے اموال مباح نہیں بلکہ ضرف غیر مخصوص ہیں اور عدم عصمت کا ماحصل ضرف اس قدر ہے کہ اسلامی حکومت اس داریش کسی جان یا مال کے سخفظ کی ذمہ دار

نہیں ہے۔ وہاں اگر کوئی مسلمان کسی مسلم یا غیر مسلم کو جان و مال کا نقصان پہنچائے گا یا اس کی ملک سے کوئی چیز حرام طریقہ سے نکال لئے گا تو یہ اس کے اور خدا کے درمیان ہے۔ اسلامی حکومت اس سے کوئی مواد خذہ نہیں کر سے گی۔

(۲) دارالحرب سے مراد اگر ایسے کفار کا دار لیا جائے جن کے نفوس و اموال مباح ہیں تو اس معنی میں ہر دارالکفر دارالحرب نہیں ہے، بلکہ صرف وہ علاقہ دارالحرب ہے جس سے بالفعل دارالاسلام کی جنگ ہو۔ اس خاص نوع کے دارالکفر کے سوا کسی دوسرے دارالکفر کے باشد سے نہ مباح الدرم ہیں اور نہ مبالغ المال، آجھے وہ ذمی نہیں ہیں اور ان کے نفوس و اموال غیر معصوم ہیں۔

(۳) جس ملک سے مسلمانوں کی بالفعل جنگ ہو اس کے نفوس و اموال بھی مطلقاً ایسے مباح نہیں ہیں کہ ہر شخص وہاں لوٹ کر کرنے اور کفار کی املاک پر قبضہ کرنے کا اختیار ہو۔ بلکہ اس کے لیے بھی کچھ شرائط اور قیود ہیں:-
(الف) امام مسلمین یا قaudہ اعلانِ جنگ کر کے اس ملک کو دارالحرب

قرار دے، اور

(ب) وہاں جنگ کرنے والوں کو امام کا "اذن" اور اس کی "حمایت" حاصل ہو۔
(ج) غنیمت صرف اُس جائزہ منقولہ کو کہتے ہیں جو دشمن کے عساکر سے لاکر حاصل کی جائے۔ یا بالفاظ دیکھ را شرف جہات سے حاصل ہو اور جس میں دین کا اعزاز ہو۔ اس مال میں پانچوں حجۃ اللہ کے لیے ہے۔

(۴) فَإِنْ أُمُّ الْمُنْقُولَةِ وَغَيْرِهَا مُنْقُولَةٌ كُوْكُبَتْهُ یہیں جو تبجہ و فتح کے طور پر حکومت اسلامی کے قبضہ میں آئیں۔ خراج اور مال صلح وغیرہ کا شمار بھی فَہیں ہیں ہے، لیکن یہ بالکلیہ اسلامی حکومت کی ملک ہے، اور کسی شخص خاص کو اس پر حقوق ملکیت حاصل نہیں ہو سکتے۔

(۵) فَقَدْ أَرْغَبَتْهُ اُمُّ الْمُنْقُولَةِ کو پورے حقوق ملکیت صرف اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب کہ وہ ان کو دارالحرب سے دارالاسلام منتقل کر لائیں

یادا را الحرب کو دار الاسلام بنالیں۔ اس سے سے پہلے ان اموال میں تصرف کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا مکروہ ہے۔

۴۷) اسلامی قانون حربی کفار کے اموال پر ان کے حقوق ملکیت کو تسیلم کرتا ہے۔ اور ان کی ملک سے کوئی عال مسلمانوں کی ملک میں جائز طور پر انہی صورتوں سے مستقل ہو سکتا ہے جن کو اللہ اور رسول نے حلال کیا ہے، یعنی بیع یا صلح یا جنگ۔

مسلمانوں کی حیثیات ملاحظہ اختلاف دار

ان امور کے متعلق ہو جانے کے بعد اب ایک نظر یہ بھی دیکھ دیجیے کہ اسلامی قانون کے مطابق اختلاف دار کے لحاظ سے خود مسلمانوں میں کیا اختلافات واقع ہوتے ہیں۔ اس بارے میں تمام قوانین کی بنیاد حسب ذیل آیات و احادیث پر قائم ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَا جِرُوا مَا كُنُّوا فِي
ذَلِكَ أَيْتَهُمْ قِصْرٌ شَيْءٌ وَخَتِيْرٌ يُهَا جِرُوا۔ (الإنفال: ۲۶)

اور لوگ ایمان تو لائے مگر بھرت کر کے دار الاسلام آئیں گئے، ان سے تمہارا "ولایت" کا کوئی تعلق نہیں تا وقیکہ وہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف، بھرت نہ کریں۔

فَلَا تَتَحَجَّدُو أَمْنُهُمْ أَوْ لِيَاءَ حَتِيْرٍ يُهَا جِرُوا فِي شَيْءِ اللَّهِ.

(النساء: ۸۹)

ان کو ولی نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں بھرت نہ کریں۔

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَخْرِيشُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ
مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَضْعَدَ قُوَّاتِيْرَانَ كَانَ مِنْ قُوَّمِ
غَدْرٍ لَكُنُّهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَخْرِيشُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٌ وَرَانَ
كَانَ مِنْ قُوَّمِ رَبِيعَتَكُنُّهُ وَبَيْنَهُمْ رِبَيعَاتٌ فَرِيمَةٌ مُسْلِمَةٌ
إِلَى أَهْلِهِ وَتَخْرِيشُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ (النساء: ۹۰)

جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے اس کو ایک مسلمان بردہ آزاد کرنا چاہیے اور اس کے وارثوں کو دیت دینی چاہیے الایک کہ ورشا صدقہ کے طور پر دیت چھوڑ دیں۔ اور اگر وہ مقتول کسی ایسی قوم سے ہو جس سے تمہاری دشمنی ہو اور ہو وہ مومن تو ایک مسلمان بردہ آزاد کرنا چاہیے۔ اور اگر قوہ ایسی قوم سے ہو جس سے تمہارا مقابلہ ہو تو اس کے وارثوں کو دیت دی جائے اور ایک مسلمان بردہ آزاد کیا جائے۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا بَرْزَىٰ مِنْ كُلِّ
مُسْلِمٍ أَقَامَ بَيْنَ اظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ وَحُنْنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّضًا مِنْ أَقْوَامَ مَمْمَ الشُّرِكِينَ فَقَدْ
بِرِّهَتْ مِنْهُ الْذَمَّةُ وَقَالَ لَأَذْمَّةَ لَهُ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں ہر اس مسلمان کی ذمہ داری سے برٹی ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہو۔ اور حضور ہی سے یہ بھی مردی ہے کہ جس نے مشرکین کے ساتھ قیام کیا اس سے بری الذمہ ہوں۔ یا فرمایا اس کے لیے کوئی ذمہ نہیں۔

ابوداؤد کی کتاب الجہاد میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو شکر کا سردار مقرر کر کے بھیجتے تو اس کو بخملہ دوسرا پدایا تھا کہ ایک یہ پدایت بھی فرماتے تھے:-

أَدْعُهُمْ إِلَى إِلَاسْلَامٍ فَإِنْ أَجَابُوكُمْ فَاقْبِلُ مِنْهُمْ

لہٗ نیں" کا لفظ آپ نے حکومت اسلامی کے رئیس کی چیخت سے فرمایا ہے ذکر رسولؐ کی چیخت سے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی حکومت ایسے مسلمان کی حفاظت کی ذمہ دار نہیں ہے۔

وَكُفِّرْتُ عَنْهُمْ، ثُمَّ أُقْعُدُهُمْ إِلَى النَّحْوِ لِمَنْ دَارَهُمْ إِلَى
دَارِ الْمَهَاجِرِيْنَ وَأَعْلَمُهُمْ رَأْنَهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَالِكُوكَانَ لَهُمْ
مَا لَهُمْ بِهِ جُرِيْنَ وَإِنْ عَلَيْهِمْ مَا عَلِيَ الْمَهَاجِرِيْنَ فَإِنْ أَبْوَا
وَاخْتَارُوا أَدَارَهُمْ فَاعْدُهُمْ رَأْنَهُمْ يَكُونُونَ كَاعِرَابٍ
الْمُسْلِمِيْنَ يَعْجُزُهُمْ حَكْمُهُمْ أَمَّا اللَّهُ الَّذِي كَانَ يَعْجُزُهُ
عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْقُوَّةِ وَالْقَنِيْمَةِ نَصِيبٌ
الْأَنْ يَحْمَاهُهُ دَارُ اُمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ (باب في دعاء المشركين)
ان کو پہلے اسلام کی طرف دھوت دینا۔ اگر وہ قبول کر لیں تو
ان سے ہاتھ روک لینا۔ پھر ان سے کہنا کہ اپنے دار کو چھوڑ کر چاہریں
کے دار یعنی دار الاسلام میں آ جائیں اور انہیں بتا دینا کہ اگر انہوں نے
ایسا کیا تو ان کے وہی حقوق ہوں گے جو ہماجریں کے ہیں۔ اور وہی
واجہات ان پر عائد ہوں گے جو ہماجری پر ہیں۔ اگر وہ انکار کریں اور
اپنے ہی دار میں رہنا اختیار کریں تو انہیں آگاہ کر دینا کہ ان کی حیثیت
اعراب مسلمین کی سی ہوگی ان پر اللہ کے وہ تمام احکام جاری ہوں گے
بومومنین پر جاری ہوتے ہیں مگر فتنے اور غنیمت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا
إِلَآ يَرَكِه دَارُ مُسْلِمَوْنَ كَمَكَانٍ سَاقَهُمْ لَكَرْ جَهَادَ كَرِيْمَنَ -

ان آیات و احادیث فقہاء خفیہ نے جو احکام مستنبط کیے ہیں ان کو ہم اختصار
کے ساتھ یہاں بیان کرتے ہیں۔

۱۔ دار الاسلام کے مسلمان

بوقوس و اموال دار الاسلام کی حدود میں ہوں صرف انہی کی حفاظت حکومت

لے ابتدائی نرمانہ میں جب تمام اسلامی مقبوضات ایک ہی حکومت کے ماتحت تھے تو دار
الاسلام خلیفہ اسلام کے حدود سلطنت کا ہم معنی تھا۔ مگر اسلام کے دستوری (باقی ص ۳۵ پر)

اسلامی کے ذمہ ہے۔ اور جو مسلمان دارالاسلام کی رعایا ہوں وہ بنی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ دریوی حیثیت سے بھی اسلام کے تمام قوانین ان پر نافذ ہوں گے اور وہی کلی طور پر احکام کے ملزم ہوں گے۔ یہ قاعدہ اسلامی قانون کے قواعد کلیہ میں سے ہے اور اس پر بہت سے مسائل متفرع ہوتے ہیں۔

(۱) اسی قاعدہ کی بنیاد پر یہ مسئلہ ہے کہ عصمت نفوس و اموال و اعراض صرف انہی مسلمانوں کی عصمت محض دینی عصمت ہے، عصمت مقومہ نہیں ہے جس کی بنا پر قضا شرعی لازم آتی ہے *كما قال السرخسى فى كتابه المسوط العصمة المقومة تكون بالاحواز (جلد ۱، ص ۲۰) والعصمة بالاحواز بالروايات*
لا بالآدابين (ایضاً ص ۵۵)

بنیہ حاشیہ ص ۲۳۵ سے) قانون کی بنیاد جن اصولوں پر رکھی گئی ہے وہ ایسے ہیں کہ جب دارالاسلام مکروہ سے مکرہ سے ہو کر مختلف مسلم یا استوں میں تقییم ہو گیا تو خود بخود دولت مشترکہ (Common wealth) کا تصور پیدا ہو گیا ہر اسلامی مقبوضہ خواہ وہ دنیا کے کسی حکمران کے ماتحت ہو، ہر حال دارالاسلام کا ایک جزو ہے۔ اور ہر مسلمان خواہ وہ کمیں پیدا ہوا ہو، دارالاسلام میں داخل ہوتے ہی خود بخود اس کی رجیعت بن جاتا ہے اور تمام حقوق شہریت (Rights of citizenship) اس کو حاصل ہو جانتے ہیں، بشرطیکہ اس نے کسی دارالکفر کے ساتھ رعایا ہونے کا تعلق نہ بڑھ رکھا ہو۔ موجودہ اسلامی حکومتیں خواہ اس پر عمل کر میں بانہ کر میں، لیکن اسلامی قانون کی رو سے کوئی مسلمان کسی اسلامی حکومت میں غیر ملکی نہیں ہے۔ ایک افغان کے حقوق اور واجبات ترکی اور ایران میں بھی وہی ہونے چاہیں جو خود افغانستان میں ہیں اور ایک مسلمان کے لیے یہ ہرگز ضروری نہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ ایک اسلامی حکومت کے حدود سے داخل کر دوسری اسلامی حکومت کے حدود میں آپا د ہو تو وہاں کی رجیعت بننے کے لیے کوئی مصنوعی طریقہ اختیار کرے۔ ہر مسلمان دارالاسلام کا پیدائشی شہری ہے۔

(۲) اسی قاعدہ سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ اسلامی قانون افعال کو حرام قرار دیتا ہے ان سے دارالاسلام کے مسلمان دینا و قضاڑ دنوں چیزیتوں سے روک کر جائیں گے، مگر جو مسلمان دارالاسلام میں نہیں ہیں ان کا معاملہ ان کے اور خدا کے درمیان ہے، دین کا احترام دل میں ہو تو باز رہیں اور نہ ہو تو بوجا ہیں کریں، اس لیے کہ اسلام کو ان پر نفاذِ احکام کا اقتدار حاصل نہیں ہے۔

(۳) بھی قاعدہ اس مسئلہ کا مسئلہ بھی ہے کہ جو نفوس و اموال دارالاسلام کی حفاظت میں ہوں وہ سب مخصوص ہیں اس لیے ان پر حق شرعی کے سوا کسی دوسرے طریقے سے تعدی کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی۔ اس بارے میں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کوئی اختیاز نہیں۔ تعدی کرنے سے ہر اس شخص کو روکا جائے گا جو احکام اسلام کا تابع ہو چکا ہو، عام اس سے کردہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اور ہر اسی شخص کی جان و مال کی حفاظت کی جائے جو دارالاسلام کی حفاظت میں ہو، فواد مسلمان ہو یا کافر۔

لَأَنَ الْدَّاَيْنَ مَا نَعْلَمُ لَمْ يَعْتَقِدْ حَقًا لِّلشَّرِيعَ دَوْنَ مَنْ لَا يَعْتَقِدُهُ وَلِقَوْتَهُ
الْمَدَارِيَّنَ عَنْ مَالِهِ مَنْ يَعْتَقِدُ حِرْمَتَهُ وَمَنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ الْمُبْسُطُ

(۴) اسی بناء پر دارالاسلام میں کوئی مسلمان مسلمان سے، اور کوئی مسلمان ذی سے، اور کوئی ذی مسلمان سے اور کوئی ذی ذی سے اور کوئی حربی متامن دوسرے متامن سے سُود پر یا حقوق فاسدہ میں سے کسی عقد فاسدہ پر معاملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ سبکے اموال سب کے لیے مخصوص ہیں اور ان کو صرف اپنی طریقوں سے لیا جاسکتا ہے جو اسلامی قانون میں جائز ہیں۔ فَإِنْ دَخَلَ تَجَارًا أَهْلَ الْحَرْبِ دَارَالْإِسْلَامِ
فَإِمَّا فُاشَّتْرَى أَهْدَأَهُمْ مِّنْ صَاحِبِهِ دُرْهَمًا مِّبْدَأَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَأْذِ
ذَالِكَ الْأَمْمَانِ حِيزَةً بَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَكَذَا الْأَكْثَرُ أَهْلَ الْقِرْمَةِ إِذَا
فَعَلُوا ذَالِكَ لَأَنَّ مَالَ كُلِّ دَارِ حِلْمَانِهِمْ مَعْصُومٌ (المبسوط ج ۲ ص ۵۸)

(۵) اسی طرح اگر دارالکفر سے کوئی کافر دارالاسلام میں آئے یا دارالحرب سے کوئی حربی کافر امان لے کر اسلامی تکمیل میں داخل ہو تو اس سے بھی سُود لینا یا حقوق فاسدہ پر معاملہ کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ حکومت اسلامی کی امان نے اس کو مخصوص الدِّمْ وَ الْمَالِ کر

دیا ہے اور حکومت اسلامی کی امان کا احترام اس کی تمام رعایا پر واجب ہے۔ البتہ اگر کوئی جری بینیر امان سیلے دار الاسلام میں آجائے تو اس کو پکڑنا، لوٹنا، امنا، اور اس سے عقود فاسدہ پر معاملہ کرنا سب کچھ امام ابوحنیفہ اور امام محمدؐ کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ وہ مباح الدم و مال ہے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس سے بھی عقود فاسدہ پر معاملہ کرنے کو جائز نہیں رکھتے، اس پر تفصیلی بحث آگے آتی ہے۔

۴۔ مستامن مسلمان دار الکفر اور دار الحرب میں

دار الاسلام کی رعایا میں سے وہ شخص عارضی طور پر دار الکفر یا دار الحرب میں امان لئے کر جائے اس کو اسلامی اصطلاح میں "مستامن" کہتے ہیں۔ یہ شخص اگر پر اسلامی حکومت کے حدود قضا (Jurisdiction) سے باہر ہو جائے کی بناء پر ہمارے قانونی ملکی کی گرفت سے آزاد ہو جاتا ہے، مگر پر جی اس کو ایک حد تک اسلامی حکومت کا تحفظ حاصل رہتا ہے، اور التزام احکام اسلامی کی ذمہ داری اس پر سے بالکل ساقط نہیں ہو جاتی۔ پڑا یہ میں ہے:-

المحصنة الشافية بالاحراز بعد دار الاسلام لا تبطل

بعارض الدخول بالامان (کتاب السیر باب مستامن)

دار الاسلام کی حفاظت سے بوصحت ہوتی ہے وہ عارضی طور پر امان لئے کر داخل ہونے سے باطل نہیں ہو جاتی۔

اس قاعدے پر حسب ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں۔

(۱) جس دار الکفر سے دار الاسلام کا معابدہ ہو، وہاں مستامن مسلمان کے لیے عقود فاسدہ پر معاملہ کرنا جائز نہ ہو گا۔ اس سیلے کر دہاں کے کفار مباح الدم والاموال ہی نہیں ہیں، اور جب عقود فاسدہ کے بواز کی بنا اباحدت پر کمی گئی ہے تو اباحدت کے مرتفع ہونے سے وہ حیز آپ سے آپ مرتفع ہو جاتی ہے جو اس پر بنی ہے۔

(۲) اگر کوئی مستامن مسلمان ایسے دار الکفر میں عقود فاسدہ پر معاملہ کرے یا بد عہدی یا غصب اور سرقة سے کوئی چیز لے کر آجائے تو اسلامی حکومت اس پر

نہ کوئی مقدمہ قائم کر سے گی اور نہ اس پر کوئی ضمان لازم ہو گا۔ البتہ دینی حیثیت اس کو ان تمام افعال سے رجوع کا مشورہ دیا جائے گا جو اس نے شریعت کے خلاف کیے ہیں۔^۱

(۲) عقود فاسدہ کو مستثنی کر کے باقی تمام معاملات میں اس مستامن کے لیے بھی حنفی فقہ کے سبھی احکام ہیں جو "دارالحرب" میں امان لے کر داخل ہوا ہو۔

**لَوْدَخْلَ الرَّبِيعَ تَاجِرٌ بِإِيمَانٍ فَسَرَقَ مِنْهُمْ جَاهِدٌ يَأْتِي
وَأَخْرَجَهَا..... فَهُوَ مَاءِمُؤْذَنٌ كَرَدَهَا عَلَيْهِمْ فِيمَا
بَيْتَهُ وَبَيْتَنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ لَدِيْجِيرَةُ الْأَمَامُ عَلَى
ذِلِّكَ۔**

اگر کوئی تاجر دارالحرب میں امان لے کر جائے اور ان کے ہاتھ سے کوئی لوٹدی چیز الائے تو فیما بینہ و بین الشدودہ اُسے واپس کرنے پر امور ہے اگر پہ امام اس کو ایسا کرنے پر مجبور ہو کرے گا۔

**فَإِذَا دَخَلَ الْمُشْرِكُمْ دَارَالْحَرْبِ بِإِيمَانٍ فَدَأْتَهُمْ
أَوْ دَأْبَنُوكُمْ أَوْ فَصَبَبَهُمْ لَمْ يَحْكُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ
بِذِلِّكَ..... وَإِنْمَا هُنَّ الْمُسْتَأْمِنُ لَهُمْ إِنْ لَا يَخْوُنُهُمْ
وَإِنَّمَا غَدَارِ بِإِيمَانٍ فَسَهْ دُونَ الْأَمَامِ قِيقْتَى بِالرِّدِ
وَلَا يَحْجَبَ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ** (راہیضاں ۹۵)

اگر دارالحرب میں امان لے کر داخل ہو اور ان سے قرض لے

لہیے صرف ان صورتوں میں ہے جب کہ معاہدہ ہیں کوئی شرط اس کے متعلق نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اسلامی قانون کے تحت نفس فعل کی بنابر اس مسلمان سے کوئی باز پرس نہ کی جائے گی۔ باز پرس نہ کی جائے گی۔ باز پرس اگر اوسکتی ہے یا پھر ان بنیادوں پر ہو اسکتی ہے جوں پر ہم اس سے پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔

یا وہ اس سے قرض لیں، یا وہ ان کا مال غصب کر لے یا وہ اس کا مال غصب کر لیں تو ان کے درمیان دارالاسلام میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے گا..... مستامن نے بطور خود ان سے خیانت نہ کرنے کا ذمہ لیا تھا، اور اب ہذا اس نے عذر کیا تو یہ امام کے معاہدہ میں نہیں بلکہ خود اپنے ذاتی معاہدہ میں عذر کیا ہے اس لیے اس کو واپس کرنے کا فتویٰ سے دیا جائے گا مگر حکماً اس پر مجبور نہ کیا جائے گا۔

دام اب یوسف کو اس سے اختلاف ہے کیونکہ وہ مسلمان کو ہر حجہ ملزوم احکام اسلام قرار دیتے ہیں۔

اگر کوئی مستامن مسلمان دارالحرب میں کسی کو قتل کر دے یا اس کے مال کو نقصان پہنچا سئے تو دارالاسلام میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے گی، البتہ اس کے دین کے لحاظ سے ایسا کرنا اس کے لیے ناجائز ہے۔ (وَاكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ
الْمُسْتَأْمِنُ إِلَيْهِ مِنْ دِيْنِهِ أَنْ يُضْرِبَهُمْ لَمَّا لَمْ يَرْجِعُوا مِنَ الْغَدَرِ حِرَامٌ، ایضاً ص ۹۶)

اگر مستامن مسلمان دارالحرب سے غصب کر سکے یا پھر اگر کوئی مال سے آئے تو مسلمان سکے لیے اس کو خرید نا مکروہ ہے۔ لیکن اگر وہ خریدنے سے تو یہ بیع و رقہ کی جائے گی کیوں کہ قانون نفس بیع و شرایع میں کوئی نقص نہیں ہے، البتہ اصلاً پونکہ یہ مال غدر ہے اس لیے وہ مسلمان اپنے دین کے لحاظ سے اس کو واپس کرنے پر مامور ہے۔ (وَالنَّهُي عن الشَّرَاءِ مِنْهُ لَيْسَ لِعْنِي عَيْنُ الشَّرَاءِ فَلَا يَمْتَنِعُ
جِوَازُهُ وَهُمْ نَا أَكْرَاهُهُ لِعْنِي الْغَدَرِ وَكَانَ مَا مُوْلَى بِرِدْهَا هَلِيلُهُمْ
دِيْنًا، ایضاً ص ۹۷)

(۲) مستامن مسلمان "دارالحرب" میں اہل حرب سے سودے سکتا ہے، جو اکھیں سکتا ہے، خمر اور خنزیر اور مردار اُن کے ہاتھ بیج سکتا ہے اور تمام اُن لریتوں سے ان کا مال لے سکتا ہے جن پر خود اہل حرب راضی ہوں یہ امام الوعیفہ اور امام محمدؓ کا ذرہ سب سے ہے امام ابو یوسفؓ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ فرقین

کے دلائل جو امام سرخسی نے نقل کیے ہیں لائق غور ہیں :-

”متامن کے لیے اہل حرب سے مُودُر نقد یا قرض معاملہ کرنا یا خریدار اور
اور مردار اگن کے ہاتھ فروخت کرنا ابو عینیف اور محمد رحمہمَا اللہ کے نزدیک چائز
ہے، مگر ابو یوسف رحمہمَا اللہ کے نزدیک چائز ہے۔ امام ابو یوسف کا استدلال یہ
ہے کہ مسلمان ملتزم احکام اسلام ہے خواہ کہیں ہو، اور اس نوع کے معاملہ کی
حرمت اسلام کے احکام میں سے ہے، کیا نہیں دیکھتے کہ جری متامن سے ہمارے
داربیں ایسا معاملہ کیا جائے تو چائز نہ ہو گا، پس جب یہاں یہ ناجائز ہے تو دارالحرب
میں بھی ناجائز ہونا چاہیے۔ اس کے جواب میں مقدم الذکر دونوں امام فرماتے ہیں
کہ یہ توشمن کے مال کو اس کی مرضی سے لینا ہے، اور اس کی اصل یہ ہے کہ ان
کے اموال ہمارے لیے مباح ہیں۔ متامن نے ذمہ داری صرف اس قدر لی تھی
کہ ان سے خیانت نہ کرے گا۔ مگر جب اس نے ان عقود کے ذریعہ سے اس طرح بچا کرہی مال
اس نے عقد کے اعتبار سے نہیں بلکہ اباحت کی بنا پر لیا ہے۔ رہادار الاسلام میں جری
متامن کا معاملہ تو وہ اس سے مختلف ہے کیون کہ اس کا مال امان کی وجہ نے حصوم
ہو گیا ہے اس لیے اباحت کی بنا پر اس کو نہیں لیا جاسکتا“ (المبسوط ج ۱ ص ۹۵)

امام ابو عینیفر رحمنے فرمایا کہ جب مسلمانوں کے لیے اہل حرب کے اموال کو
لوٹنا اور چین لینا حلal ہے تو ان کی مرضی سے لینا بدرجہ اولیٰ حلal ہونا چاہیے مطلب
یہ ہے کہ لشکر اسلام کے حدود سے باہر ان کے لیے کوئی امان نہیں ہے، مسلمانوں
کے لیے ہر ممکن طریقہ سے ان کا مال لینا جائز ہے“ (المبسوط ج ۱ ص ۱۳۸)

۱۰ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مسلمان چونکہ اہل دارالاسلام میں سے ہے اس
لیے وہ حکم اسلام کی بنا پر ہر جگہ ربوسے ممنوع ہے۔ اس کے فعل کی یہ توجیہ درست
نہیں کہ وہ کافر کے مال کو بطيہ نفس سے رہا ہے، بلکہ وہ اس کو دراصل اس خاص
صورت معاملہ کی بنا پر لیتا ہے، کیونکہ اگر وہ خاص صورت معاملہ دینے عقد فاسد ہے

ہو تو کافر اس کو کسی دوسری صورت سے اپنا مال دینے پر راضی نہ ہو گا۔ اگر دارالحرب میں ایسا کرنے جائز ہو تو مسلمانوں کے دارالاسلام میں بھی اس طرح کا معاملہ جائز ہو گا کہ ایک شخص ایک درہم کے بدلتے دو درہم لئے اور دوسرے درہم کو ذہب کے نام سے موصوم کر دے۔” (المبسوط ج ۲ ص ۵۸)

ہمارا مقصود دونوں اقوال میں محاکمہ کرنا نہیں ہے۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خود امام ابوحنیفہ رح کے مذکورہ بالاقوال سے اور ان کے مذهب کے دوسرے مسائل سے جو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں چار باتیں صاف طور پر ثابت ہوتی ہیں۔

اولاً یہ معاملہ صرف اس مسلمان کے لیے جائز ہے جو دارالاسلام کی رعایا ہو اور اماں نے کہ دارالحرب میں جائے۔

ثانیاً یہ معاملہ صرف ان حرbi کافروں سے کیا جاسکتا ہے جن کے نفوس و اموال مباح ہیں۔

ثالثاً اس طریقہ سے جو مال پیا جائے گا وہ غنیمت نہ ہو گا۔ اس لیے کہ نہ تزوہ اثرت الجہات سے ہے، نہ اس میں دین کا اعزاز ہے، نہ اس میں شخص ہے، بلکہ وہ مجرد اکتساب مال ہے۔ اسی طرح وہ فی بھی نہیں ہے کیونکہ فی حکومت اسلام کی یہاں ہوتی ہے اور یہ مال وہ شخص خود لیتا ہے، بیت المال میں داخل نہیں کرتا۔

رابعاً اس طریقہ سے کفار کا مال لینا صرف جواز قانونی کے درجہ میں ہے، بلکہ جواز کی آخری حد پر ہے، اور اس کی قانونی جیشیت صرف اتنی ہے کہ اگر مسلمان ایسا کرے گا تو امام عاصب کی رائے میں دینا بھی اس کو یہ مال واپس کرنے کا فتویٰ نہ دیا جائے گا، بخلاف مال غدر کے کہ اگرچہ قضاۓ اسے واپس پر مجبور نہ کیا جائے گا مگر دینا اس کو واپس کر دینے کا حکم دیا جائے گا۔

خامسًا مسلمان مسلمان جس طرح دارالحرب کے کافروں سے عقود فاسدہ پر معاملہ کر سکتا ہے اسی طرح وہ وہاں کے مسلمان باشندوں سے بھی ایسا کرنے کا مجاز ہے، ایکوں کہ ان کے اموال بھی مباح ہیں۔ اس کے تو اسے ہم اس سے پہلے درج کر چکے ہیں اور آگے بھی یہ بحث آئی ہے۔

۳۔ دارالکفر اور دارالحرب کی مسلم رعایا

وہ مسلمان جو دارالکفر میں رہیں اور دارالاسلام کی طرف ہجرت نہ کریں اسلام کی حفاظت سے خارج ہیں۔ اگرچہ اسلام کے تمام احکام اور حدود حلال و حرام کی پیروی مذہبی ان پر لازم ہے، لیکن اسلام ان کی ذمہ داری سے بری ہے، جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا ہے۔ غنیمت اور فی میں ان کا سرے سے کوئی حصہ ہی نہیں جیسا کہ بصر احمد حدیث میں مذکور ہے۔ اور دنیوی حیثیت سے ان کے نفوس اموال غیر معصوم ہیں ایکیونکو عصمت مُقْوَمَه ان کو حاصل نہیں۔

اگر ایسے مسلمان "حربی" قوم سے ہوں تو گویا مباح الدم والاموال ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے قاتل پر قصاص کیا معنی دریت بھی نہیں ہے بلکہ بعض مالا استوں کفارہ تک نہیں۔ اس باب میں فقہاء کے چند اقوال ہم بے کم و کاست نقل کر دیتے ہیں جن سے دارالحرب کی مسلمان رعیت کا قانونی مقام آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔

لِرِقِيمَةِ إِلَدَامِ الْمَقِيمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ اسْلَامِهِ قَبْلَ

الْهِجْرَةِ إِلَيْنَا..... أَجْرٌ وَّ أَصْحَابٌ نَّا مَجْرِيُ الْحَرْبِ فِي

إِسْقاطِ الضَّمَانِ عَنِ مُتَلِّفِ مَالِهِ..... مَالَهُ كَمَالُ الْحَرْبِ.

مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلِذِلِكَ أَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ مُبَايِعَتَهُ عَلَى

سَبِيلِ مَا يُجُوزُ مُبَايِعَةُ الْحَرْبِ مِنْ بَيْمِ السَّدَارِ هُمْ

بِالْدِارِ هُمُّنِ في دَارِ الْحَرْبِ۔

رَأْحِلَامُ الْقُرْآنِ لِلْجِنْتِاصِ الْخَنْقِي (ص ۲۹۷)

جو شخص مسلمان ہونے کے بعد ہجرت نہ کرے اور دارالحرب

میں مقام رہے اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں..... ہمارے احباب

نے اس کو حربی کے درجہ میں قرار دیا ہے اس حیثیت سے کہ اس

کے مال کو نقصان پہنچانے والے پر کوئی ضمان نہیں..... اس کا مال

اس لحاظ سے حربی کے مال کی طرح ہے اسی لیے ابو عنیف رحمتہ اس

کے ساتھ بھی خرید و فروخت کی وہ صورت جائز رکھی ہے جو حربی کے ساتھ جائز رکھی ہے، یعنی دارالحرب میں ایک درہم کو دو درہم کے عوض بیننا، یعنی شفود۔
من في دارالحرب في حق من هوى دارالاسلام كالبيت

(المبسوط ج ۰۱ ص ۴۷)

جو شخص دارالحرب میں ہے وہ دارالاسلام واللہ کے لیے گویا
 مرد ہے۔

إِن تُرْسُوا بِأَطْفَالِ الْمُسْكِينِ فَلَا يَأْتِيْكُمْ بِالرُّؤْبِ إِلَيْهِمْ
 فَإِنَّمَا كَانَ الرَّاعِي يَعْلَمُ أَكْثَرُهُ يَصِيمُ الْمُسْلِمُ وَلَا كُفَّارَةَ
 عَلَيْهِ وَلَا دِيَةَ۔ (رايضاص ۴۵)

اگر اہل حرب مسلمانوں کے پھوٹوں کو ڈھال بنائیں تو ان پر نشانہ
 لگانے میں کوئی حرج نہیں اگرچہ نشانہ لگانے والا جانتا ہو کہ مسلمان
 کو نشانہ بنا رہا ہے اس پر مردیت ہے نہ کفار وہ۔

وَإِذَا سَلَمَ الْحَرَبِيُّ فِي دَارِالْحَرَبِ ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ
 عَلَىٰ بَنَلِّيْكَ الدَّارِ تَرَاقَكَهُ مَا فِي يَدَيْهِ مِنْ مَالٍ وَ
 ذَقِيقَهُ وَلِسَادَهُ الصِّفَارِ فَإِمَّا تَعْقَارُهُ فَإِنَّهَا
 تَصْبِيرٌ غَنِيمَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ
 وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ اسْتَحْسِنْ فَاجْعَلْ عَقَارَهُ لَهُ۔

(رايضاص ۴۶)

اگر حربی دارالحرب میں مسلمان ہو پھر اس دارپر مسلمان فتح پائیں تو
 اس کا مال اور اس کے غلام اور اس کے نابالغ بچے سچھوڑ دیئے جائیں
 گے..... مگر اس کی غیر منقولہ جانب اور مسلمانوں کے سیلے غنیمت قرار دی
 جائے گی۔ یہ ابو عنیفہ اور محمد رحمہ کا قول ہے۔ ابو یوسفؑ کہتے ہیں کہ میں
 احسان کے طور پر غیر منقولہ جانب اور بھی اس کے پاس رہنے دوں گا۔

وَأَكْرَهُ الْمُرْجِلَ إِن يطأ أمتَهُ أو امْرَتَهُ فِي دَارِالْحَرْبِ
مَخَافَةً أَن يَكُونَ لَهُ فِيهَا نِسْلٌ لَا تَهْمِمُونَ مِنَ التَّوْطِينِ
فِي دَارِالْحَرْبِ وَإِذَا خَرَجَ رَبِّهَا يَبْقَى لَهُ نِسْلٌ فِيَخْلَقُ.

ولِدَةٌ بِالْخَلَاقِ الْمُشْرِكِينَ۔ (رَايْضَاصُ ۵۸)

امام ابو عینیفہؓ فرماتے ہیں کہ یہیں ایک شخص کے لیے اس کو بھی
مکروہ سمجھتا ہوں گہ وہ دارالحرب یہیں اپنی لوٹھی یا بیوی سے مہاشرت
کرے، خوف ہے کہ کہیں وہاں اس کی نسل نہ پیدا ہو۔ کیوں کہ مسلمانوں
کے لیے دارالحرب کو وطن بنانا منوع ہے..... اور اس لیے
کہ اگر وہ وہاں سے نسل آیا اور اپنی نسل وہاں چھوڑ آیا تو اس کی اولاد
مشرکین کے اخلاق اختیار کرے گی۔

آخری بات جو اس سلسلہ میں ڈرتے ہم بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام
اعظم کی راستے میں دارالحرب کے مسلمان باشندوں کے لیے ایک دوسرے سے
شووڈ کھانا مکروہ ہے، لیکن اگر وہ ایسا معاملہ کریں تو اس کو رد نہ کیا جائے گا۔ اس راستے
سے امام محمدؐ نے بھی اختلاف کیا ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں مسلمانوں کا
مال مخصوص عن التملک بالشَّعْذَادَ ہے، جب مسلمان اس ملک پر فتح پانے کی
صورت میں ان کے مال کو غیرمحت قرار نہیں دے سکتے تو ان دونوں کو ایک دوسرے
کا مال فیضت کے طور پر لینے کا کیا حق ہے۔ لیکن امام ابو عینیفہؓ نے اپنی راستے میں
تائید میں بوقانونی استدلال کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف قانونی حیثیات
کے پیچیرہ اور نازک فروق کو سمجھنے میں امام عاصیب کا تفقہ کس قدر بڑھا ہوا تھا۔ ہم
اس بیان کو لفظ بلطف نقل کرتے ہیں کیوں کہ اس سے اصول قانون کے ایک اہم مسئلے

لے یعنی ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کی لہک محسن (باقر شہیر بن سکتنا کہ وہ اس نے
کسی نہ کسی طور پر اس سے لے لیا ہے۔

پر وشنی پڑتی ہے۔ فرماتے ہیں : -

بِالْإِسْلَامِ قَبْلَ الْأَخْرَازِ تَشْبِهُتُ الْعَصْمَةُ فِي حَقِّ الْأَحَامِ
ذُوْنَ أَحْكَامِ الْأَتْرَى إِنْ أَحْدَهُمَا لَوْأَشْلَفَ مَالَ صَاحِبِهِ
أَوْ نَفْسَهُ لَمْ يَضْمُنْ وَهُوَ أَثْمَمُ فِي ذَالِكَ شَهْدٌ وَأَنَّمَا تَشْبِهُتُ الْعَصْمَةُ
فِي حَقِّ الْأَحَامِ بِالْأَخْرَازِ وَالْأَخْرَازُ بِالْأَدَارِ لَا بِالْبِدَائِينِ
لَا نَدِيْنَ مَا فِيهِمْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَا حَقُّ الْشَّرِيفِ دَوْنَ
مَنْ لَا يَعْتَقِدْ لَا دِبْقَوَةُ الْأَدَارِ يَمْنِعُ عَنْ مَالِهِ مَنْ
يَعْتَقِدُ حَرَمَتْهُ وَمَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ فَبِتُّبُوتِ الْعَصْمَةِ
فِي حَقِّ الْأَثْرَى قَلْمَنْتَانِ يَكْرَهُ لِهِمَا هَذَا الصَّنْبِيرُ وَلِعَدَمِ
الْعَصْمَةِ فِي حَقِّ الْحَكْمِ قُلْمَنْتَانِ يَوْمَ رَانِ بِرِدْ مَا أَخَذَهُ
لَا نَكْلَ وَأَحِيدُ مِنْهُمَا إِنَّمَا يَمْلُكُ مَالَ صَاحِبِهِ بِالْأَخْدِنِ

(المبسوط ج ۲ ص ۵۸)

دارالاسلام کی حفاظت میں آئے سے پہلے مغض اسلام سے بو
عہدت ثابت ہوتی ہے وہ صرف امام کے حق میں ہے مگر احکام میں نہیں
ہے۔ دیکھتے نہیں ہو اگر ان دونوں مسلمانوں میں سے ایک شخص درہرے
کمال یا بیان تعلق کر رہے تو اس پر غمان نہ ہو گا مالانکہ وہ ایسا کرنے میں
گناہ گاہ ہو گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ احکام میں عہدت صرف حدود
دارالاسلام کے اندر ہونے سے ثابت ہوتی ہے اور یہ حفاظت دار
کے ہب سے ہے نہ کہ دین کے سبب سے۔ دین تو حجت شرع کے لحاظ
سے سرف ان لوگوں کو روکتا ہے جو اس پر اعتقاد رکھتے ہوں اور ان
کو نہیں روکتا تو اسے نہ مانتے ہوں۔ بخلاف اس کے دار کی تو سے
آدمی کے مال کی حفاظت اس کے مقابلہ میں بھی کی جاتی ہے جو اس کی
حہمت کا اعتقاد رکھتا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں بھی جو ایسا اعتقاد

نہیں رکھتا۔ پس گناہ ہونے کی حیثیت سے جو عصمت ثابت ہے، اس کی بنا پر ہم نے کہا کہ ان کے لیے یہ فعل کروہ ہے اور قانون کے لحاظ سے عدم عصمت کی بنا پر ہم نے یہ کہا کہ ان کے لیے یہ فعل کروہ ہے اور قانون کے لحاظ سے عدم عصمت کی بنا پر ہم نے یہ کہا کہ اس کا لیا ہوا مال واپس کرنے کا حکم نہ دیا جائے گا۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مال جب لیتا ہے تو محض لے لینے ہی کی وجہ سے اس کا مالک ہو جاتا ہے۔

یہاں امام صاحب نے اسلامی قانون کے تینوں شعبوں کی طرف اشارات کر دیئے ہیں۔ اعتقادی قانون کے لحاظ سے مسلمان کا مال بلا لحاظ اس کے کروہ دار الاسلام میں ہو یا دار الکفر میں یا دار الحرب میں بہر مال معصوم ہے اور اس عصمت کا مآل یہ ہے کہ اس کی بنا پر خدا کے مقرر کیے ہوئے طریقے کے خلافت لینے والا گناہ گار ہو گا۔ دستوری قانون کے لحاظ سے دار الاسلام میں رہنے والے کافر کے مال کو بوصعت حاصل ہے وہ دار الکفر میں رہنے والے مسلمان کو حاصل نہیں اس لیے اگر دار الکفر کا کوئی دوسرا مسلمان اس کو حرام طریقہ سے لے لے تو خدا کے ہاں گناہ گار ہو گا مگر دنیا میں اس پر اسلامی حکم جاری نہ ہو گا۔ تعلقات خارجیہ کے قانون کی نگاہ میں کفار کے درمیان رہنے والے مسلمان اپنے تمدنی حقوق اور واجہت کے لحاظ سے اپنی کافروں کا شریک حال ہے اس لیے وہ بھی اسی طرح نفس اخذ سے مال کا مالک ہوتا ہے۔ جس طرح خود کفار مالک ہوتے ہیں۔ پس اگر اس بنیاد پر دار الکفر میں مسلمان مسلمان سے سود کھائیں یا مسلمان کافر سے اور کافر مسلمان سے سود کھائیں تو وہ انہوں کے مالک تو ہو جائیں گے اور ان کو واپس کرنے کا حکم بھی نہ دیا جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سود کھانے اور کھلانے والے مسلمان گناہ گار نہ ہوں گے۔

قول فیصل

یہاں تک بھتے قانون اسلامی کی جو تفصیلات درج کی یہیں ان سے جناب مولانا مناظر احسن صاحب کے استدلال کی پوری بنیاد منہدم ہو جاتی ہے۔ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ:-

(۱) تمام غیر ملتی کا فرمایا الدم والاموال نہیں ہیں، بلکہ باحت صرف ان کافروں کے خون اور مال کی ہے جو بری چنگ ہوں۔ لفظ اگر سود لینا اور عقود فاسدہ پر معاملہ کرنا بات ہے تو صرف بری چنگ کافروں کے ساتھ ہے۔ اور ایسا کرنے کا حق صرف ان مسلمانوں کو پہنچتا ہے جو دارالاسلام کی رعیت ہوں، جن کے مددار نے کسی دارالکفر کو دارالحرب قرار دیا ہو، اور جو دارالحرب یہیں امان لے کر تجارت وغیرہ اغراض کے لیے داخل ہوئے ہوں۔

(۲) دارالکفر اول تو ہر حال میں دارالحرب نہیں ہوتا، اور اگر اعتقادی کے لحاظ سے وہ دارالحرب سمجھا جائے تو اس کے مدارج مختلف ہیں اور ہر درجہ کے احکام اگل اگل ہیں۔ ایک ہی معنی میں تمام غیر اسلامی مقبوظات کو دارالحرب سمجھنا، اور ان میں علی الدوام وہ احکام جاری کرنا جو خاص حالت چنگ کے لیے ہیں، قانون اسلامی کی اپرٹ ہی کے نہیں بلکہ صریح ہدایات کے بھی خلاف ہے اور اس کے نتائج نہایت خطرناک ہیں۔ باحت نقوص و اموال کی بنیا پر جو جزئیات متفرع ہوتے ہیں، وہ صرف اُسی زمانہ تک ناقدرہ سکتے ہیں جب تک کسی دارالکفر کے ساتھ حالت چنگ قائم رہے۔ پھر ان تمام احکام کا تعلق خود دارالحرب کی مسلمان رعایا سے نہیں ہے بلکہ اُس دارالاسلام کی رعایا سے ہے جو اس دارالحرب کے ساتھ بری چنگ ہو۔

(۳) ہندوستان عام معنی میں اس وقت سے دارالکفر ہو گیا ہے جب سے

لہ قبل تقیم کے ہندوستان کا ذکر ہے۔

مسلم حکومت کا یہاں استعمال ہوا۔ جس زمانہ میں شاہ جنگ العزیز صاحب نے جواز سود کا فتویٰ دیا تھا، اس زمانہ میں واقعی یہ مسلمان ہند کے لیے دارالحرب تھا، اس لیے کہ انگریزی قوم مسلمانوں کی حکومت کو مٹانے کے لیے جنگ کر رہی تھی جب اس کا استیلاد مکمل ہو گیا اور مسلمانان ہند نے اس کی غلامی قبول کر لی تو یہ ان کے لیے دارالحرب نہیں رہا۔ لیکن وقت میں یہ افغانستان کے مسلمانوں کے دارالحرب تھا۔ ایک زمانہ میں ترکوں کے لیے دارالحرب ہوا۔ مگر اب یہ تمام مسلمان حکومتوں کے لیے دارالصلح ہے۔ لہذا مسلمان حکومتوں کی رعایا یہی سے کوئی شخص یہاں سود کھانے اور عقود فاسدہ پر معاملہ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ البتہ سرحد کے بعض آزاد قبائل اس کو اپنے لیے دارالحرب سمجھ سکتے ہیں اور اگر وہ یہاں عقود فاسدہ پر معاملات کریں تو حصی قانون کی رو سے ان کے فعل کو جائز کہا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ جواز بعض قانونی جوانہ ہے۔ خدا کی نظر میں وہ مسلمان ہرگز مقبول نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو اور پھر سود خواہی سے، یعنی فردشی سے، تمازج بازی سے سور کے گوشت اور مردار چیزوں کی تجارت سے اسلام کو غیر قانونی کے سامنے خوار بھی کرتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے قرض دار بھائی کو گرفتار کر لئے اور سویں چیل بھجواد سے، در آں حاکم اسے معلوم ہو کہ اس کے قبضہ میں درحقیقت کچھ نہیں ہے اور اس کے بچے بھوکوں مر جائیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرض خواہ کو ایسا کرنے کا حق ہے، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے قانونی جواز کی حد میں کر رہا ہے۔ مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ قانونی جواز کی حد میں کر رہا ہے۔ مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ قانونی جواز کی بالکل آخری سرحد ہے، اور جو انسان قانون کی آخری سرحدوں پر رہتا ہے وہ بسا اوقات جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔

(۲) ہندوستانی مسلمانوں کی حیثیت ہرگز وہ نہیں ہے جس کے لیے فقیہ زبان میں "متامن" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ متامن کے لیے سہی شرط دارالاسلام

کی رعایا ہوتا ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ دارالحرب میں اس کا قیام ایک قلیل مدت کے لیے ہو جنپی قانون میں تربی متامن کے لیے دارالاسلام کے اندر رہنے کی زیادت سے زیادہ مدت ایک سال یا اس سے کچھ زیادہ رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ قانون تبدیل جنیت (Law of Naturalisation) کی رو سے اس کو ذقی بنا لیتا ہے۔ اسی پر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ مسلمان متامن کے لیے دارالحرب میں قیام کرنے کی مدت سال دو سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اسلامی شریعت جو مسلمانوں کو دارالاسلام میں سینٹھنے اور کافروں کو ذقی بنانے کے لیے سب سے زیادہ حرجیں ہے، کبھی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی شخص دارالحرب کو اپنا وطن بنانے اور وہاں سلوک پر قبولیں پیدا کرتا رہے اور اس جنیت میں زندگی بسر کرتا چلا جائے جو متامن کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ پھر جب بیر ایک شخص کے حق میں جائز نہیں تو کروڑوں مسلمانوں کی عظیم الشان آبادی کے لیے کب جائز ہو سکتا ہے کہ قرون تک "متامن" کی سی زندگی بسر کرے اور ایک طرف ان اباحتوں سے فائدہ اٹھاتی رہے جو حالت "آسمان" کے لیے عام رضی طور پر منتشر افراد کو محض جنگی ضروریات کے لیے دی گئی تھیں اور دوسری طرف وہ تمام قیود اپنے اور پر عاید کرے جو متامن کو عام رضی طور پر اسلامی قانون کی پابندی سے آزاد کر کے کفار کے قوانین کا پابند بناتی ہیں۔

(۵) مسلمانان ہند کی صحیح قانونی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ایک ایسی قوم ہیں جن پر کفار متولی ہو گئے ہیں۔ ان کا دار بوجہی دارالاسلام تھا، اب دارالکفرین گیا ہے، مگر دارالاسلام کے کچھ آثار بھی باقی ہیں۔ — ان کا فرض یہ ہے۔ تو اسی دارالاسلام میں منتقل ہو جائیں، یا اگر اس پر قادر نہیں ہیں تو اس ملک میں جو اسلامی آثار باقی ہیں ان کی سختی کے ساتھ حفاظت کریں اور جتنی تباہی ممکن ہوں وہ سب اس سے دوبارہ دارالاسلام بنانے میں صرف کرتے رہیں۔ احکام کفر کے تحت بوزندگی وہ بسر کر رہے ہیں۔ اس کا ہر سانس ایک گناہ ہے — اب کیا باقی ماندہ آثار اسلامی کو

بھی مثاکرہ اس گناہ میں مزید اضافہ کرنا منظور ہے؟

<u>د ترجمان القرآن ر معنان شہرہ</u> <u>ذی القعده شہرہ</u>	<u>د سپتامبر شہرہ</u> <u>فروری شہرہ</u>
--	--
